

دخیره الحمان

فہم القرآن

افادات

شيخ الحدیث والتفسیر
رحمۃ اللہ علیہ

مولانا محمد سرفراز خان صفدر

www.besturdubooks.net

☆ ناشر ☆

میر محمد لقمان برادران

سٹیلائیٹ ٹاؤن گوجرانوالہ

خَيْرَةُ الْجَانِّ

فَهْمُ الْقَلْبِ

افادات

امام اہلسنت حضرت شیخ الحدیث و التفسیر

مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ

جمع و ترتیب

www.besturdubooks.net

نظر ثانی

مولانا محمد نواز بلوچ
فاضل مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

مولانا علامہ زاہد الراشدی
شیخ الحدیث مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

لَقْمَانُ اللَّهِ مَيِّرُ بَرَادِرَانِ

سیٹلائٹ ٹاؤن - گوجرانوالہ

ناشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

سورۃ الفاتحہ

(پہلا پارہ مکمل)

جلد ۱

افادات

شیخ الحدیث والتفسیر

حضرت مولانا محمد رفیع خان صاحب مدظلہ العالی

خطیب مرکزی جامع مسجد المعروف بوہڑوالی گلگت گوجرانوالہ پاکستان

جُمْلہ حَقُوقِ بِحَقِّ نَاشِرِ مَحْفُوظ

- نام کتاب ————— "ذخیرۃ البچان فی فہم القرآن"
- از افادات ————— شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر دامتہ برکاتہم
- مرتب ————— مولانا محمد نواز بلوچ فاضل مدرسہ نصیرۃ العلوم، گوجرانوالہ
- نظر ثانی ————— حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی
- ناشر ————— میر محمد لقمان، بردران، سیٹلائٹ ٹاؤن، گوجرانوالہ
- سرورق کتابت ————— محمد خاور بٹ (کاتب قرآن) کھوکھر کی، گوجرانوالہ
- تعداد ————— گیارہ سو (۱۱۰۰)
- قیمت ————— ۳۰۰ روپے
- تاریخِ نطبعِ اوّل ————— ربیع الاول ۱۴۲۳ھ، بمطابق مئی ۲۰۰۲ء
- تاریخِ نطبعِ دوئم ————— شعبان ۱۴۲۷ھ، بمطابق ستمبر ۲۰۰۶ء

مِلنے کے پتے

- ✦ مدرسہ ریحان المدارس، جناح روڈ، مغلیہ پورہ، گوجرانوالہ
- ✦ معارف اسلامیہ اکیڈمی، نت کلاں روڈ، گلکھڑ، گوجرانوالہ
- ✦ مکتبہ مجددیہ الکریم مارکیٹ، لاہور
- ✦ والی کتاب گھر، اردو بازار، گوجرانوالہ

پیش لفظ

نحمدہ کا تبارک و تعالیٰ ونصلیٰ ونسلم علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ

الہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین

شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی قدس سرہ العزیز برصغیر پاک و ہند
بمگلہ ویش کو فرنگی استعمار سے آزادی دلانے کی جدوجہد میں گرفتار ہو کر مالٹا جزیرے
میں تقریباً ساڑھے تین سال نظر بند رہے اور ربڑی کے بعد جب دیوبند واپس
پہنچے تو انہوں نے اپنے زندگی بھر کے تجربات اور جدوجہد کا نچوڑ بیان کرتے
ہوئے فرمایا کہ میرے نزدیک مسلمانوں کے ادبار و زوال کے دو بڑے اسباب
ہیں۔ ایک قرآن پاک سے دُوری اور دوسرا باہمی اختلافات و تنازعات اس
لیے مسلم اُمہ کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن
کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے اور مسلمانوں میں باہمی اتحاد و مفاہمت کو فروغ
دینے کے لیے محنت کی جائے۔

حضرت شیخ الہندؒ کا یہ بڑھاپے اور ضعف کا زمانہ تھا اور اس کے بعد
جلد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کے تلامذہ اور خوشہ چینوں نے اس نصیحت
کو پتے باندھا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے
نئے جذبہ و لگن کے ساتھ مصروف عمل ہو گئے۔ اس سے قبل حکیم الامت حضرت
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے عظیم المرتبت فرزندوں حضرت

شاہ عبدالعزیزؒ، حضرت شاہ عبدالقادرؒ اور حضرت شاہ رفیع الدینؒ نے قرآن کریم کے فارسی اور اردو میں تراجم اور تفسیریں کر کے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا قرآن کریم کے ساتھ فہم و شعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر وہ کفر و ضلالت کے حملوں اور گمراہ کن افکار و نظریات کی بلنار سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے جب کہ حضرت شیخ الحدیث کے تلامذہ اور خوشہنویوں کی یہ جدوجہد بھی اسی کا تسلسل تھی۔ بالخصوص پنجاب میں بدعات و اداہم کے سراب کے پیچھے بھاگتے چلے جانے والے ضعیف العقیدہ مسلمانوں کی خلاف ورزیوں کی دلدل سے نکال کر قرآن و سنت کی تعلیمات سے براہ راست روشناس کرانا بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ لیکن اس کے لیے جن ارباب عزیمت نے عزم ہمت سے کام لیا اور کسی مخالفت اور طعن و تشنیع کی پروا کیے بغیر قرآن کریم کو عام لوگوں کی زبان میں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ان میں امام الموعودین حضرت مولانا حسین علی قدس سرہ العزیز آف واں پھراں ضلع میانوالی شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری قدس سرہ العزیز اور حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ کے اسماعیلی گرامی سر فرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علاقائی زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر سے عام مسلمانوں کو روشناس کرانے کی ہم شروع کی جب عام سطح پر اس کا تصور بھی موجود نہیں تھا مگر ان ارباب ہمت کے عزم و استقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول و عرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کو شمار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں نے ۱۹۴۳ء میں گکھڑی جامع مسجد بوسہڑ والی میں صبح نماز کے بعد روزانہ درس قرآن کریم کا آغاز کیا اور جب تک صحت نے اجازت دی۔ کم و بیش پچیس برس تک اس سلسلہ کو پورنی پابندی کے ساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سعید حسین احمد ملتان

سے اور ترجمہ و تفسیر میں امام الموحدین حضرت مولانا حسین علیؑ سے شرف تلمذ و اجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب و طرز پر انہوں نے زندگی بھر اپنے تلامذہ اور خوشہ چینیوں کو قرآن و حدیث کے علوم و تعلیمات سے بہرہ ور کرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے درس قرآن کریم کے چار الگ الگ حلقے رہے ہیں۔ ایک درس بالکل عوامی سطح کا تھا جو صبح نماز فجر کے بعد مسجد میں ٹھہرے پنجابی زبان میں ہوتا تھا۔ دوسرا حلقہ گورنمنٹ نارمل سکول گکھڑ میں جدید تعلیمی حضرات کے لیے تھا جو سالہا سال جاری رہا۔ تیسرا حلقہ مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالہ میں متوسط اور منتهی درجہ کے طلبہ کے لیے ہوتا تھا اور دو سال میں مکمل ہوتا تھا اور چوتھا مدرسہ نصرۃ العلوم میں ۷۶ء کے بعد شعبان اور رمضان کی تعطیلات کے دوران دورہ تفسیر کی طرز پر تھا جو پچیس برس تک پابندی سے ہوتا رہا اور اس کا دورانیہ تقریباً ڈیڑھ ماہ کا ہوتا تھا۔ ان چاروں حلقے ہائے درس کا اپنا اپنا رنگ تھا اور ہر درس میں مخاطبین کی ذہنی سطح اور فہم کے لحاظ سے قرآنی علوم و معارف کے موٹی ان کے دامن قلب و ذہن میں منتقل ہوتے چلے جاتے تھے۔ ان چاروں حلقے ہائے درس میں جن علماء کرام، طلبہ، جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں اور عام مسلمانوں نے حضرت شیخ الحدیث مدظلہ سے بہرہ مستفادہ کیا ہے ان کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق چالیس ہزار سے زائد بنتی ہے۔ وذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کے لیے جامع مسجد گکھڑ والا درس قرآن کریم زیادہ تفصیلی اور عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں متعدد حضرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض مرتبہ عملی گوشہ نشین کا آغاز بھی ہوا کہ اسے قلمبند کر کے شائع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں لیکن اس میں سب سے بڑھی رکاوٹ یہ تھی کہ درس خالص پنجابی میں ہوتا تھا جو اگرچہ پورے

پورا ٹینپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ ہو چکا ہے مگر اسے پنجابی سے اردو میں منتقل کرنا سب سے کٹھن مرحلہ تھا اس لیے بہت سی خواہشیں بلکہ کوششیں اس مرحلہ پر آ کر دم توڑ گئیں۔

البتہ ہر کام کا قدرت کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کی سعادت بھی قدرتِ خداوندی کی طرف سے طے شدہ ہوتی ہے اس لیے تاخیر و تاخیر کے بعد یہ صورت سامنے آئی کہ اب مولانا محمد نواز بلوچ فاضل مدثر نصرۃ العلوم اور برادر محمد لقمان میر صاحب نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود اس کا آغاز بھی کر دیا ہے جس پر دونوں حضرات اور ان کے دیگر رفقاء نہ صرف حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے تلامذہ اور خوشہ چینیوں بلکہ ہمارے پورے خاندان کی طرف سے بھی ہدیہ تشکر و تبریک کے مستحق ہیں۔ خدا کرے کہ وہ اس فرضِ کفایہ کی سعادت کو تکمیل تک پہنچا سکیں اور ان کی یہ مبارک سعی قرآنی تعلیمات کے فروغ، حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے افادات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے اور ان گنت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور بارگاہِ ایزدی میں قبولیت سے سرفراز ہو۔

یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ یہ درس کی کتابیں ہیں اور درس و خطاب کا انداز تحریر سے مختلف ہوتا ہے اس لیے بعض جگہ تکرار نظر آئے گا جو درس و بیان کے لوازمات میں سے ہے لہذا قارئین سے گزارش ہے کہ اسکو ملحوظ رکھا جائے اسکے ساتھ ہی ان درس کے ذریعے محفوظ کرنے میں محمد اقبال آف وی بی اور محمد سرور منہاس آف گھٹ کی مسلسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کو ریکارڈ کرنے کے لیے سالہا سال تک پابندی کے ساتھ خدمت سرانجام دی اللہ تعالیٰ انہیں جزاءِ خیر سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین

ابوعمار زاہد الرشیدی
خطیب جامع مسجد مرکزی گوالیار

یکم مارچ ۲۰۲۰ء

شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد رفیع صاحب برکاتہم

نحمدہ و نصلی و نسلہ علی رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم "العلماء ورثة الانبیاء" کے مطابق ناقیام قیامت علماء حق کی ایک ایسی جماعت کا وجود ضروری و ناگزیر ہے جو نسل انسانی کی اعتقادی اصلاح اور فکری نشوونما کے لیے جدوجہد کرتی رہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت علمی کی تقسیم کے لیے اپنی تمام جسمانی توانائیاں اور علمی و فکری صلاحیتیں صرف کر دے، کیونکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہونے کی بنا پر تمام تر تبلیغی ذمہ داریاں علماء حق کے کندھوں پر ہیں اور علماء حق نے اپنی ان شرعی اور ملی ذمہ داریوں کو کما حقہ نبھا کر امت مسلمہ پر جو احسان عظیم کیا ہے وہ تاریخ اسلامی کا ایک روشن اور سنہری باب ہے۔ علماء حق کے اس مقدس قافلہ علم و عمل کا یوں تو ہر فرد گوہر یکتا کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس کاروان زہد و اتقا کے کچھ میر کارواں ایسے بھی گزرے ہیں جو دین و ملت کے لیے اپنی ذات میں انجمن و ادارہ تھے، ان کی تقریری و تحریری اور دینی و ملی خدمات اس قدر ہیں کہ ان کے پیش نظر باسانی یہ فیصلہ کرنا محال ہے کہ یہ خدمات فرد کی ہیں یا جماعت کی۔

اس قافلہ علم و عمل اور کاروان زہد و اتقا کے ایک میر کارواں عصر حاضر کے جید عالم دین، فقیہ العصر، محدث اعظم پاکستان، شیخ القرآن و الحدیث حضرت مولانا محمد رفیع صاحب برکاتہم کی ذات گرامی ہے۔ شیخ الحدیث صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، کیونکہ ان کا شمار عصر حاضر کی ان نابغہ روزگار مسیتوں میں ہوتا ہے۔

جن کے علم و عمل زہد و تقویٰ اور شرافت و دیانت پر بلا خوف تردد و اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ بے لوث خدمات اور بے داغ کردار کی بنا پر وہ علمی ادبی اور عوامی حلقوں میں یکساں طور پر ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔

پیدائش: آپ ۱۹۱۴ء میں ضلع ہزارہ تحصیل مانسہرہ (موجودہ ضلع مانسہرہ) کی ایک غیر معروف بستی ڈھکی چیراں داخلی "کرہ منگ بالا" کے ایک متوسط گھرانہ میں جناب نور احمد خان بن گل احمد خان کے گھر پیدا ہوئے۔ قومیت کے اعتبار سے سوانی (پٹھان) ہیں۔ اس وقت غالباً کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر عزم استقلال کی چٹان بن کر خداوندانِ ظلم و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہو گا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ بچہ علم و عمل کا آفتاب بن کر سرزمین ہند و پاک کو اپنی روشن کرنوں سے منور کرے گا۔ کسی کو علم نہ تھا کہ اس بچہ کے سینہ میں قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر اور علوم اسلامیہ کے ٹھکانے مارتے ہوئے سمندر موجزن ہوں گے، اور ہزاروں انسان بالواسطہ یا بلاواسطہ اس کے علم کے نور سے روشنی پائیں گے۔ لیکن تقدیر اس بچہ کے مستقبل پر رشک کر رہی تھی۔

ابتدائی تعلیم: آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی جو ناظرہ قرآن پاک اور سکول کی چند کلاسوں تک محدود تھی۔ اور گھر کے دیہاتی اور پہاڑی ماحول میں اس سے زیادہ تعلیم کا انتظام نہ تھا جس کی وجہ سے زیادہ تر وقت پہاڑی محل کے مطابق بھیڑ بکریاں چرانے میں گزرتا، لیکن آپ کے قلب و فکر میں توفیرتاً اس تعلیم کے تصورات غالب تھے جسے تعلیم کے ذریعے آپ نے انسانی افکار کی تسکین اور انسانی قلوب کی آبیاری کرنا تھی۔ انسانیت کو گمراہی کی تاریکیوں سے نجات دلا کر ہدایت کی روشنی سے منور کرنا تھا۔ نسل انسانی کو شرک و بدعات کی آلودگیوں سے پاک کر کے توحید و سنت کے پاکیزہ تصورات کی طرف اس کی

راہنمائی کرنا تھی۔ معاشرہ کی رسوماتِ باطلہ کے خلاف علمِ بغاوت بلند کر کے اسکی جگہ اسلامی معاشرہ کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا تھی اور خداوندانِ ظلم و استبداد کو عدل و انصاف کا پیغام دینا تھا۔

دینی تعلیم کے لیے سفر

بچپن میں ہی والدہ محترمہ اور والد محترم کا انتقال ہو گیا اور تعلیم میں آگے بڑھنے کا اظہار کوئی امکان باقی نہ رہا۔

تو کسی نیک دل بزرگ نے انہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی کو دینی تعلیم کے لیے دینی مدرسہ کا رخ کرنے کا مشورہ دیا اور آبابی گاؤں کے قریب قصبہ بفر میں حضرت مولانا غلام غوث ہزارویؒ کے مدرسہ میں پہنچا دیا جہاں کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیالکوٹ، ملتان، کوئٹہ وغیرہ کے مدارس میں درس نظامی کی ابتدائی کتب کی تعلیم حاصل کی، لیکن دل ابھی ذوقِ تعلیم سے سیراب نہ ہوا، مزید تعلیم کے لیے گوجرانوالہ کی قدیم دینی درسگاہ مدرسہ انوار العلوم جامع مسجد شیرانوالہ باغ گوجرانوالہ میں داخلہ لیا اور حضرت مولانا عبدالقدیر رحمہ اللہ سے مزید تعلیم حاصل کی۔ آپ کا فرمان ہے کہ میرا تعلیمی ذوق و شوق اور علمی استعداد استاد محترم حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ کی خصوصی شفقت اور توجہ کی مرہونِ منت ہے اور اکثر و بیشتر کتب آپ نے مولانا عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ سے ہی پڑھیں۔ مولانا رحمہ اللہ کی ایک خصوصی شفقت آپ پر یہ بھی تھی کہ طالبِ علمی کے زمانہ میں ہی جو کتب پڑھائیں۔ وہ اپنی نگرانی میں آپ سے طلباء کو پڑھواتے یعنی مہربان استاد کی شفقت و توجہ اور خصوصی نگرانی میں قابل و ہونہار شاگرد اپنی علمی فکری استعداد کی خصوصی نشوونما کے لیے تعلیم و تدریس کے ابتدائی مراحل یکساں طور پر طے کرتا رہا۔ مہربان استاد کی خصوصی توجہ کے اثرات جو آپ کی تدریسی زندگی میں موثر ہوئے ان کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جن کو ان حالات سے واسطہ پڑا ہو۔ اس لیے جب بھی حضرت مولانا عبدالقدیر صاحبؒ آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ اپنے تمام معمولات (جن کو عام حالات میں ترک کرنا تقریباً ناممکن ہوتا تھا)

ترک کر کے ہمہ وقت اُستادِ محترم کی خدمت میں مصروف رہتے۔ آپ کے برادرِ خورد حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب سوانی مدظلہ (مہتمم و بانی مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالہ) بھی آپ کے ساتھ زیرِ تعلیم تھے لیکن اسباق میں آپ سے دو سال پیچھے تھے۔ آپ نے تکمیل کے لیے عالم اسلام کی شہرہ آفاق یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند جانا تھا لیکن شوق تھا کہ دونوں بھائی اکٹھے تکمیل کریں چنانچہ اس شوق میں تکمیل یعنی دورہ حدیث کو دو سال کے لیے مؤخر کر دیا۔ اور اسی دوران اُستادِ محترم کے حکم و شفقت کی تعمیل میں مدرسہ انوار العلوم گوجرانوالہ ہی میں اُستادِ محترم کی زیرِ نگرانی تدریس کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ اور پھر ۱۹۴۰ء میں تکمیل کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے جہاں آپ نے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسنین احمدی نور اللہ مرقدہ سے ۱۹۴۱ء میں سند فراغت حاصل کی۔ قیام دارالعلوم دیوبند کے دوران آپ نے جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ان میں شیخ الادب حضرت مولانا اعجاز علیؒ مولانا محمد ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع وغیرم کے اسما گرامی نمایاں ہیں۔

سیرت و صورت کے خدو خال: وسعت مطالعہ، ذہانت و

فطانت اور فکر و تدبیر کے اعتبار سے بے مثل، ظاہر و باطن میں یکساں، سنجیدگی ان کی خوبی، علم ان کا کمال، عمل ان کا جمال، شرافت ان کا وقار اور سادگی ان کا شعار، گفتار اور کردار کی پختگی ان کے اسلامی افکار کی ترجمان ہے، لباس میں سادگی، انداز میں اپنائیت، چہرے پر نورانیت، افکار میں بلندی، آواز میں پستی، گفتگو میں عطا و ارادوں میں سختی اور عزم میں پختگی کسی دیکھنے والے کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتی، کلام و طعام، نشست و برخاست اور سیرت و صورت میں دیکھنے والے کو سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے۔ زندگی عاجزانہ، چال باوقار، مزاج عارفانہ انداز نا صحانہ اور کلام عالمانہ سننے والے کی دل کی گہرائیوں میں اُترتا چلا جاتا ہے مغضوب بن



کی طرح عزم بھی قومی بڑھاپے میں بھی ارادے جوان اور اس پر بیماریوں کا سیبل رواں لیکن
کوئی چیز ان کے عزم و استقلال کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی۔

روحانی سلسلہ: علمی و فکری صلاحیتیں اور قابلیتیں اپنے مقام پر لیکن واردات

نفسانی اور دساوس شیطانی سے پوری طرح تحفظ حاصل کرنے کے لیے کسی
مرشدِ کامل کے دامنِ محبت و عقیدت سے وابستگی ضروری و ناگزیر ہے۔ جیہ
مستند اساتذہ سے تحصیل و تکمیل کے بعد آپ کو کسی مرشدِ کامل کی تلاش ہوئی جس
کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ اپنے لیے روحانی تسکین کا سامان فراہم کر سکیں۔

انہی دنوں پنجاب میں رئیس الموحدین، سرتاج المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب
نور اللہ مرقدہ (واں پھراں ضلع میانوالی) کے دورہ قرآن کا غلغلہ مچا ہوا تھا اور ہزاروں

شائقینِ علوم قرآنیہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس دورہ تفسیر قرآن میں
شرکت کرتے۔ آپ بھی یہی شوق لے کر ان کے دورہ تفسیر قرآن میں شرکت

کے لیے تشریف لے گئے اور دیدہ و دل ان کی اتباع سنت میں ڈوبی ہوئی
زندگی پر نچھاور و قربان کر کے چلے آئے۔ نقشبندی سلسلہ میں ان سے بیعت کی۔

مرشدِ کامل نے بھی اپنی ایمانی فراست سے اس جوہرِ قابل کو پہچاننے میں تاخیر
نہ کی۔ اور خلعتِ خلافت سے سرفراز فرمایا۔

مرشدِ کامل کے ساتھ آپ کے انتہائی قلبی تعلق و محبت کا اندازہ اس وقت
ہوتا ہے جب سبق کے دوران مرشدِ کامل کا نام آجائے آپ انتہائی عقیدت

محبت کے ساتھ مرشدِ کامل کا تذکرہ فرماتے ہیں، یعنی ہمارے حضرت نے
یہ فرمایا، ہمارے حضرت نے اس کی تفسیر اس طرح کی، ہمارے حضرت نے

اس کا ربط اس طرح بیان کیا، غرضیکہ آپ کے انفاظ اور انداز میں مرشدِ کامل کے
ساتھ جس سچی اور والہانہ عقیدت کا اظہار نمایاں ہوتا ہے ان سے سننے والا باسانی

آپ کی ولی کیفیت کا اندازہ کر سکتا ہے۔

سلسلہ مریدین : مرشدِ کامل سے خلعتِ خلافت حاصل ہونے کے باوجود بیعت کا سلسلہ بہت محدود پیمانہ پر رکھا ہے بلکہ اکثر و بیشتر بیعت کرنے سے انکار فرمادیتے ہیں۔ کسی کی طرف سے بیعت پر بہت زیادہ اصرار ہو تو بیعت فرماتے ہیں ورنہ انکار فرمادیتے ہیں۔ پیشہ وریوں کی طرح نہ لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دیتے ہیں اور نہ مریدین کی فرستیں تیار کرتے ہیں اور بیعت کا طریقہ بھی انتہائی مختصر اور سادہ ہے۔ عام پیروں کی طرح پُر تکلف اور طویل نہیں، مثلاً بیعت کے الفاظ عموماً یہ ہوتے ہیں: "میں شرک و بدعت سے توبہ کرتا ہوں اور امر کے بجالانے اور نواہی سے اجتناب کی پوری کوشش کا وعدہ کرتا ہوں" یا مخصوص نماز کی پابندی کا وعدہ کرتا ہوں" یہی وہ مختصر سے الفاظ بیعت ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی عقیدت مند آپ کے حلقہ بیعت میں شریک ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ سے مرشدِ کامل کے ذریعے حاصل ہونے والے نقشبندی وظائف و اوراد بتاتے ہیں اور ان کی تلقین فرماتے ہیں۔

مریدین کے ساتھ سلوک : عام پیروں کی طرح مریدین کے گھروں کا

مالانہ سالانہ چکر نہیں لگاتے۔ مریدین سے نذرانہ وصول کرنے کے لیے ان کا اجتماع طلب نہیں فرماتے حتیٰ کہ مریدین کو تحائف وغیرہ لانے سے سختی کے ساتھ منع فرماتے اور ایسا کوئی ہدیہ قبول نہیں فرماتے جو ان کے علم کے مطابق مریدین کے لیے تکلف کا باعث ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے غریب اور نادار مریدین کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی جیب سے کرایہ اور سفر خرچ وغیرہ دیتے ہیں مریدین کی تعداد اگرچہ ہزاروں سے متجاوز ہے مگر چونکہ ان کا کوئی سالانہ اجتماع وغیرہ نہیں ہوتا اور نہ اپنے مریدین کی نمائش ان کا مقصود ہے۔ اس لیے بظاہر ان کا حلقہ مریدین بہت قلیل معلوم ہوتا ہے۔

تعویز اور دم کی عام اجازت : آپ اپنے تعویزات اور دم کی

دعاؤں کو دوسرے پیروں کی طرح سنبھال کر نہیں رکھتے بلکہ اپنے تلامذہ کو اپنے تعویزات کی عام اجازت دیتے ہیں۔ بشرط صرف یہ ہوتی ہے کہ تین روزے رکھیں نماز کی پابندی کریں اور معاصی سے بچنے کی مقدور بھر کوشش کریں۔

معمولات میں استقامت : جب تک صحت نے اجازت دی

اپنی ڈیوٹی اور معمول میں حتی الوسع ناغہ نہیں کرتے تھے اور نہ تاخیر کرتے تھے۔ کالج ڈیوٹی میں ایک دفعہ لڑکوں نے سوال کیا کہ آپ کبھی ناغہ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا ہاں۔ جب یہاں موجود نہ ہوں یا ایسا بخار ہو جائے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہوں۔ اور واقعتاً تیز بارش میں بھی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ درس کا عموماً ناغہ نہ کرتے۔ اگر باہر کہیں تبلیغی سلسلہ میں جانا ہو تو یہی شرط ہوتی کہ رات کو واپسی ہوگی تاکہ صبح کا درس اور اسباق کا ناغہ نہ ہو۔ ۱۹۵۴ء سے مدرسہ نصرت العلوم میں تدریس کے فرائض سرانجام دینا شروع کیے۔ ۱۹۷۷ء میں مدرسہ کی طرف سے آپ کو لانے اور چھوڑنے کے لیے گاڑی خریدی گئی۔ اس دوران تقریباً بائیس سال تک وہ بس یا ریل کے ذریعے ملحق پڑھانے کے لیے گھر سے گوجرانوالہ جاتے رہے۔ اس دوران آپ کے معمولات میں استقامت کا یہی عالم تھا۔ بسا اوقات ایسا منظر بھی دیکھنے میں آتا کہ تیز بارش کی وجہ سے طلباء یقینی چھٹی سمجھ کر گروں میں آرام کرنے لگتے، لیکن آپ کی آمد کی اطلاع کی گھنٹی طلباء کو نیند اور آرام سے جھنجھوڑ ڈالتی۔ بے یقینی کے عالم میں گروں سے باہر نکل کر دیکھتے تو آپ چھتری یا تھم میں لیے مدرسہ میں موجود ہوتے معمولات میں استقامت آپ کی خصوصی انفرادیت ہے۔ آج کے دور میں معمولات کی یہ استقامت تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی۔

معمولات : وہ کون سے معمولات ہیں جن میں استقامت آپ کا طرہ امتیاز رہی ہے۔ رات کو نماز عشاء کے بعد جلدی سو جانا آپ کا معمول ہے۔ اگر گھر میں موجود ہوں اور کوئی مجبوری (ہمانوں وغیرہ کی) نہ ہو تو اس معمول میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی صبح تہجد کے لیے بیدار ہونا، اذان کے بعد نماز سے پہلے ناشتہ کر لینا۔ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جانا، درس دینا اور درس سے فارغ ہو کر اسباق پڑھانے کے لیے گوجرانوالہ چلے جانا، اسباق سے فارغ ہو کر دوپہر کے وقت واپس آنا، کھانا کھا کر قبیلہ کرنا۔ ظہر کی نماز پڑھا کر بچیوں کو اسباق پڑھانا جو وقتاً فوقتاً آپ کے زیرِ درس رہتی تھیں اور گھر کی بہت سی بچیوں نے آپ سے براہِ راست درس نظامی کے مختلف اسباق اس طرح پڑھے ہیں۔ ہمانوں کے پاس بیٹھنا اور تصنیفی کام کرنا، عصر کی نماز کے بعد اپنی (قرآن پاک کی) منزل پڑھنا، تصنیفی کام کرنا اور مقامی تعویذ کرانے والوں کے لیے تعویذ کرنا۔ نماز مغرب کے بعد کھانا کھانا اور تعویذ وغیرہ کرنا، نماز عشاء کے بعد آرام کرنا۔

جب تک صحت نے اجازت دی معمولات کا یہ تسلسل قائم رہا اور جوں جوں عمر، ضعف اور علالت میں اضافہ ہوتا گیا بتدریج ان معمولات کا متاثر ہونا بھی فطری بات تھی۔

پابندی وقت : آپ کی پابندی وقت ضرب المثل رہی ہے۔ نماز کے مقررہ وقت سے ایک منٹ پہلے آپ مسجد میں موجود ہوتے۔ امامت کے فرائض خود سرانجام دیتے درس کے لیے نصف گھنٹہ مقرر ہے اس میں ایک منٹ کی بھی کمی رہی نہیں ہوتی تھی۔ اسباق میں بھی پابندی وقت کا پورا لحاظ ہوتا۔ پابندی وقت پر آپ ایک لطیفہ سنایا کرتے ہیں کہ استاذ محترم حضرت مولانا مفتی عبدالواحد رحمہ اللہ نے ایک دفعہ مجھے جامع مسجد شیرانوالہ باغ گوجرانوالہ میں درس دینے کا حکم فرمایا

میں ان کے حکم پر درس دینے کے لیے چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ درس دیتا رہا۔ جو مضمون میں نے شروع کیا تھا وہ وقت سے دو منٹ پہلے ختم ہو گیا، لہذا میں نے درس ختم کر دیا۔ ایک آدمی فوراً بولا کہ ابھی وقت ختم ہونے میں دو منٹ باقی ہیں میں نے یہ سوچ کر کہ انہیں دین کا کافی شوق ہے ان کے اصرار پر دوسرا موضوع شروع کر دیا۔ جب وقت سے دو منٹ اوپر ہو گئے تو پھر وہ آدمی بولا کہ دو منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ اس سے حضرت شیخ مدظلہ کی پابندی وقت کا اندازہ لگا جاسکتا ہے۔

ایفائے عہد : تبلیغی پروگراموں کے سلسلہ میں آپ پابندی وقت اور ایفائے عہد کا پورا پورا اہتمام کرتے اور حتی الوسع کوشش کرتے کہ وعدہ کے مطابق پروگرام پر پہنچیں۔ اور اس کے لیے طوفانِ باد و باران بھی آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ ضلع گوجرانوالہ میں منڈیالہ تیکہ اور فیروزوالہ سے آگے کوٹلی ناگرہ ایک بستی ہے جہاں عرصہ دراز سے مدرسہ تعلیم القرآن قائم ہے۔ اور قاری محمد عبداللہ صاحب مدرس مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ ایک عرصہ تک وہاں فی سبیل اللہ تدریس کی خدمات سرانجام دیتے رہے ہیں انہی کے زیر اہتمام وہاں تبلیغی جلسے بھی ہوتے تھے۔ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ہمارے ہاں تبلیغی جلسہ تھا اور حضرت شیخ الحدیث (مولانا محمد سرفراز خان صفدر) دامتبرکاتہ نے تشریف لانا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ نماز عصر سے قبل تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے کوٹلی ناگرہ دوسری بستیوں سے تقریباً گٹ جاتا تھا۔ اب تو کسی حد تک کچا راستہ موجود ہے۔ پہلے یہ بھی نہ تھا۔ مغرب کے بعد قریبی بستیوں سے حضرت شیخ الحدیث صاحب کے عقیدت و محبت میں ڈوبے ہوئے دیوانے و پروانے موسم کی خرابی کے باوجود سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے۔ بارش اگرچہ مغرب سے پہلے ختم ہو چکی تھی لیکن راستے بند ہونے کی وجہ سے حضرت شیخ الحدیث صاحب کے آنے کی امید ہرگز نہ تھی لیکن

جب مغرب کے بعد بیرونی مہمانوں کو جو مختلف دیہاتوں سے آئے تھے، کھانا کھلانے سے فارغ ہوئے تو اچانک دیکھا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب شلوار گھٹنوں تک اٹھائے۔ کپڑے میں بھرے ہوئے مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے، ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ تو ان سے معلوم ہوا کہ منڈیالہ تنگ سے پیدل چل کے آیا ہوں۔ اور منڈیالہ تنگ سے کوٹلی ناگرہ کا فاصلہ تین میل ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایفائے عہد اور تبلیغی خدمات کا شوق آپ کے دل میں کس قدر ہے۔

آپ پر پابندیاں : آپ کی تقریر انتہائی اصلاحی اور موثر ہوتی ہے۔

لیکن اس کے باوجود دیگر علماء کی طرح آپ پر بھی مختلف اضلاع میں داخلہ پابندیاں عائد ہوتی رہی ہیں اور داخلہ بند کر دیا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ دورِ آمریت میں ضلع ہزارہ میں آپ کے داخلہ پابندی عائد ہو گئی۔ ضلع ہزارہ آپ کا آبائی علاقہ ہے۔ آپ کو پابندی کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا۔ آپ جب راولپنڈی کر اس کر گئے تو مختلف مقامات پر آپ کی تلاش کے لیے پولیس بس کی تلاشی لینے لگی لیکن اتفاق سے ناواقف ہونے کی وجہ سے پولیس آپ کو شناخت نہ کر سکی۔ اور آپ اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں ساتھیوں کے مشورہ پر آپ نے اصل نام کی بجائے "کٹر منگ" اُستاد کے نام سے تقریر فرمائی، کٹر منگ آپ کا آبائی گاؤں ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد شہروں میں وقتاً فوقتاً آپ کا داخلہ بند ہوتا رہا۔

دیانت : آپ کی دیانت و امانت اپنوں اور غیروں کے ہاں مسلم ہے۔

شدید تر اختلافات کے باوجود آج تک آپ کی دیانت پر کوئی حرف گہری نہیں کر سکا۔ آپ کی دیانت داری کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے سالانہ جلسہ میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر انھوں نے

آپ کو کرایہ کے لیے ایک لفافہ ہاتھ میں پکڑا دیا۔ آپ نے لفافہ اسی طرح جیب میں رکھ لیا۔ کیونکہ آپ کا معمول ہے کہ آپ تبلیغی سلسلہ میں کرایہ وغیرہ طلب نہیں کرتے اگر وہ خود دے دیں تو لے لیتے ہیں۔ جب واپسی پر آکر اس لفافہ کو کھولا تو اس میں پانچ سو روپے تھے آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ سا بیسواں کی آمدورفت کا کرایہ (اس دور میں) پینتیس روپے سے زائد نہیں۔ انھوں نے پانچ سو روپے کیسے دے دیئے؟ فوراً اسی دن خط لکھ کر انھیں مطلع کیا کہ آپ نے غلطی سے پانچ سو روپے مجھے دیئے ہیں ان کی واپسی کی صورت کیا ہوگی۔ بذریعہ بینک ڈرافٹ بھیجوں یا بذریعہ منی آرڈر چنانچہ ان کی طرف سے جواب موصول ہوا کہ واقعی ناظم صاحب نے غلطی سے پچاس کی بجائے پانچ سو روپے لفافہ میں بند کر دیئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ساٹھے چار سو روپے بذریعہ منی آرڈر فوراً واپس بھیج دیئے۔ اس واقعہ سے آپ کی دیانت کا اندازہ ہوتا ہے۔

گھریلو زندگی: آپ کی گھریلو زندگی بھی ایک نمونہ ہے۔ آپ نے دو شادیاں کیں۔ دونوں بیویاں فوت ہو چکی ہیں۔ دونوں بیویوں کی زندگی تک ان کا اور ان کی اولاد کا کھانا پینا اور رہنا سہنا ایک جگہ رہا ہے۔ دونوں بیویوں اور ان کی اولاد کا ہا ہی اتحاد و اتفاق آپ کی خصوصی توجہ اور گھریلو کنٹرول کی زندہ مثال ہے۔ دونوں بیویوں اور ان کی اولاد کے ساتھ آپ کا مساویانہ حسن سلوک ضرب المثل ہے۔

آپ کی اولاد: دونوں بیویوں سے آپ کے نو بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں۔

تین بیٹے (عبد الکریم، عبد الرشید اور راشد) بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ بڑی اہلیہ سے تین لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں۔ جبکہ چھوٹی اہلیہ سے چھ لڑکے اور ایک لڑکی ہے۔ آپ کی تمام بیٹیوں اور بیٹوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے ان میں اکثر باضابطہ عالم دین ہیں اور دینی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔

اولاد کی تربیت

اولاد کی تعلیم و تربیت میں بھی آپ نے اخلاقی و شرعی تمام ذمہ داریوں کو کما حقہ پورا کیا ہے۔ دنیوی تعلیم صرف ضروری حد تک دلوانی ہے۔ صرف دینی تعلیم کی طرف توجہ دی ہے۔ اسی طرح اب تک آپ کے بیٹے (۱) مولانا زاہد الرشیدی (۲) مولانا عبد القدوس قادری (۳) مولانا عبد الحق خان (۴) مولانا شرف الدین حامد (۵) مولانا رشید الحق خان عابد (۶) مولانا عزیز الرحمن شاہد (۷) مولانا منہاج الحق خان راشد ورس نظامی کے فاضل ہیں اور تدریسی خدمات میں مصروف ہیں جب کہ قاری محمد اشرف خان ماجد اور قاری عنایت الوباب خان سجاد حافظ و قاری ہیں اور قاری ماجد مرحوم ایک عرصہ تک جامع مسجد گکھڑ میں قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے ہیں ان کے علاوہ حضرت مدظلہ کی تینوں بیٹیاں قرآن کریم کی حافظہ ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم دیتی ہیں منجلی صاحبزادی جہلم کے قاری مولانا حبیب الرحمن کی اہلیہ ہیں اور جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام کے شعبہ بنات میں دورہ حدیث کے اسباق پڑھاتی ہیں۔

علمی و دینی خدمات

مولانا نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف احیائے دین کی غرض سے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں جو بحمد اللہ کئی کئی بار طبع ہو چکی ہیں اور خواص و عام نے ان سے خوب استفادہ کیا ہے۔ اور ان میں درج مٹھوس اور واضح دلائل اور معقول پیراہن اور صریح عقلی و نقلی حوالوں کی بہت ہی زیادہ قدر کی گئی ہے۔ اور ان کے معرض وجود میں آنے کو بے حد سراہا گیا، اور قدردان حضرات نے خوب داد تحسین دی ہے۔ مگر کچھ حضرات کو ان سے بحد کوفت ہوتی ہے اور ان سے خالصے سیخ پا ہوتے ہیں۔ ان مدلل کتابوں سے ان کا پریشان ہونا ایک نفسیاتی امر ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حقہ سے شرک و بدعت اور رسم و رواج کے دبیز پردے دور ہو جائیں۔ دین اسلام

اپنی اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے اُجاگر ہو جائے اور محفوظ ہو جائے جس پر کاربند ہو کر دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ آخر بدعات و رسومات کی شب ظلمت اور تاریکی کب تک فضا پر چھائی رہے گی؟ حکمتِ خداوندی کے تحت آخر آفتابِ ہدایت کا ظہور بھی تو ایک فطری امر ہے

شب گریزاں ہوگی آخر جلوۂ خورشید سے
یہ چمن معمور ہو گا نغمہ توحید سے

امامت و خطابت : دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل

کرنے کے بعد آپ گوجرانوالہ تشریف لے آئے۔ اور اُستادِ محترم کے حکم سے انہی کی نگرانی میں تدریس شروع کر دی۔ آپ کی علمی شہرت کا پھر چارسن گکھڑ منڈی (ضلع گوجرانوالہ تحصیل وزیر آباد) کے چند مخلص بزرگوں کی تحریک پر آپ گکھڑ تشریف لے آئے وہاں اپنی نئی علمی جدوجہد کا آغاز کیا اور جامع مسجد بوہڑ والی میں خطابتِ امامت کے فرائض سنبھال لیے۔

گکھڑ منڈی میں اصلاحِ عوام کی جدوجہد : گکھڑ منڈی کی عمومی فضا اس

وقت شرک و بدعت کی آلودگیوں کا شکار تھی۔ اور ہر طرف بدعاتِ فاسدہ اور رسوماتِ باطلہ کا دور دورہ تھا۔ پیشہ وراور پیٹ پرست ملوانوں کی حکومت تھی ہر طرف گمراہی کے اندھیرے تھے اور عام آدمی کے لیے یہ حالت انتہائی مایوس کن تھی۔ لیکن اس مردِ درویش نے کسی چیز کی پروا کیے بغیر اصلاحِ احوال کے لیے بے لوث جدوجہد جاری رکھی۔ مسجد میں نماز فجر کے بعد درسِ قرآن پاک کا آغاز کیا۔ عوام کے دینی رجحان کا عالم یہ تھا کہ ابتدا میں آپ کے درسِ قرآن میں صرف ایک آدمی بیٹھتا اور صرف ایک آدمی کے لیے آپ پورا درس دیتے اور اس درس کے لیے باقاعدہ تیاری کرتے۔ بعض بزرگوں نے مشورہ دیا کہ جب لوگ درس میں نہیں بیٹھتے تو

آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منجی زندگی کے استقلال کا کامل و مکمل نمونہ موجود تھا۔ اس لیے آپ نے یہ سلسلہ ترک نہ کیا۔ اور درس قرآن دیتے رہے۔

درس قرآن کی مقبولیت : آپ کا یہ عزم و استقلال بالآخر رنگ لایا۔

اور آپ کے درس قرآن کا چرچا ہونے لگا۔ اور آہستہ آہستہ اس کی رونق بڑھنے لگی اور آپ نے معمول میں تبدیلی پیدا کر لی۔ ہفتہ کے پہلے تین دن (ہفتہ، اتوار، پیر) درس قرآن اور آخری تین دن (منگل، بدھ، جمعرات) درس حدیث شروع کر دیا۔ اور قرآن پاک کا کئی دفعہ درس مکمل کیا۔

حدیث کی چھ مستند کتب صحاح ستہ یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی ابن ماجہ کا درس بھی مکمل کیا اور ان کے علاوہ مستدرک حاکم اور دیگر کئی کتب حدیث کا ترتیب کے ساتھ درس دیا۔ ایک دور میں آپ کے درس میں حاضری تقریباً ایک سو کے قریب افراد کی ہوتی رہی ہے۔ نماز فجر کے بعد کا آپ کا یہ درس قرآن و حدیث انتہائی مؤثر ثابت ہوا جس نے گھڑ منڈی کے باشعور افراد میں دینی شعور کو پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے خطبات جمعہ نے بھی عوام کی فکری و اعتقادی اصلاح کا عمدہ سامان فراہم کیا۔ آپ کے خطبہ جمعہ میں ہزاروں افراد شریک ہوتے۔

انداز بیان : آپ کے انداز بیان میں بے پناہ خوبیاں ہیں، اور اسی

انداز بیان کی کشش اپنوں اور بیگانوں کو بے ساختہ آپ کے حلقہ درس میں کھینچ لاتی ہے۔ آپ کا طرز استدلال خالص علمی اور انداز بیان خالص عوامی ہوتا ہے۔ گھڑ منڈی میں آپ کی تقریر ہمیشہ پنجابی زبان میں ہوتی تھی۔ اور دیگر علاقوں اور شہروں میں اردو زبان میں۔ علمی طور پر آپ کا طرز استدلال اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ پیش نظر مسئلہ

کی تمام گہری کھلتی چلی جاتی ہیں مسئلہ پوری طرح سامعین کے ذہن میں بیٹھتا چلا جاتا اور مسئلہ کا کوئی پہلو تشنہ و نامکمل نہیں رہتا۔ سامع زیر بحث مسئلہ کے بارے میں مکمل طور پر تسلی و تشفی حاصل کر کے اٹھتا ہے۔ آپ کا اندازہ مقررانہ نہیں بلکہ داعطانی اور ناصحانہ ہوتا ہے۔ اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ مجلس میں موجود کند ذہن سے کند ذہن آدمی بھی مسئلہ کی پوری حقیقت و اصلیت کو جان لے۔ اسی طرز بیان کی بنا پر آپ کے خطبات جمعہ اور مجالس میں دیہاتی عوام کی بھی کثیر تعداد موجود ہوتی تھی آپ کا بیان بھی تعمیری اور اصلاحی ہوتا۔ تخریبی بیان سے آپ ہمیشہ گریز کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نظریاتی مخالفین بھی آپ کا بیان سننے کے لیے آپ کے خطبہ جمعہ اور درس میں بکثرت شریک ہوتے تھے۔ آپ کے بڑے بڑے مخالفین بھی تمام تر نظریاتی اختلافات کے باوجود آپ کی علمی حیثیت کو مسلم مانتے ہیں۔

تبلیغی خدمات

ملک کے مختلف حصوں میں دینی مدارس کی سالانہ تقریبات اور دیگر تبلیغی اجتماعات میں شرکت بھی فرماتے رہے ہیں۔ بڑی بڑی کانفرنسوں میں آپ کا خطاب بڑی توجہ اور شوق سے سنا جاتا تھا۔ عوام کے علاوہ علماء حضرات بھی آپ کے بیان کو بڑے شوق سے سنتے۔ موضوع کو اس کے تمام ضروری پہلوؤں سے نبھانا آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ کے بیان میں فضولیات بالکل نہیں ہیں اور نہ موضوع سے ہٹ کر بات ہوتی ہے بلکہ موضوع سے متعلق دلائل و براہین سے مزین ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں سے اترتا چلا جاتا ہے۔ اور موضوع کا ہر پہلو ذہن نشین ہوتا چلا جاتا ہے۔

ظرافت

طبیعت میں ظرافت کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ تقاریر میں بسا اوقات ظرافت کا یہ عنصر سامعین کو بے حد محفوظ کرتا ہے۔ لیکن عام پیشہ در مقررین کی طرح آپ کی ظرافت خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ نہیں ہوتی۔ بلکہ

اس ظرافت میں بھی آپ پورا مسئلہ سمجھا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ جمعہ کی تقریر میں ایک شخص نے چٹ لکھی کہ جیب میں اگر تصویر ہو تو نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ آپ نے ازراہ مزاح فرمایا کہ جس کو شبہ ہو وہ اپنی جیب میں سے وہ تمام نوٹ جن پر بانی پاکستان کی تصویر ہے وہ مجھے دیدیں۔ سامعین اس مزاح پر کافی محظوظ ہوئے اور مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ پھر آپ نے مسئلہ کی وضاحت فرمائی کہ تصویر بنوانا۔ اپنے مقام پر بہت بڑا گناہ ہے۔ بغیر کسی عذر اور مجبوری کے تصویر بنوانا جائز نہیں۔ مثلاً حج، پاسپورٹ، امتحان وغیرہ کے لیے اور شناختی کارڈ کے لیے بھی تصویر بنوانا مجبوری ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تصویر جیب میں ہو اور سامنے نظر نہ آتی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔

زیر تربیت اساتذہ کے لیے درس قرآن: گکھڑ منڈی میں زیر تربیت

اساتذہ کے لیے عرصہ دراز سے ایک کالج قائم ہے جس کا نام پہلے گورنمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھا۔ اور بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے گورنمنٹ ایلیمینٹری آف دی پیچرز کالج رکھا گیا۔ جس میں پی۔ ٹی۔ سی اور سی۔ ٹی اور او۔ ٹی اور ایس۔ وی کی کلاسز ہیں۔ ان کلاسوں کے زیر تربیت اساتذہ کے لیے ۱۹۴۳ء میں کالج کے پرنسپل صاحب ملک عبدالحمید مرحوم نے اپنے دینی جذبہ اور مذہبی رجحان کی وجہ سے مستقل درس قرآن کا فیصلہ کیا۔ اور اس نیک مقصد کے لیے ان کی نظر انتخاب بھی آپ پر پڑی۔ چنانچہ ان کی پُر خلوص تحریک پر آپ نے ۱۹۴۳ء میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ اگرچہ اس درس کا سلسلہ ملک عبدالحمید مرحوم کی ذاتی دلچسپی اور توجہ کامرہون تھا۔ لیکن آپ کے عالمانہ طرز بیان اور محققانہ طرز استدلال کی وجہ سے اس درس قرآن کی خوب شہرت ہوئی۔ اور اس شہرت کی وجہ سے ملک عبدالحمید مرحوم کے بعد بھی درس کا یہ سلسلہ مستقل جاری رہا۔ اگرچہ بعض متعصب پرنسپلوں نے مسکئی اخلاق کی بنا پر اپنے انتظامی دور میں اس سلسلہ درس کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے

مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس درس قرآن کے سلسلہ میں جن پرنسپلوں نے پوری توجہ اور کوشش سے دلچسپی لی ان میں ملک عبدالحمید مرحوم کے علاوہ میاں عبدالرزاق اور میاں مینیر احمد کے نام نمایاں ہیں۔

یہ زیر تربیت اساتذہ چونکہ فراغت کے بعد ملازمت کے سلسلہ میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں پھیل جاتے ہیں۔ اس لیے ملک بھر کے جن تعلیمی اداروں میں بھی اس درس قرآن میں شریک ہونے والے اساتذہ پہنچے وہیں اس درس کے حوالہ سے صاحب درس کی علمیت کا چرچا ہوتا چلا گیا۔ اور علمی حلقوں میں اسی درس قرآن کو بے حد پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس علمی شہرت کی بنا پر پرنسپل مرزا نثار عرف (رٹان والی سرکار) نے محض مسلکی اختلاف کی بنا پر اس سلسلہ درس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی حالانکہ اس درس قرآن میں نہ تو آپ اختلافی مسائل پر معاندانہ انداز میں بحث کرتے ابتدائی دور میں صرف پندرہ روپے ملتے تھے آخر میں پچاس اس سے زیادہ نہیں ہوئے آخری سالوں میں پرنسپل مذکور نے یہ بھی بند کر دیا اور کئی سال درس مفت ہوتا رہا جب گھٹنوں کی تکلیف شروع ہوئی تو سوقوف کر دیا اور یہ یاد رہے کہ یہ درس چالیس سال ہوتا رہا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی یہ خدمات سراسر رضائے الہی کے لیے تھیں۔ کوئی دنیوی مفاد ان کے پیش نظر نہیں تھا۔ اور پھر کالج آپ کے گھر سے تقریباً ایک میل دُور ہے اس چالیس سال کے عرصہ میں گرمیوں میں عصر کے بعد اور سردیوں میں عشاء کے بعد کا یہ درس ان کی مستقل مزاجی کی بہت دلیل ہے جبکہ ان کے پاس سواری کا بھی کوئی انتظام نہیں ایک میل پیدل جانا اور ایک میل پیدل آنا محض درس قرآن کے لیے آپ کے خلوص اور اہلیت کا کھلا ثبوت ہے۔ جب تک جسمانی صحت نے اجازت دی۔ یہ سلسلہ جاری رہا مگر معذوری بڑھ جانے پر مجبوراً اسے منقطع کرنا پڑا۔

تدریسی خدمات : گکھڑ منڈی میں آپ نے ابتداء ہی اپنے تعلیمی ذوق کے مطابق تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس دوران بیس پچیس طلباء عموماً آپ کے

زیر دس رہتے تھے۔

۱۳۷۴ھ/۱۹۵۴ء میں آپ کا تقرر مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ میں ہوا۔ اور اس وقت سے ۲۰۰۱ء تک وہاں مسلسل تدریس کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ درس نظامی کی کم و بیش سبھی کتابیں بار بار پڑھائیں اور خاص طور پر بخاری شریف، ترمذی شریف اور ترجمہ قرآن کریم مع تفسیر تو سالہا سال تک آپ کے زیر درس رہا۔

دورۃ تفسیر قرآن : ۱۹۷۶ء میں بھٹو گورنمنٹ نے مدرسہ نصرۃ العلوم اور

اس سے متصل جامع مسجد نور کو محکمہ اوقاف کی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا تو ارباب مدرسہ نے اس کے خلاف باقاعدہ احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا۔ چھ ماہ کی اس مسلسل تحریک میں تین سو کے قریب افراد گرفتار ہوئے جن میں آپ کے تین صاحبزادے مولانا زاہد الراشدی، مولانا عبد القدوس قارن اور حافظ عبدالحق خان بشیر بھی شامل ہیں۔ اسی تحریک کے دوران مدرسہ کی سالانہ چھٹیاں ہو گئیں۔ کسی بھی مدرسہ کی حفاظت کے لیے مدرسہ کے طلباء ایک مستحکم اور مضبوط قوت ہوتے ہیں سالانہ تعطیلات کی وجہ سے جب خالی مدرسہ پر جبری قبضہ کا اندیشہ پیدا ہوا تو دانشوران مدرسہ نے سالانہ تعطیلات کے دوران دورۃ تفسیر قرآن کا اعلان کر دیا تاکہ ان سالانہ تعطیلات کے دوران بھی مدرسہ طلباء سے خالی نہ رہے۔ چنانچہ اس مجبوری کے تحت آپ نے دورۃ تفسیر قرآن کا آغاز فرمایا۔ جسے بعد میں اس کی علمی اہمیت کی بنا پر مستقل طور پر جاری کر دیا گیا جو کم و بیش پچیس برس جاری رہا اور اس میں ہر سال تقریباً تین سو سے پانچ سو تک طلباء شامل ہوتے رہے۔ ان میں اکثر و بیشتر فارغ التحصیل علماء ہوتے تھے۔ چونکہ یہ تقریباً دو ماہ کا مختصر کورس ہوتا تھا۔ اس لیے اس میں جدید تعلیم یافتہ حضرات بھی بکثرت شامل ہو جاتے تھے۔ آپ کا انداز تفسیر بعینہ اپنے شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب جیسا ہے۔ ربط آیات اور ردّ شرک و بدعات کی جو اہمیت و انفرادیت آپ کے شیخ

کا خاصا تھا۔ وہی طرز یہاں بھی موجود تھی۔

تفسیر قرآن کی عصری ضرورت : یوں تو قرآن پاک کی بے شمار تفسیریں

منظر عام پر آچکی ہیں۔ لیکن آپ کا تفسیر قرآن کا منفرد انداز اس بات کا متقاضی ہے کہ اس طرز پر تفسیر قرآن لکھی جائے۔ آپ اگر خود یہ کارنامہ سرانجام دیتے تو بہتر تھا، کیونکہ آپ کے قلم میں خدا تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ لیکن مصروفیات کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا البتہ آپ کے فرزند مولانا عبدالقدوس قارن نے آپ کے ترجمہ قرآن کریم اور اس کی تفسیر کو ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے محفوظ کر لیا اور اسے صفحہ بقرطاس پر منتقل کر رہے ہیں۔ حوالہ جات کے اصل مآخذ کی طرف رجوع کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ مکمل ہونے پر یہ علمی تحفہ بھی قارئین کے سامنے آجائے گا۔

آپ کے فتاویٰ : فتویٰ نویسی ایک مستقل فن ہے جو اہم بھی ہے

اور نازک بھی۔ اگرچہ گزشتہ صدی میں فتویٰ نویسی کا قلمدان بہت سے نابخبرہ کار یا ناعاقبت اندیش ہاتھوں میں چلا گیا۔ جس کی وجہ سے عرب و عجم کی پوری اُمت مسلمہ فتویٰ کفر و ارتداد کے ثقیل پتھر کے نیچے کر لہنے لگی۔ فتویٰ نویسی انتہائی دشوار کام ہے جس میں مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھ کر فتویٰ دینا ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق اگر ایک لفظ کے سو معنی ہوں۔ ایک اسلام کا اور ننانوے کفر کے تو اس لفظ کے استعمال کرنے والے پر اس وقت تک فتویٰ کفر نہیں دیا جاسکتا جب تک وہ اپنی مراد معنی کفر سے معین واضح نہ کرے۔ فتویٰ نویسی میں تو حتی الامکان آدمی کو کفر سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے حتیٰ کہ یہ اصول ہے کہ اگر کسی نے ایسا جملہ استعمال کیا ہے جو بظاہر کفریہ ہے لیکن اس کی تاویل ہو سکتی ہے تو اس پر فتویٰ کفر نہ دیا جائے گا۔

فتویٰ نویسی جیسے دشوار ترین کام میں بھی آپ کا قلم اپنے اکابر و اسلاف کے

نقش قدم میں راہِ اعتدال سے نہیں ہٹا۔ آپ مدرسہ نصرۃ العلوم میں صدر مفتی بھی رہے ہیں اور ملک بھر کے علمی و تحقیقی حلقوں میں آپ کے فتاویٰ کو خاص قدر و منزلت اور اہمیت حاصل ہے۔ ملک بھر کے بڑے بڑے مفتیانِ کرام بھی اپنے فتاویٰ پر آپ کے تائیدی و تصدیقی دستخط کروانے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں فتاویٰ جاری ہو چکے ہیں۔ اگرچہ آپ کی دیگر مصروفیات کی بنا پر مدرسہ نے دو مفتی رکھے ہوئے ہیں لیکن بڑے بڑے اور اہم فتوے پھر بھی آپ کی طرف سے جاری ہوتے رہے ہیں۔

سیاست کے میدان میں: مزاجاً آپ اگرچہ سیاسی نہیں ہیں لیکن

اپنے اکابر و اسلاف سے گہرے تعلق و ربط کی بنا پر سیاست سے دلچسپی ضرور رکھتے ہیں۔

۱۹۴۰ء میں جب آپ دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم تھے تو فرنگی دور تھا۔ تحریک آزادی عروج پر تھی۔ انگریزی حکومت نے آپ کے استادِ محترم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو گرفتار کر لیا۔ مولانا مدنی کی رہائی کے لیے دارالعلوم دیوبند کے طلباء کا جو پہلا احتجاجی جلوس نکالا گیا اس کی قیادت آپ نے کی۔ فراغت کے بعد تدریسی مشاغل کی وجہ سے آپ عملاً سیاست سے کنارہ کش رہے۔

۱۹۵۶ء میں جب جمعیت علماء اسلام کے دوسرے دور کا آغاز ہوا تو آپ بھی ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کی تحریک کے لیے جمعیت میں شامل ہو گئے اور عرصہ دراز تک جمعیت کے مرکزی مجلس شوریٰ کے رکن اور ضلع گوجرانوالہ کے امیر کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیتے رہے۔

۱۹۶۸ء میں جمعیت کے وفد کے ساتھ مشرقی پاکستان (موجودہ بنگلہ دیش) کا دورہ کیا۔ ۱۹۷۰ء کے عام انتخابات میں خود تو تدریسی مصروفیات کی بنا پر حصہ نہ لیا۔ لیکن جمعیت کے منتخب کردہ امیدواروں کی تائید و حمایت میں بھرپور کردار

ادا کیا۔ ۱۹۴۳ء کی تحریک سول نافرمانی (بحالی جمہوریت) میں گرفتاری کے لیے کارکن نہیں کرنے میں بھی آپ نے بھرپور کوشش کی۔ چنانچہ اس تحریک میں آپ کے خصوصی تلامذہ قاری محمد یوسف عثمانی اور قاری عبدالقدوس عابد نے گرفتاریاں پیش کیں اور ظلم و بربریت کا نشانہ بنے۔

۱۹۴۳ء کے سیلاب زدگان کے لیے جماعتی سطح پر آپ نے امدادی رقوم اور ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کیں۔ ۱۹۴۴ء کی تحریک ختم نبوت میں بھی آپ نے مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر خدمات سرانجام دیں۔

۱۹۴۵ء میں جمعیت علماء اسلام نے شیرانوالہ باغ گورنوالہ میں آل پاکستان نظام شریعت کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ تو بھڑو حکومت نے شیرانوالہ باغ میں کانفرنس کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جس کی وجہ سے یہ کانفرنس مدرسہ نصرت العلوم گورنوالہ میں منعقد ہوئی۔ حکومت نے سیاسی انتقام کے طور پر مدرسہ نصرت العلوم اور اس سے ملحقہ جامع مسجد نور کو اوقاف کی تحویل میں لینے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت کے صوبائی وزیر اوقاف رانا محمد اقبال نے اپنی تمام سیاسی حکومتی سرگرمیاں اس مقصد کے لیے وقف کر دیں۔ ادھر جمعیت علماء اسلام نے شہر کے نوجوان سیاسی راہنما نوید انور نوید کی سربراہی میں ایکشن کمیٹی تشکیل دے دی اور باقاعدہ تحریک کا آغاز کر دیا۔ تین سو کے قریب افراد گرفتار ہوئے۔ اس تحریک میں بھی آپ نے پوری پوری سرپرستی کی اور آپ کے تین بیٹے مولانا زاہد الراشدی، مولانا عبدالقدوس قارن اور مولانا عبدالحق خان بشیر اس تحریک میں گرفتار ہوئے جو تقریباً چار ماہ تک ڈسٹرکٹ جیل گورنوالہ میں زیر حراست رہے۔ مجبوراً حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔

۱۹۴۶ء کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلہ کے لیے دینی و سیاسی جماعتوں پر مشتمل پاکستان قومی اتحاد کے نام سے نوجماعتی اتحاد معرض وجود میں آیا اور انتخابات میں دھاندلی کے بعد ان کے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے تحریک

نظام مصطفیٰ کا آغاز ہوا۔ اس تحریک میں بھی آپ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اور ایک ماہ تک ڈسٹرکٹ جیل گوجرانوالہ میں گرفتار رہے۔ اس تحریک میں آپ کے صاحبزادہ حافظ عبدالحق خان بشیر بھی گرفتار ہوئے اور آپ کے ساتھ جیل میں رہے جبکہ آپ کے بڑے فرزند مولانا زاہد الراشدی نے پاکستان قومی اتحاد صوبہ پنجاب کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے بھرپور کردار ادا کیا۔ ایک ماہ کیمپ جیل لاہور میں قید رہے اور جناب حمزہ، اقبال احمد خان مرحوم اور دیگر قائدین کے ساتھ مل کر گہائی سطح پر تحریک کی قیادت کی۔

آپ کے استعصال کا ایمان افروز واقعہ : تحریک نظام مصطفیٰ کے دوران

حسب معمول جب آپ جلوس کی قیادت کر رہے تھے۔ آپ کی قیادت میں جلوس مسجد بوہڑ والی سے باہر نکلا۔ ٹوفیڈل سیکورٹی فورس (ایف۔ ایس۔ ایف) کے کمانڈرنے جلوس کو روکنے کی کوشش کی لیکن جلوس نہ رکا۔ اس نے لکیر کھینچی اور اعلان کیا کہ اگر کسی نے یہ لکیر عبور کی تو گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ آپ نے انتہائی شانِ قلندری سے فرمایا:

”میں تریسٹھ برس کی مسنون عمر پوری کر چکا ہوں اور شہادت کی تمنا و آرزو رکھتا ہوں۔“

یہ کہتے ہوئے کمانڈر کی کھینچی ہوئی لکیر عبور کر گئے۔ اس مردِ درویش کی شانِ قلندری کے سامنے فیڈرل سیکورٹی فورس کی سنگینیں اور رائفلیں ندامت سے جھک گئیں اور یہ مردِ قلندر جلوس لے کر آگے بڑھ گیا۔

۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت : قادیانیت کے خلاف تحریک

ختم نبوت میں بھی آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں دیگر اعلیٰ کی طرح آپ بھی گرفتار ہوئے اور ۹ ماہ تک سنٹرل جیل ملتان میں رہے

آپ کے برادرِ خورد مولانا صوفی عبدالحمید سواتی بھی اس تحریک میں چھ ماہ تک ڈسٹرکٹ جیل گوہر والا میں گرفتار رہے۔ اس دوران آپ کو ملتان جیل میں زہر دینے کی کوشش بھی کی گئی جو کامیاب نہ ہو سکی۔

خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار : اسی دوران جیل میں ہی

رات کو خواب میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جیل میں ہی ہوں اور مجھے کسی نے اطلاع دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ جیل میں میرے پاس ان کی خدمت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے دری پکھائی اتنے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ میں نے انہیں دری پر بٹھایا اور عرض کی حضرت جیل میں اس وقت میرے پاس آپ کی خدمت کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں قہوہ بنا لوں۔ آپ نے فرمایا فوراً بنا لو کیونکہ میں نے جلدی جانا ہے اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ میں نے جلدی سے قہوہ بنایا۔ آپ نے نوش فرمایا اور تیزی سے چلے گئے۔

تصنیفی کارنامے : تصنیف کے میدان میں بھی آپ کی خدمات

ناقابل فراموش ہیں۔ آپ کی تصانیف میں قاری کے لیے تمام دیکھ پیوں کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ اردو ادب کی چاشنی، دلائل و براہین کی بھرمار، ظرافت، انداز بیان میں شائستگی اور نفس مسئلہ کے ہر پہلو پر نظر آپ کی تصانیف کی انفرادی خصوصیات ہیں۔ اب تک ۶۰ کے قریب کتب تالیف فرما چکے ہیں جو علماء اور عوامی حلقوں میں بے حد مقبول ہیں۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب نے مختلف موضوعات مثلاً رویدعات، فاتحہ خلف الامام، سماع المونئی وغیرہ پر متعدد کتب تصنیف فرمائی ہیں جن کی تعداد

تقریباً ساٹھ تک جا پہنچی ہے۔ ان کتب میں راہ سنت جو قدیم عادت پر مفصل اور باحوالہ کتاب ہے۔ اس کو اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ اس کے تقریباً پندرہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اور مانگ بدستور جاری ہے۔ آپ کی کتابوں پر

- ۱۔ حضرت قاری محمد طیب رحمہ اللہ تعالیٰ
- ۲۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ
- ۳۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ
- ۴۔ حضرت مولانا عبد اللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر اکابر علماء دیوبند کی تصدیقات موجود ہیں۔

آپ کی کتابوں کا طرز و اسلوب یہ ہے کہ مدلل ہونے کے ساتھ ساتھ مسئلہ کے مخالف پہلو کو لے کر اس کے جوابات اس انداز سے دیئے جاتے ہیں کہ کتاب میں مناظرانہ رنگ نمایاں محسوس ہوتا ہے۔ راہ حق کا متلاشی آپ کی کتابوں کے مطالعہ کے بعد منزل کو پالیتا ہے۔ حضرت صاحب کی مشہور کتابیں :

- ۱۔ راہ سنت
- ۲۔ احسن الکلام
- ۳۔ گلہ ستم توحید
- ۴۔ تبرید النواظر
- ۵۔ باب جنت
- ۶۔ حکم الذکر بالجہر
- ۷۔ چالیس دعائیں
- ۸۔ طائف منصورہ
- ۹۔ تسکین الصدور
- ۱۰۔ سماع موتی
- ۱۱۔ مقام ابی حنیفہ
- ۱۲۔ تنقید متین
- ۱۳۔ ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں
- ۱۴۔ عمدۃ الاثبات
- ۱۵۔ تفریح الخواطر
- ۱۶۔ ارشاد اشیعہ
- ۱۷۔ ازالۃ الريب
- ۱۸۔ اظہار العیب
- ۱۹۔ اتمام البرہان فی ردّ توضیح البیان (حصہ اول)
- ۲۰۔ اتمام البرہان فی ردّ توضیح البیان (حصہ دوم)
- ۲۱۔ اتمام البرہان فی ردّ توضیح البیان (حصہ سوم)
- ۲۲۔ اتمام البرہان فی ردّ توضیح البیان (حصہ چہارم)
- ۲۳۔ سلا علی قاری اور مسئلہ علم غیب و حاضر و ناظر

۲۴۔ الشہاب المبین	۲۵۔ المسک المنصور
۲۶۔ عبارات اکابر	۲۷۔ بانی دارالعلوم
۲۸۔ ضوء السراج	۲۹۔ عیسائیت کا پس منظر
۳۰۔ الکلام المفید	۳۱۔ مسئلہ قربانی
۳۲۔ آئینہ محمدیؐ	۳۳۔ تبلیغ اسلام
۳۴۔ اخفاء الذکر (حصہ دوم)	۳۵۔ راہ ہدایت
۳۶۔ حلیۃ المسلمین	۳۷۔ دل کا سرور
۳۸۔ شوق حدیث	۳۹۔ صرف ایک اسلام
۴۰۔ انکار حدیث کے نتائج	۴۱۔ مینابیح ترجمہ رسالہ تراویح
۴۲۔ درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ وغیرہ	

درس قرآن کریم کے افادات

درس قرآن کریم کے حوالے سے حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے تین جداگانہ معمول رہے ہیں۔ ایک درس وہ تھا جو جامع مسجد گکھڑ میں نماز فجر کے بعد روزانہ ہوتا تھا اور کئی بار مکمل ہوا۔ دوسرا ترجمہ و تفسیر وہ ہے جو مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ میں روزانہ صبح لہجہ کے آغاز سے قبل حضرت مدظلہ پڑھاتے رہے، یہ درس دو سال میں مکمل ہوتا ہے اور کافیہ سے اوپر کے تمام طلبہ کی حاضری اس میں ضروری ہوتی ہے جبکہ تیسرا درس قرآن وہ ہے جو مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کی سالانہ تعطیلات کے دوران دو دنہ تفسیر کے عنوان سے کم و بیش ربع صدی تک تسلسل کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔

مدرسہ نصرۃ العلوم ولے دونوں درس چونکہ علماء کرام اور طلبہ کے لیے ہوتے تھے اس لیے ان میں علمی مباحث زیادہ ہوتی تھیں جن سے علماء کرام اور مننتی طلبہ ہی صحیح معنوں میں استفادہ کر سکتے ہیں جب کہ گکھڑ والا درس عوام کے لیے ہوتا تھا جو زیادہ تفصیلی ہونے کے ساتھ ساتھ عام فہم بھی تھا اور عام لوگوں کے لیے اس کی

افادیت بھی بہت زیادہ ہے۔

بہت سے دوستوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس درس کو منضبط کر کے شائع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فیض یاب ہونے کا موقع ملے مگر اس میں الجھن یہ تھی کہ یہ درس پنجابی میں ہونا تھا جو اگرچہ جناب کی محنت اور ذوق کے باعث ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے مکمل محفوظ ہو چکا ہے مگر اسے اردو میں منتقل کرنے اور پھر زبان کا معیار قائم رکھتے ہوئے مفہوم کو ادا کرنے کا مرحلہ خاصا مشکل تھا اس لیے بہت سے احباب شدید خواہش اور تمنا کے باوجود اس سمت عملی پیش رفت نہ کر سکے۔

اب حضرت شیخ مدظلہ کے خصوصی تلمیذ و مرید مولانا محمد نواز بلوچ نے حضرت مدظلہ کے خادم خاص حاجی میر محمد لقمان کی توجہ اور اصرار سے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور حضرت شیخ مدظلہ کے گھر والے تفصیلی اور عوامی درس قرآن کریم کو کیسٹوں کی مدد سے پنجابی سے اردو میں منتقل کرنے کا کام شروع کیا ہے جس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے ہے۔

مولانا محمد نواز بلوچ کا طریق کار یہ ہے کہ وہ مضمون کو پنجابی سے اردو میں منتقل کرتے ہیں اور اسکے بعد حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے فرزند اکبر اور مدرسہ نصرۃ العلوم گورنمنٹ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ زاہد الرشیدی صاحب اس پر نظر ثانی کرتے ہیں پھر اس کی کتابت ہوتی ہے اور دونوں حضرات باری باری اس کو دوبارہ مطالعہ کر کے چیک کرتے ہیں۔

اس کے باوجود ان حضرات کی طرف سے گزارش ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی یا جھول رہ گئی ہو تو اسے حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے کاتبین کی کوتاہی پر محمول کیا جائے اور اس کی انہیں اطلاع دی جائے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے لیے مسلسل دعا

کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحتِ کاملہ عاجلہ سے نوازیں اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھیں نیز یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ درسِ قرآن کے ان افادات کو کتابی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کرنے والے سب حضرات کی اس محنت کو قبول فرمائیں اور انہیں اس کی بحسن و خوبی تکمیل کی توفیق سے نوازیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی حضرت شیخ دامت برکاتہم کے ان گراں قدر افادات سے فیض یاب ہو سکیں آمین

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

فہرست کتاب

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
1	حالاتِ واقعی	-1
9	اصول تفسیر	-2
9	”عین“ کا استعمال اور معنی	-3
12	لفظی ترجمہ سورہ فاتحہ (آیت : ۱ تا ۷)	-4
13	فضائل	-5
19	استعانت کی مختلف صورتیں	-6
20	صراطِ مستقیم	-7
21	انعام یافتہ تو میں	-8
24	مغضوب علیہم	-9
24	عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام کا واقعہ	-10
25	مدینہ طیبہ پہنچنے پر حضور ﷺ کا پہلا خطبہ مبارکہ	-11
26	”آمین“ اور اس کا معنی	-12
27	لفظی ترجمہ سورہ بقرہ (آیت : ۱ تا ۴)	-13

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
28	وجہ تسمیہ	-14
30	حروف مقطعات کا معنی	-15
33	قرآن کریم میں شک کا مطلب	-16
34	مومنین کی صفات / متقیوں کی پہلی صفت	-17
35	متقیوں کی دوسری صفت	-18
36	متقیوں کی تیسری صفت	-19
37	امام رازی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی تفسیر	-20
37	متقیوں کی چوتھی صفت	-21
38	متقیوں کی پانچویں صفت	-22
39	متقیوں کی چھٹی صفت	-23
40	جواری میں عبادت	-24
41	لفظی ترجمہ (آیت : ۵ تا ۷)	-25
42	رابط کی اہمیت	-26
45	منکرین کا انجام	-27
46	دلوں پر مہر کا مطلب	-28
47	شرک کا وسیلہ	-29
52	معززلہ اور جبریہ کے عقائد باطلہ	-30

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
56	لفظی ترجمہ (آیت : ۸ تا ۱۵)	-31
58	الہی علی	-32
58	منافقین کے دو طبقے	-33
59	منافقین کی نشانیاں	-34
63	سوال / جواب	-35
65	پاکستان اور منافقت کا نتیجہ	-36
68	مومنوں سے استہزاء	-37
71	لفظی ترجمہ (آیت : ۱۶ تا ۲۰)	-38
72	منافقین کا مقاطع	-39
72	پہلا جواب	-40
73	دوسرا جواب	-41
73	کفار کے نابالغ بچے	-42
73	پہلا قول	-43
74	دوسرا قول	-44
75	مودودی صاحب کا غلط موقف	-45
75	تیسرا قول	-46
76	امام ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا فرمان	-47

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
77	منافقین کی پہلی مثال	-48
78	بہرے، گونگے، اندھے کا معنی	-49
79	منافقین کی دوسری مثال	-50
81	پنڈت دیانند سروتی کا اعتراض	-51
82	مولانا قاسم نانوتوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا جواب	-52
85	لفظی ترجمہ (آیت : ۲۱ تا ۲۵)	-53
86	الہیچے	-54
87	قرآن کریم کی بنیادی دعوت	-55
89	وجود باری تعالیٰ پر دلائل	-56
89	امام اعظم ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا استدلال	-57
91	امام شافعی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا استدلال	-58
91	امام احمد بن حنبل <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا استدلال	-59
93	مقابلہ کے لئے قرآن کا چیلنج	-60
95	فصح عرب سجان وائل قرآن کے سامنے مہربلب	-61
96	مومنوں کو بشارت	-62
97	دنیا کی عورتوں اور حوروں کا مکالمہ	-63
97	عورتوں کو بطور خاص نصیحت	-64

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
100	لفظی ترجمہ (آیت : ۲۶ تا ۲۹)۔	-65
101	ابھی	-66
102	قرآن کریم پر مشرکین کا اعتراض	-67
102	قرآن کریم کی عام فہم مثالیں	-68
104	لطیفہ	-69
106	فاسقین کی علامات / فاسقین کی پہلی صفت	-70
	حضرت علیؓ اور سہیل بن عبداللہؓ کو "قول الست"	-71
106	کا یاد ہونا	
108	فاسقین کی دوسری صفت	-72
108	فاسقین کی تیسری صفت	-73
110	قبر میں زندگی	-74
111	کوئی چیز بے فائدہ نہیں	-75
111	فائدہ کی مختلف صورتیں	-76
114	لفظی ترجمہ (آیت : ۳۰ تا ۳۳)	-77
115	ابھی	-78
116	خلافت ارضی	-79
116	فرشتوں کے "نور" سے مراد	-80

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
117	فرشتوں کا اشکال	-81
118	انسان کی فضیلت	-82
119	فرشتوں کے اشکال کی وجہ	-83
121	انقلاب روس اور استقامت دین	-84
121	حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا امتحان	-85
122	آدم علیہ السلام کی برتری کی وجہ بمعہ امثلہ	-86
124	فرشتوں کو سجدہ کا حکم	-87
124	ابلیس کا انکار و تکبر	-88
128	لفظی ترجمہ (آیت : ۳۵ تا ۳۹)	-89
129	رہیظ	-90
129	سلطان محمود غزنوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا سبق آموز واقعہ	-91
131	جنت سے مراد	-92
132	شجر ممنوعہ کون سا تھا؟	-93
133	حضرت آدم علیہ السلام کا اعتراف و توبہ	-94
135	حضرت آدم و حوا علیہما السلام کے اترنے کی جگہیں	-95
135	”عرفات“ کا معنی	-96
136	خوف/حزن میں فرق	-97

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
136	سوال	-98
137	جواب	-99
140	لفظی ترجمہ (آیت : ۴۰ تا ۴۶)	-100
141	رہنما	-101
141	”اسرائیل“ کا معنی	-102
142	بنی اسرائیل پر انعامات	-103
143	بنی اسرائیل کا میثاق	-104
144	لوگوں کے سامنے اچھی چیز کا پیش کرنا	-105
145	امام تاج الدین سبکی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا قول	-106
146	دنیا کی حیثیت	-107
147	کتمان حق کی مختلف صورتیں	-108
147	بدعت کی نحوست	-109
148	بدعتی سے توبہ کا سلب ہو جانا	-110
149	رسوم باطلہ ”تحفۃ الہند“ کی روشنی میں	-111
149	حضرت ابن مسعود <small>رضی اللہ عنہ</small> کا ارشاد	-112
151	استعانت کا غلط مفہوم	-113
154	لفظی ترجمہ (آیت : ۴۷ تا ۵۳)	-114

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
155	رہطے	-115
156	بنی اسرائیل کی فضیلت	-116
157	مجرم چھڑانے کے چار طریقے	-117
158	فرعون کا معنی اور منصب	-118
160	خدائی تدبیر	-119
160	حکایت مولانا روم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	-120
161	بنی اسرائیل کی نجات	-121
162	فرعون کی غرقابی	-122
163	صحرائے سینا	-123
164	سامری کی کارستانی	-124
165	موسیٰ علیہ السلام طور پر	-125
165	”دجال“ اور آنحضرت <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی پیشین گوئی	-126
168	لفظی ترجمہ (آیت : ۵۴ تا ۵۹)	-127
170	رہطے	-128
170	چھڑے کی پوجا، توبہ اور قتل	-129
172	بنی اسرائیل کا توراہ پر رد عمل	-130
173	بنی اسرائیل کے نمائندے طور پر	-131

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
173	اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ	-132
174	موت اور پھر زندگی	-133
175	بادلوں کا سایہ	-134
175	انکارِ جہاد اور اس کا انجام	-135
176	من و سلوئی کا نزول	-136
177	حضرت موسیٰ و ہارون <small>علیہ السلام</small> کی وفات اور جائے مدفن	-137
178	بنی اسرائیل کو بستی میں داخل ہونے کے احکام	-138
179	بنی اسرائیل کی حیلہ سازی	-139
180	یہودی من حیث القوم سب سے زیادہ ذہین ہیں	-140
182	لفظی ترجمہ (آیت : ۶۰ تا ۶۱)	-141
183	ہچکچ	-142
184	عربوں کے خلاف فرنگی سازش	-143
184	پانی کے چشمے	-144
185	موسیٰ <small>علیہ السلام</small> کا تنہا غسل اور پتھر کا کپڑوں سے سمیت بھاگ جانا	-145
187	دال سبزی کا مطالبہ	-146
187	”قِشَاء“ کی تحقیق	-147
188	”فُؤْم“ کی تحقیق	-148

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
189	حقہ نوشی کی وجہ سے حضور ﷺ کا خواب میں پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا	-149
189	”عَدَس“ کی تحقیق	-150
190	ناقدری کی سزا	-151
191	بنی اسرائیل کے ہاتھ سے قتل انبیاء	-152
192	حضرت سحیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کا واقعہ	-153
192	قتل حق کی تین صورتیں	-154
196	لفظی ترجمہ (آیت : ۶۲ ۶۳ ۶۴)	-155
197	رہ چلے	-156
198	یہود کی وجہ تسمیہ	-157
198	نصاری کی وجہ تسمیہ	-158
199	”صائبین“ کا گروہ	-159
200	عرب میں شرک کی ابتداء	-160
201	ایمان باللہ کی جامعیت	-161
203	ٹی، وی دیکھنے کے بارے میں سوال	-162
203	جواب	-163
204	سوال	-164
204	جواب	-165

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
205	مرتد کی سزا	-166
205	بنی اسرائیل پر ہفتے والے دن شکار پر پابندی	-167
206	سوال	-168
206	جواب	-169
207	سوال	-170
207	جواب	-171
207	شکار کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں تین گروہ	-172
208	شکلوں کا مسخ ہو جانا	-173
209	گانے بجانے کا وبال بصورت مسخ اشکال	-174
210	حفاظت اعمال	-175
212	لفظی ترجمہ (آیت : ۶۷ تا ۷۱)	-176
213	رہط	-177
214	بنی اسرائیل میں واقعہ قتل	-178
215	قاتلوں کی حیلہ سازی	-179
217	بلا ضرورت سوالات	-180
217	نظر کا لگ جانا	-181
219	گانے ذبح کرنے کا حکم	-182

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
220	چیز مہنگی بیچنے کا شرعی حکم	-183
221	مسئلہ	-184
221	قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے	-185
224	لفظی ترجمہ (آیت : ۷۲ تا ۷۷)	-186
226	رہنہ	-187
227	نجران کے عیسائی مدرسہ النبی میں	-188
229	سوال	-189
229	جواب	-190
230	سونے کا دانت اور ناک	-191
230	پتھر میں خشیت الہی	-192
231	ہر چیز کا حمد الہی بیان کرنا	-193
231	حجر کا آنحضرت ﷺ کو سلام کرنا	-194
232	حکم الہی میں تحریف	-195
235	ابو جہل اور نبی کریم ﷺ کا معجزہ	-196
238	لفظی ترجمہ (آیت : ۷۸ تا ۸۲)	-197
239	رہنہ	-198
239	آن پڑھ یہودی	-199

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
240	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام پر جھوٹے قصے	-200
240	”ویل“ کی تعریف	-201
241	دوزخ اور یہود و نصاریٰ	-202
243	اصحاب جنت	-203
246	لفظی ترجمہ (آیت : ۸۳ تا ۸۶)	-204
248	رہنما	-205
248	عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی	-206
249	والدین سے حسن سلوک	-207
251	بعض احکام الہی کا ماننا اور بعض کا انکار کرنا	-208
252	پہلا وعدہ	-209
253	دوسرا وعدہ	-210
253	فلسطینیوں پر یہودیوں کے مظالم	-211
255	تیسرا وعدہ	-212
256	دنیا کی زندگی میں رسوائی	-213
257	آخرت کا عذاب	-214
260	لفظی ترجمہ (آیت : ۸۷ تا ۹۰)	-215
262	رہنما	-216

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
262	لفظ ”عیسیٰ اور مریم“ کا معنی	-217
263	مرزا قادیانی کی خرافات	-218
265	حضرت یحییٰؑ اور فریضہ رسالت	-219
266	حضرت عبداللہ بن سلامؓ قبول اسلام سے پہلے یہودیوں کی نظر میں	-220
267	قرآن کریم اور پہلی کتابیں	-221
268	وسیلہ کا شرعی مفہوم اور حکم	-222
272	لفظی ترجمہ (آیت : ۹۱ تا ۹۶)	-223
274	رہطے	-224
275	توراة و انجیل کی تصدیق	-225
276	پہلی شق	-226
277	دوسری شق	-227
278	”سامری“ اور مکرو فریب	-228
279	تیسری شق	-229
279	رفع طور	-230
281	موت سے مؤمنین کی محبت کے واقعات	-231
281	حضرت علیؑ کا واقعہ	-232
281	حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کا واقعہ	-233

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
282	حضرت خالد بن ولید <small>رضی اللہ عنہ</small> کی موت سے محبت	-234
285	لفظی ترجمہ (آیت : ۹۷ تا ۱۰۱)	-235
287	شان نزول، فدک کا باغ	-236
289	”جبرائیل“ کا معنی	-237
290	آنحضرت <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا حضرت جبرائیل <small>علیہ السلام</small> کو دیکھنا	-238
291	یہود کی حضرت جبرائیل <small>علیہ السلام</small> سے دشمنی	-239
292	منکر ختم نبوت کی سزا	-240
294	اولیاء اللہ کی توہین پر اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ	-241
295	”بہاری“ اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	-242
295	قیام پاکستان اور بزرگوں کی پیش گوئی، تجاویز	-243
297	”انجیل برنباہس“ اور عیسائی	-244
300	لفظی ترجمہ (آیت : ۱۰۲ تا ۱۰۳)	-245
301	جادو کی شرعی حیثیت	-246
302	معجزہ اور جادو میں فرق	-247
304	حضرت سلیمان <small>علیہ السلام</small> پر جادو کا الزام	-248
305	ہاروت و ماروت <small>علیہما السلام</small> کا قصہ	-249
307	امام رازی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی تفسیر	-250

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
310	”فال“ نکلوانے کا حکم	-251
312	لفظی ترجمہ (آیت : ۱۰۴ تا ۱۰۸)	-252
313	رہنچلے	-253
314	یہودیوں کی لفظی تحریف	-254
314	صحیح الفاظ کی غلط تعبیر	-255
316	حضرت نانوتوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا ارشاد	-256
317	نبوۃ کسی نہیں	-257
318	مسائل نسخ	-258
318	”نسخ“ پر دیانند سوتی کا اعتراض	-259
319	حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے جوابات	-260
319	پہلی شق	-261
320	حضرت عبداللہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> اور استقامت دین	-262
321	دوسری شق	-293
321	تیسری شق	-264
323	امریکہ اور شاہ ایران	-265
325	بے جا سوالات کا مرض	-266
328	لفظی ترجمہ (آیت : ۱۰۹ تا ۱۱۲)	-267

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
329	اہل کتاب کے مصداق	-268
330	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین	-269
331	حسد کی تعریف / انجام اور بچاؤ کے طریقے	-270
333	دوسرے اور اس کی تعریف	-271
333	حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا قول مبارک	-272
334	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سونے کے ٹکڑے کا یاد آنا	-273
336	قبولیت اعمال کی شرائط	-274
337	رمضان المبارک میں تلاوت کا ثواب	-275
337	آٹھ تراویح کی بدعت	-276
338	جنت میں کون جائے گا؟	-277
342	لفظی ترجمہ (آیت : ۱۱۳ تا ۱۱۷)	-278
344	رہیظ	-279
344	یہود و نصاریٰ کی محاذ آرائی	-280
345	جاہل مشرکین کا عقیدہ	-281
346	بدکار جوڑے کی پوجا	-282
347	مسلمانوں کو عمرہ سے روکنا	-283
348	شاہ روم کا مسجد اقصیٰ پر حملہ اور نمازیوں کا قتل عام	-284

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
349	مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا	-285
350	مسجد کے چند آداب	-286
351	قبلہ کی تبدیلی	-287
352	”بدعت“ اور ”ایجاد“ کا فرق	-288
356	لفظی ترجمہ (آیت : ۱۱۸ تا ۱۲۱)	-289
357	رہیظ	-290
357	کفار کا بے جا مطالبہ	-291
360	کفار کی باہمی مشابہت	-292
361	ہدایت دینا صرف خدا کا کام ہے	-293
362	یہود و نصاریٰ کی پیروی	-294
363	یہود و نصاریٰ کی نقالی پر آنحضرت ﷺ کا فرمان مبارک	-295
363	تلاوت و کلام پاک کے آداب	-296
367	لفظی ترجمہ (آیت : ۱۲۲ تا ۱۲۵)	-297
368	بنی اسرائیل کون تھے؟	-298
370	روز قیامت کی نفسا نفسی	-299
372	حفاظ، شہدا اور نابالغ بچوں کی سفارش	-300
373	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان	-301

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
373	ایک اشکال	-302
374	جواب	-303
376	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں	-304
376	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بدکردار بادشاہ	-305
378	قبلہ رخ ہونے کا حکم	-306
379	بیت اللہ کی تعمیر	-307
380	مقام ابراہیم علیہ السلام کے دو نفل	-308
380	مسئلہ	-309
383	لفظی ترجمہ (آیت : ۱۲۶ تا ۱۲۹)	-310
384	رہنما	-311
386	زمزم کا چشمہ	-312
386	مکہ مکرمہ کی آبادی	-313
387	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امانت	-314
388	دنیا کی زندگی کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا فرمان مبارک	-315
389	”کعبہ“ کا معنی	-316
390	بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر	-317
391	بعثت محمدی کے تین ظاہری اسباب	-318

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
392	نبی اکرم ﷺ کے چار فرائض منصبی	-319
394	صدقہ کا شرعی مفہوم	-320
394	نقلی نماز کی جماعت :	-321
398	لفظی ترجمہ (آیت : ۱۳۰ تا ۱۳۵)	-322
400	رہط	-323
400	ملت ابراہیمی کی پیروی	-324
401	پنچمبر فرشتوں سے افضل ہیں	-325
404	حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور شیطان کو کنکریاں مارنا	-326
405	انبیاء (علیہم السلام) اور علم غیب	-327
406	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باقی بیٹے	-328
407	نیکی کا اختیار اور توفیق	-329
408	حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت	-330
410	اللہ تعالیٰ کی ذات میں جھگڑا	-331
411	حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اور مسلم تھے	-332
413	لفظی ترجمہ (آیت : ۱۳۶ تا ۱۴۱)	-333
416	رہط	-334
416	”سبٹ“ کا معنی	-335

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
417	انبیاء علیہم السلام کی باہمی فضیلت	-336
418	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان معیاری ہے	-337
421	”اہل سنت“ کا مطلب	-338
422	”عید میلاد“ اور اس کے تین بانی	-339
423	توحید کا رنگ	-340
424	انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام کا دین	-341
425	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و نزول	-342



حالات واقعی

ختم قرآن کے موقعہ پر میں نے بتایا تھا کہ پاکستان بننے سے پانچ سال قبل جولائی ۱۹۴۳ء میں گلگت میں آیا اور ۱۰ جولائی ۱۹۴۳ء سے درس قرآن کریم شروع کیا تین دن قرآن پاک کا درس ہوتا رہا اور تین دن حدیث شریف کا درس ہوتا رہا۔ الحمد للہ! درس سننے والوں نے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ صحاح ستہ یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابوداؤد شریف کے علاوہ مستدرک حاکم کی چار جلدیں اور ابوداؤد طیالسی، ادب المفرد، الترغیب و الترہیب اور جامع الصغیر بھی دروس میں سنیں یہ سب حدیث کی کتابیں ہیں میں ان احادیث کے الفاظ بھی باقاعدہ پڑھتا تھا تا کہ تمہارے کان آنحضرت ﷺ کے الفاظ کے ساتھ مانوس ہو جائیں۔

میں ڈائریاں تو نہیں دیکھ سکا مگر میرے خیال کے مطابق (کیونکہ حافظہ کمزور ہو گیا ہے اور اس عمر میں ہونا بھی چاہیے) یہ دسویں مرتبہ قرآن کریم درس میں ختم ہوا ہے۔ اگر قرآن کریم کے ساتھ حدیث کا درس نہ ہوتا تو اس سے زیادہ مرتبہ ختم ہو چکا ہوتا ساتھی درس کی کیسٹ کر رہے ہیں اور کچھ درس کیسٹ سے رہ گئے ہیں۔ اس لئے یہ طے کیا ہے کہ دو دن تسلسل کے ساتھ درس ہوگا اور تیسرے دن جن آیات اور سورتوں کا درس کیسٹ سے رہ گیا ہے ان کا اعادہ ہوگا تا کہ قرآن کریم کا جو حصہ

کیسٹوں سے رہ گیا وہ بھی درج ہو جائے۔

آج صرف قرآن کریم کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں گے۔ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے۔ اور صرف قرآن کریم کو یہ شرف اور فخر حاصل ہے کہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے تو راقۃ النجیل زبور بھی برحق ہیں اور باقی جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں تمام کے تمام برحق ہیں۔ اور ہمارا سب پر ایمان ہے مگر قرآن کریم کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب اور صحیفہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے ان میں تحریف کر دی گئی۔

قرآن کریم اپنی اصلی شکل و صورت میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا اور جب تک دنیا میں قرآن کریم موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے درقوں سے الفاظ صاف کر دیئے جائیں گے۔

رات کو لوگ قرآن پڑھ کر سوئیں گے صبح کو جب اٹھیں گے تو ورنے صاف ہوں گے اور حافظوں اور قاریوں کے سینوں سے بھی قرآن کریم نکال لیا جائے گا یہ ان کی توہین کے لئے نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے نظام کو سمیٹنے کے لئے ایسا کیا جائے گا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت دنیا میں اللہ، اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ **فَعَلَىٰ أُولَٰئِكَ تُقَامُ السَّاعَةُ** پس ان لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔

بہر حال اس وقت آسمانی کتابوں میں صرف قرآن کریم اصلی حالت میں موجود اور محفوظ ہے۔ اس کے لفظوں کی بھی حفاظت ہوئی ہے۔ ترجمے کی بھی حفاظت ہوئی ہے۔ اس کی تفسیر کی بھی حفاظت ہوئی ہے۔ اور اس کے لب و لہجے کی بھی

حفاظت ہوئی ہے۔ آخری پیغمبر کی امت نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کی ہے اس طرح کوئی امت بھی اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔

اور قرآن کریم میں ہے **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ** تمام امتوں میں سے تم بہتر امت ہو یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا حالانکہ قاعدے اور دستور کے مطابق اس کا حساب آخر میں ہونا چاہیے کیونکہ آخر میں آئی ہے اور پل صراط سے سب سے پہلے یہ امت گزرے گی اور جنت بھی سب سے پہلے یہ امت داخل ہوگی آنحضرت ﷺ کے بعد ترتیب یوں ہوگی جنت میں پہلا قدم آنحضرت ﷺ کا اور دوسرا قدم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوگا اور تیسرا قدم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور چوتھا قدم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہوگا اور پانچواں قدم حضرت علی رضی اللہ عنہ رکھیں گے۔ کیونکہ تمام پیغمبروں کے بعد ان کا مقام ہے۔ پھر باقی امت داخل ہوگی۔ اس امت کو آخری پیغمبر اور قرآن کریم سے تعلق کی وجہ سے یہ مقام عطا ہوا ہے۔

قرآن کریم بڑی عظیم کتاب ہے صحاح ستہ میں سے ابن ماجہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ ابن ماجہ میں روایت آئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابو ذر! اگر تو صبح کو ایک آیت سیکھ لے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تو اس سے بہتر ہے کہ تو سو رکعت پڑھے اور اگر تو صبح کو ایک باب سیکھ لے علم کا اور عمل کرے یا نہ کرے تو ہزار رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔

یعنی ایک آدمی قرآن کریم کی ایک آیت سیکھتا ہے بغیر ترجمہ اور تفسیر کے اور

ایک آدمی سو نفل پڑھتا ہے تو سو نفل پڑھنے والے سے ایک آیت کریمہ سیکھنے والے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہزار نفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی قرآن کریم کی ایک آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی شان فضیلت اور ثواب ہزار رکعت نفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے۔

مثلاً ایک آدمی نے صحیح تلفظ کے ساتھ **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ○ پڑھنا سیکھا تو اس کا درجہ سو نفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے۔ اور اس کا معنی اور تفسیر سمجھ لے تو اس کا درجہ ہزار رکعات نفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے۔ ہزار رکعات پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مگر جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ایک رات میں ایک ہزار نفل پڑھا کرتے تھے۔ ورد وظیفے جتنے بھی ہیں اپنی اپنی جگہ تمام کے تمام برحق ہیں۔ مگر قرآن کریم پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اور ترتیب کے ساتھ تمام کا تمام قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔

بعض مرد اور عورتیں اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے پانچ سورتے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں پانچ سورتوں کو ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اور بعضے صرف سورۃ یٰسین کو ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ بے شک یہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہیں۔ مگر قرآن کریم سارا پڑھنا چاہیے۔ تھوڑا پڑھو زیادہ پڑھو۔ اول سے لے کر آخر تک پڑھو۔ اور قرآن کریم روزانہ پڑھنے کا معمول بناؤ۔ بلکہ آج کے دن سے عہد کر لو کہ ہم سے جتنا بھی ہو سکا پارہ آدھ پارہ یا پاؤ ہم روزانہ ضرور پڑھیں گے۔ باقی وہ سورتیں جو اپنے مطلب کے لئے پڑھتے ہو بے شک وہ بھی پڑھوان کی افادیت سے انکار نہیں ہے۔

اور پڑھو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ کہ معلوم ہو کہ عربی پڑھ رہا ہے۔ اور لوگ تلفظ کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ تلفظ اتنا تو ضرور ہو کہ پتہ چلے کہ عربی ہے یا پنجابی ہے۔ اسی طرح اذان اور تکبیر کا بھی تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ الفاظ صحیح ہوں اعراب صحیح ہوں، لہجہ صحیح ہو۔ اگرچہ اب تم قاری تو نہیں بن سکتے مگر کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ سننے والا سمجھ جائے کہ یہ عربی پڑھ رہا ہے پنجابی اور گرمکھی نہیں پڑھ رہا۔

مردوں کی طرح عورتیں بھی صحیح تلفظ کی طرف توجہ دیں۔ اس سلسلے میں پہلے تو خاصی دقت اور پریشانی ہوتی تھی۔ اب تو الحمد للہ ثم الحمد للہ قاری بھی آپ کے پاس موجود ہیں ان کے پاس جائیں اور تلفظ درست کریں۔

قرآن کریم کے کچھ آداب بھی سن لیں.....

①..... قرآن کریم کا پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن شریف کے پڑھنے سے

پہلے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ پڑھا ہے پھر قرآن

کریم پڑھنا شروع کریں اور یہ ادب خود قرآن کریم میں مذکور ہے اللہ

تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَ اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِّنَ

الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ اور جب تو پڑھے قرآن تو پناہ لے اللہ تعالیٰ

کی شیطان مردود سے۔

کیونکہ آدمی جب نیکی کرنے لگتا ہے تو شیطان درمیان میں کود پڑتا ہے کہ یہ

نیکی نہ کرے۔ اور وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا اور ہے بھی ہم سے طاقتور اور مضبوط اور

رب تعالیٰ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ لہذا رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے پروردگار! تو مجھے

اس کے شر سے محفوظ فرما۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو مجھے اس مردود کے شر سے اپنی

پناہ میں رکھتا کہ وہ میرے دل میں دوسو سے نہ ڈالے اور انسان جب نیکی کرتا ہے تو شیطان بڑے دوسو سے ڈالتا ہے وہ کام جو آپ کو پہلے اور پیچھے یاد نہیں آتے نماز میں اور قرآن کریم پڑھتے وقت وہ یاد آجاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے فلاں کام بھی کرنا ہے۔ فلاں جگہ ضروری جانا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان آکر کہتا ہے اذْکُرْ کَذَا، اذْکُرْ کَذَا فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر۔

② قرآن کریم کا دوسرا ادب یہ ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کُلُّ اَمْرٍ ذِیْ بَالٍ لَّمْ یُبْدَءْ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَهُوَ اَقْطَعُ ہر ذیشان کام جو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ دم کٹا ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے۔

دیکھو! جانور کی دم کٹی ہوئی ہو تو وہ کیسا برا لگتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی اچھا اور جائز کام کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھو ورنہ اس کام میں برکت نہیں ہوگی۔ مکمل بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نہ پڑھے صرف بسم اللہ کہہ لے تو بھی ٹھیک ہے۔

مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مکمل پڑھنی چاہیے۔ وضو کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے وغیرہ۔

اور یاد رکھنا کہ برے اور ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب پینے سے پہلے کہے بِسْمِ اللّٰهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تو ایسا شخص کافر و مرتد ہو گیا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو قرآن کریم کے آداب میں سے پہلا ادب ہے تعویذ پڑھنا اور دوسرا ادب ہے تسمیہ پڑھنا۔

③..... اور قرآن کریم کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ البتہ بغیر وضو کے زبانی پڑھ سکتا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں عورت قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی اور مرد جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کچھ نہ پڑھنے البتہ اس حالت میں ذکر کر سکتے ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ پڑھ سکتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ وظیفہ قرآن سے نہ ہوں۔

④..... قرآن کریم کا جتنا ادب و احترام کیا جائے کم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو پست جگہ پر نہ رکھا جائے۔

⑤..... اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے۔ قرآن سے بلند ہو کر نہ بیٹھا جائے۔

⑥..... ایسے مدرسہ میں جہاں طلبہ کی تعداد زیادہ ہو اور جگہ کم ہو تو پڑھنے والے آگے پیچھے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ایسی صورت میں اگر پیٹھ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ مجبوری ہے۔

⑦..... قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا کارِ ثواب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے۔

⑧..... اس کے ورقوں کا پلٹنا بھی ثواب ہے۔ قرآن کریم میں تو ثواب کی

گٹھڑیاں ہیں مگر ہم حاصل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

①..... جو لوگ قرآن کے ترجمہ میں شریک نہیں ہیں ویسے سننے کے لئے

بیٹھ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں۔

بعض لوگ اپنی سہولت کے لئے ایسا کرتے ہیں۔

②..... اس طرح بچوں کو بھی درمیان میں نہ بیٹھنے دیں۔ وہ بے چارے کیا

سمجھیں گے۔ اور آپ حضرات قرآن کریم کو سامنے رکھو اور غور سے

سمجھو اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہے۔

قرآن کریم آنحضرت ﷺ پر اتارے جانے سے پہلے لوح محفوظ میں تھا اللہ

تعالیٰ کے حکم سے رمضان المبارک کے مہینہ میں لیلة القدر کی رات کو سارے کا سارا

قرآن کریم ایک دفعہ آسمان دنیا پر بیت العزت کے مقام پر اور اس کو بیت

العظمت بھی کہتے ہیں اتارا گیا۔ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں اسی کا

ذکر ہے۔ پھر بیت العزت اور بیت العظمت کے مقام سے آنحضرت ﷺ پر

تیس سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ سے لے کر عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ

يَعْلَمُ تک کی پانچ آیتیں غار حرا میں آپ ﷺ پر نازل ہوئیں۔ اور آخری آیت

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ○ ہجرت کے دسویں سال حجۃ الوداع کے موقعہ

پر جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔

تقریباً چھبیس سو تیس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور باقی سو تیس مدینہ منورہ

میں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کے یہ بڑے بڑے آداب میں نے آپ کے سامنے بیان کئے ہیں۔

اصول تفسیر :

قرآن کریم کی تفسیر کا قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے ہوگی اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب کوئی مشکل آیت کریمہ آجاتی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ فلاں صفحہ کی فلاں آیت کریمہ نکالو اور اس کے لئے ایک اصطلاح اور قاعدہ بھی سمجھ لیں۔ پہلے پارے کا آخری رکوع نکالو تا کہ یہ قاعدہ آسانی سے سمجھ آجائے۔

”عین“ کا استعمال اور معنی :

دیکھو! جہاں آخری رکوع ختم ہوتا ہے کنارے پر ”ع“ کی علامت تو ”ع“ کا معنی جز اور حصہ ہے اس ”ع“ کے اوپر سولہ کا ہندسہ ہے اور اس کے پیٹ میں بارہ کا ہندسہ ہے اوپر والا ہندسہ سورۃ کے رکوع بتاتا ہے اور نیچے والا ہندسہ پارے کے رکوع بتاتا ہے کہ یہاں تک اتنے رکوع ہو گئے ہیں اور پیٹ والا ہندسہ یہ بتاتا ہے کہ اس رکوع میں اتنی آیتیں ہیں۔ لہذا اس ”ع“ کا اوپر والا سولہ کا ہندسہ کا بتا رہا ہے کہ یہاں تک سورۃ کے سولہ رکوع ہو گئے ہیں۔ اور نیچے والا ہندسہ بتا رہا ہے پارے کے سولہ رکوع ہیں اور پیٹ (درمیان) والا ہندسہ بتا رہا ہے کہ اس رکوع میں بارہ آیتیں ہیں۔ بہر حال قرآن کریم کی تفسیر.....

..... ① پہلے نمبر پر قرآن کریم سے ہوگی۔

..... ② دوسرے نمبر پر حدیث پاک سے ہوگی۔ کیونکہ جس ذات پر قرآن

نازل ہوا ہے اس سے بہتر قرآن کریم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور آپ ﷺ کی تفسیر سب پر مقدم ہوگی۔

..... (۳) تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہوگی۔ خصوصاً

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیونکہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑے مفسر قرآن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام امت سے دو امتیازی خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔

(۱)..... ایک تو وہ قرآن پاک کے پہلے نمبر کے مفسر ہیں۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے وہ خود فرماتے ہیں مجھے رب کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے سے زیادہ کوئی قرآن کریم کو جاننے والا ہے اور میری اونٹنی وہاں تک مجھے لے جاسکتی ہو تو میں ضرور جا کر اس سے حاصل کروں۔

(۲)..... اور دوسری اور سب سے بڑی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اَفْقَهُ الْأُمَّةُ ہیں۔ تمام امت میں سب سے بڑے فقیہ تھے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ اور ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ۔ کیونکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کامران اساتذہ سے فقہ حاصل کی ہے اور ان سے قرآن و سنت کو سمجھا ہے اس لئے تفسیر قرآن اور فقہ میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔

تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد نمبر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا۔ جن کے لئے آنحضرت ﷺ نے دعا فرمائی تھی کہ ”اے پروردگار! ان کو قرآن کریم کا ماہر بنا دے“۔ ان کے بعد پھر باقی صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ اور صحابہ

کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین کا درجہ اور مقام اور ان کے بعد تابع تابعین اور ان کے بعد درجہ بدرجہ سلف صالحین کا مقام ہے۔ یہ بات پختہ اور یقینی ہے کہ ہم ان پر اعتماد کئے بغیر از خود قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتے یہ حضرات ہمارے دین کا سرمایہ ہیں۔

قرآن کریم کی طرح حدیث پاک ہم ان کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث کی سند محدثین کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھیں گے اور اس کا معنی اور مفہوم فقہاء کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھیں گے تو قرآن کریم کی تفسیر اس ترتیب سے ہوگی جو میں نے بیان کیا ہے اور امید ہے کہ درس سننے والوں کی حاضری پہلے سے زیادہ ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو ساتھی نہیں آئے ان کو لے کر آنا اور عورتیں بھی اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے کر آیا کریں تاکہ ان کو بھی قرآن کریم کی سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ① اَلرَّحْمٰنِ
 الرَّحِيْمِ ② مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ③ اِيَّاكَ
 نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ④ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيْمَ ⑤ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِمْ ⑥ غَيْرِ الْمَفْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ⑦
 وَلَا الضَّالِّيْنَ ⑧

لفظی ترجمہ :

اَعُوذُ بِاللّٰهِ میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
 الشَّيْطٰنِ شیطاں مردود سے بِسْمِ اللّٰهِ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام
 سے الرَّحْمٰنِ جو بے حد مہربان ہے الرَّحِيْمِ نہایت رحم والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَامَ تَعْرِيفِ اللَّهِ تَعَالَى كَلَيْهِ هِيَ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا الرَّحْمَنُ بے حد مہربان ہے الرَّحِيمُ
 نہایت رحم کرنے والا ہے مُلِكُ يَوْمِ الدِّينِ جو مالک ہے جزا اور بدلے
 کے دِنِ كَا اِيَّاكَ نَسْبُدُ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَ اِيَّاكَ
 نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ چلا ہم کو سیدھے راستے پر صِرَاطَ الَّذِينَ رَاسَتْنَا ان لوگوں کا
 اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جن پر تو نے انعام کیا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ان
 لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا وَلَا الضَّالِّينَ اور نہ گمراہوں کا
 آمین رب تعالیٰ ایسا ہی کرے۔

فضائل :

اس سورۃ کا نام سورۃ الفاتحہ ہے فتح کا ایک معنی کھولنا بھی ہے چونکہ یہ سورۃ
 قرآن کریم کو کھولنے والی ہے، اس سے قرآن کریم کی ابتداء ہوتی ہے اس لئے اس کو
 فاتحہ کہتے ہیں۔

جس طرح کسی شے کا عنوان ہوتا ہے یہ سورۃ قرآن کریم کا عنوان ہے اور اس
 کا نام سوال بھی ہے کہ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ کسی سے سوال
 کرنے اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائل جس سے مانگتا ہے پہلے اس کی تعریف کرتا
 ہے کہ تم بڑے ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو اور سخی ہو پھر اپنا تعلق بتاتا ہے میں تمہارا شہر دار یا
 محلہ دار ہوں اور تمہارے زیر سایہ ہوں پھر اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے،

پھر اپنا سوال پیش کرتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے جو تمہارے سے مانگنے آیا ہوں۔
 اس سورۃ میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
 اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مِلْکِ یَوْمِ الدِّیْنِ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو پالنے
 والا ہے تمام جہانوں کا بے حد مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے جو مالک ہے جزا
 اور بدلے کے دن کا۔ پھر اپنا تعلق بتایا.....

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور
 خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور آگے سوال ہے.....

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ اس سورۃ کا نام
 شافیہ بھی ہے۔ یعنی شفا دینے والی۔ حقیقتاً تو شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مگر
 اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے جس کی وجہ سے روحانی اور جسمانی بیماریوں
 سے شفا ملتی ہے۔

بخاری شریف صفحہ ۳۰۴ میں روایت آتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک محاذ پر
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کامیابی کے بعد جب واپس ہوئے
 رات ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی وہاں رات گزارنے کا ارادہ کیا لیکن وہاں کے
 لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کیا کہ ہم صابیوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔
 جس طرح آج کل اہل حق کو وہابی کہتے ہیں اس وقت اہل حق کو صابی کہتے تھے۔ کہنے
 لگے کہ ہم نے صابیوں کو یہاں نہیں رہنے دینا۔

اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے ساتھی تبلیغی جماعت والے بعض قصبات
 میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کے بسترے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں اور ان کو

ہاتھوں اور کانوں سے پکڑ کر باہر نکال دیتے ہیں کہ لوگ ان کی باتیں سن کر متاثر ہوں گے اور ہمارے ریوڑ سے نکل جائیں گے۔ ورنہ یہ لوگ ان سے کچھ مانگتے تو نہیں ہیں۔ اپنا کھانا اور اپنا پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

بہر حال انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قصبے سے باہر نکال دیا چونکہ اُندھیرا تھا انہوں نے قصبے کے قریب ہی ڈیرہ لگا لیا کہ رات گزار لیں اور صبح کو چلیں گے اتفاق ایسا ہوا کہ قصبے کے بڑے سردار کو زہریلے قسم کے موذی جانور نے ڈنگ مارا۔ روایت میں ہے کہ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی یعنی وہاں جتنے چھو منتر اور دم کرنے والے تھے کسی کا بس نہ چلا۔ مجبور ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو کوئی زہریلی چیز لڑ گئی ہے کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں دم کریں گے مگر تمیں بکریاں لیں گے۔ تمیں اس لئے کہا کہ یہ آدمی تمیں تھے ہر ایک کو ایک، ایک آجائے گی۔

چنانچہ ان کے ساتھ گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا گاتھا نَشَطَ مِنْ عِقَالٍ گویا کہ اس کو گرہ سے کھول دیا ہے۔ یعنی اس کو اس طرح محسوس ہوا کہ کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ فرمایا شرط پوری کرو کہ تمیں بکریاں ہمارے حوالے کرو۔ چنانچہ تمیں بکریاں گن کر ان سے لیں۔ مگر تقسیم نہ کیں کہ مدینہ طیبہ میں جا کر آنحضرت ﷺ سے دریافت کریں گے اگر ہمارے لئے جائز ہوں گی تو تقسیم کریں گے ورنہ مالکوں کو واپس کر دیں گے۔

مدینہ طیبہ پہنچ کر آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا آپ ﷺ نے فرمایا "إِنَّ

أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ“ بیشک جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر اجر لو۔ اور فرمایا کہ اس مزدوری میں سے میرا بھی حصہ نکالو۔

آپ ﷺ کا یہ فرمانا حرص اور لالچ نہ تھا بلکہ صرف ان کا وہم دور کرنا مقصود تھا کہ یہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اگر اس میں کسی قسم کا شبہ ہوتا تو حضور ﷺ یہ نہ فرماتے کہ مجھے بھی حصہ دو۔

اس روایت کے پیش نظر تمام فقہاء کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی تعویذ گنڈے اور دم کرنے پر اجرت لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس سورۃ کو شافیہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کا معنی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں چونکہ کتاب کو شروع کرنا ہے اس لئے شروع کا فعل نکالتے ہیں ورنہ جس کام کے لئے پڑھو گے وہی فعل نکالیں گے مثلاً کھانا کھانا ہے تو وہاں اَكْلُ کا فعل نکالیں گے اور ترجمہ ہوگا میں کھانا کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر کچھ پینا ہے تو اشْرَبُ کا فعل نکالیں گے کہ میں پیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے اور پڑھنے کے وقت اَلْقُوْا نکالیں گے کہ میں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمن اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگنے اور سوال کرنے کے دے اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے اور سوال کرنے کے

بعد دے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمن کہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وجود ملا ہے، کان ملے ہیں، آنکھیں ملی ہیں، ناک ملا ہے، دل، دماغ ملا ہے، زبان ملی ہے، سب کچھ اس نے بغیر مانگنے کے دیا ہے اور کتنی چیزیں ہیں جو اس نے بن مانگے عطا فرمائی ہیں۔ کیونکہ جب اس نے عطا کی ہیں، ہمیں اس وقت سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی کہ مانگتے اور مانگنے پر بھی وہی دیتا ہے کہ رحیم بھی ہے اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا.....

الْحَمْدُ لِلَّهِ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ ایک ہے حمد اور ایک ہے مدح۔ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کے ذاتی افعال پر کی جائے ذاتی اوصاف پر کی جائے۔ مدح عام ہے کسی کی خوبی ذاتی ہو یا غیر ذاتی ہو۔ اس پر جو تعریف کی جائے تو اس کو مدح کہتے ہیں۔

لہذا حمد صرف رب تعالیٰ کیلئے ہے کہ اس کی تمام خوبیاں اور اوصاف ذاتی ہیں مستعار اور مانگی ہوئی نہیں ہیں۔ اور ”تمام“ کا معنی الف لام کا ہے۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اگر رب کا مفہوم ہی سمجھ لے تو شرک کے قریب نہیں جاسکتا کیونکہ تربیت کے لئے رہائش کی ضرورت، خوراک کی ضرورت، پانی کی ضرورت، ہوا کی ضرورت، حفاظت کی ضرورت اور جتنی بھی چیزیں تربیت کے لئے ضروری ہیں وہ سب رب تعالیٰ کے پاس اور اسی کے اختیار میں ہیں۔ تو کوئی اور اس کا شریک اور حصے دار کس طرح بن گیا؟۔ اور اس کے سوا کسی اور کے پاس حاجت روائی کے لئے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟۔ اور تربیت کرنے والا صرف رب تعالیٰ ہے۔

عَالَمِينَ جمع ہے عالم کی اور عالم کے معنی ہیں جہان اور جمع کا صیغہ اس لئے

لائے ہیں کہ عالم میں کئی عالم ہیں انسانوں کا عالم ہے، حیوانوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، حشرات الارض کا عالم ہے، تو تمام عالموں کا پالنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔

الرَّحْمَنُ بَعْدَ مَهْرَبَانَ الرَّحِيمِ نہایت رحم کرنے والا ہے مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔

دین کا معنی بدلا اور جزا ہے۔ آج بھی حقیقی مالک تو وہی ہے مگر عارضی طور پر بندوں کو بھی مالک بنایا ہے۔ اور تیری میری کہتے ہیں۔ کہ ادھر تیری حکومت ہے اور ادھر میری حکومت ہے۔ فلاں چیز تیری ہے اور فلاں چیز میری ہے۔ تیرا اقتدار ہے اور میرا اقتدار ہے۔ مگر قیامت کے دن جب تمام کائنات جمع ہوگی رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لَمَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ؟ بتاؤ آج کس کا ملک اور شاہی ہے؟۔ دنیا میں تم بادشاہ اور ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ میرا ملک اور میری شاہی ہے۔ اس وقت سب کی زبان سے نکلے گا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ آج اللہ واحد، قہار کی شاہی ہے۔ وہاں میری، تیری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ اے پروردگار! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ قاعدے کے مطابق تو نَعْبُدُكَ ہونا چاہیے تھا۔ کہ نعبد پہلے اور ”کاف“ ضمیر بعد میں ہونی چاہیے تھی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں مگر ضمیر کو فعل فاعل پر مقدم کر دیا تاکہ حصر پیدا ہو جائے۔ اب معنی ہوگا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ زبانی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ اور التحیات میں بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔

الَّتَحِيَّاتُ لِلَّهِ زبَانِي عِبَادَتِي اللّٰهُ تَعَالَى كَيْ هِيَ وَالصَّلَاةُ اَوْرَبْدَنِي
عِبَادَتِي بِي صَرْفِ اللّٰهُ تَعَالَى كَيْ لَيْ هِيَ وَالطَّيِّبَاتُ اَوْرَمَالِي عِبَادَتِي بِي صَرْفِ اللّٰهُ
تَعَالَى كَيْ لَيْ هِيَ۔ هِر طَرْحِ كِي عِبَادَتِ اللّٰهُ تَعَالَى كَيْ لَيْ هِيَ۔ اِس كَيْ سَوَا مَعْبُودِ
كُوْنِي نِي هِيَ۔ وَرَايَاكَ نَسْتَعِينُ اَوْر خَاصِ تَجْهِي هِيَ سِي مَدِ دَطْلَبِ كَرْتِي هِيَ۔

استعانت کی مختلف صورتیں :

استعانت کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں استعانت کی دو قسمیں ہیں.....

① ایک ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے کہ مثلاً بیمار آدمی حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے۔ غریب امیر سے مدد لیتا ہے۔ کمزور آدمی کوئی وزنی کام خود نہیں کر سکتا طاقت ور سے بدنی مدد لیتا ہے کہ میرا ہاتھ بٹاؤ یہ ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے۔ اس کے جائز ہونے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اسی استعانت کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ نِيكِي اَوْر تَقْوَىٰ كَيْ كَامُوں مِيں اِيك دوسرے كِي مَدِ كَرُو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اَوْر گناہ اور زيادتی كے كَامُوں مِيں اِيك دوسرے كِي مَدِ نہ كَرُو۔ تو اسباب كے تحت جو مَدِ اَوْر معاونت ہے يہ جائز ہے۔

② دوسری استعانت ہے مَافَوْقِ الْاَسْبَابِ اسباب سے بالاتر کسی

سے مدد طلب کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مثلاً میں کہوں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے اس کو دور کر دے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کہوں کہ مجھے درد کیلئے کوئی گولی دے دو، پھکی دے دو، یہ اسباب کے تحت ہے یہ جائز

آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا فرمائی جس کا علاج نہ ہو سوائے دو بیماریوں کے ایک بڑھاپا اور دوسری موت۔ تو ماتحت الاسباب استعانت اور ہے، اور مافوق الاسباب استعانت اور ہے۔ دونوں میں گڑبڑ نہ کرنا۔

ایک شخص یہاں کھڑا ہے اور کہتا ہے اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری مدد کر یہ مافوق الاسباب استعانت ہے۔ اس طرح کہنے میں ان کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب ماننا پڑے گا اور متصرف فی الامور سمجھنا پڑے گا اور یہی کفر کی بنیاد ہے۔ تمام فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ ”مَنْ قَالَ اَرْوَاحُ الْمَشَايخِ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ يَكْفُرُ“ شامی، عالمگیری، البحر الرائق اور بزاز یہ میں ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ مشائخ کی ارواح حاضر ہیں اور ہمارے حالات کو جانتی ہیں وہ پکا کافر ہے کیونکہ یہ مافوق الاسباب استعانت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے جائز نہیں ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ سَلَا لَكَ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ تَبَّكَ اللَّهُ تَعَالَى كِي تَعْرِيفِ تَحَىٰ اُوْر
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مِي اِيْنَا تَعْلُقُ تَبَايَا كِه اِيْم تِيْرِي هِي عِبَادَتِ كِرْتِي هِي
اُوْر تَجْهِي هِي سِي مَدِ طَلْبِ كِرْتِي هِي ، مَا نَكْتِي كِيَا هِي ؟ اِيْ كِي اِيْ كَا ذِكْرِي هِي ۔
فرمایا.....

صراطِ مستقیم :

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ جَلَا اِيْم كُو سِيْدِي هِي رَا سْتِي پَر صِرَاطِ الَّذِيْنَ
رَا سْتِي اِن لُو كُو ل كَا اِنْعَمْتَّ عَلِيْهِمْ جِن پَر تُوْنِي اِنْعَامِ كِيَا ۔ كَل مِي لِي نِي عَرْضِ كِيَا تَحَا

کہ قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کریم سے ہو تو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
کی تفسیر خود قرآن کریم نے کی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ یہ لوگ ہیں
فرمایا.....

انعام یافتہ قومیں :

قَاوَلْنَاكَ مَعَ الدِّينِ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے
انعام کیا ہے۔ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وہ نبی ہیں،
صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ان چاروں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔

①..... پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعام اپنے
پیغمبروں پر کیا ہے۔ وہ اور کسی پر نہیں کیا۔

②..... دوسرے نمبر پر صدیق ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی
تصدیق کی ہے۔

③..... تیسرے نمبر پر شہداء ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتے
ہوئے کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

④..... چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ کہ وہ نہ تو پیغمبر ہیں نہ صدیق ہیں، نہ شہید
ہیں۔ بلکہ ایمان لا کر نیکیاں کرنے کے اخلاق حسنہ کے ساتھ نیکوں کی
صف میں شامل ہو گئے ہیں۔

یہ چار گروہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ یہ صراطِ مستقیم پر چلنے والے
ہیں۔ اور صراطِ مستقیم کیا ہے؟ اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمائی

ہے۔ آٹھواں پارہ چھٹا رکوع نکال کر دیکھ لیں.....

اعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيْكُمْ عَلَيَّكُمْ اَنْ لَا

تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدِيْنَ اِحْسَانًا ؕ وَ

لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

وَاِيَّاهُمْ ؕ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطْنٌ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ

اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

① وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ

اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ؕ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ

وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ؕ لَنْ كَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا

وُسْعَهَا ؕ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ

وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا ؕ ذٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۲﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَلِكَمُ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۵۳﴾

اے نبی کریم! (ﷺ) آپ کہہ دیں آؤ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں وہ چیزیں جو حرام فرمائی ہیں تمہارے پروردگار نے تم پر وہ یہ ہیں کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہری ہوں ان میں سے اور جو پوشیدہ ہوں ان میں سے اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ مگر حق کے ساتھ ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تاکید حکم دیا ہے تم کو تاکہ تم سمجھ جاؤ۔

اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی قوت کو اور پورا کر دیا پ اور تول کو انصاف کے ساتھ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق اور جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو اگرچہ قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ پس اس پر تم چلو۔

تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور اصول بیان فرمائے ہیں اور اس پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا.....

مغضوب علیہم :

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ اِن لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا
وَلَا الضَّالِّينَ اور نہ گمراہوں کا۔ ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۲۴ مسند احمد ج ۴ ص
۳۷۸ میں روایت ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ یہودی ہیں اور
ضَّالِّينَ نصاریٰ ہیں۔

یہودی حقیقت کو جانتے اور سمجھتے تھے پھر ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں
ارشادِ ربانی ہے يٰعَرَفُونَكُمْ اَبْنَاءَهُمْ وہ اس پیغمبر کو اس طرح
پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔
گمراہی کے دو ہی طریقے ہیں.....

① ایک یہ کہ لاعلمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حق کو نہ حاصل کر سکے۔

② دوسرا یہ کہ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی انکار کر گئے۔

یہودی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو پہچاننے اور قرآن کریم کو حق جاننے کے باوجود
محض ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے اور نصاریٰ کے پاس اس وقت اتنا علم نہیں تھا جتنا
یہود کے پاس تھا۔ تو نصاریٰ لاعلمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ اور یہود
کے مرد تو درکنار ان کی عورتیں بھی عالم تھیں۔ اور آنحضرت ﷺ اور قرآن کریم کے
حق ہونے کے متعلق معلومات رکھتی تھیں۔

حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام کا واقعہ :

حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی پھوپھی توراہ کی بڑی ماہر تھیں اور بتایا کرتی
تھیں کہ اس طرح ایک پیغمبر نے آنا ہے اور اس کے یہ یہ اوصاف اور خوبیاں ہوں

گی۔ اور وہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کھجوریں اتارنے کیلئے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا میں نے مکہ مکرمہ کی طرف سے کچھ آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدمی مکہ کی طرف سے آرہے ہیں۔ اور سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔

پھوپھی نے کہا کہ یہ وہی پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کھجور کے خوشے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے خوشی خوشی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خوشی کی وجہ سے خوشے بھی نہ رکھ سکے۔ آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے إِنَّ السَّوْجَةَ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ بَشَرٌ يَهْوَىٰ جَهَنَّمَ يَهْوَىٰ جَهَنَّمَ يَهْوَىٰ جَهَنَّمَ۔ اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ جب یہ آپ ﷺ کی مجلس میں تشریف لائے اس وقت آپ ﷺ یہ بیان فرما رہے تھے کہ لوگو!

مدینہ طیبہ پہنچنے پر حضور ﷺ کا پہلا خطبہ مبارک کہ :

☆..... اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور

☆..... أَفْسُوا السَّلَامُ اور سلام کو عام کرو، اکرام مؤمن ملحوظ رکھو،

ایک دوسرے کی قدر کرو۔

☆..... أَطْعِمُوا الطَّعَامَ غُرَبَاؤَ كَوْفَانَا كَلَاؤَ۔

☆..... وَكَيْتُوا الْكَلَامَ اور نرم گفتگو کرو۔

☆..... صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ لوگ جب سوئے ہوئے ہوں تم

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ پہلا درس تھا آنحضرت ﷺ کا۔

مسلمان ہونے کے بعد واپس گئے پھوپھی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔

تو پھوپھی نے کہا کہ ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا ورنہ یہودی تجھے قتل کر دیں گے۔

تو یہودیہ دانستہ حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے یہ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ ہیں۔

لہذا اے پروردگار! جن پر تیرا غضب ہو ان کے راستے پر نہ چلا اور وَلَا الضَّالِّينَ

اور نہ ان کے راستے پر چلا جو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئے۔ یعنی نصاریٰ۔

”آمین“ اور اس کا معنی :

آمین ، آمین کا معنی ہے اے اللہ! ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کا ذکر حدیث

پاک میں آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس لئے نہیں لکھی گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ

قرآن پاک کا حصہ ہے۔ اتنی احتیاط کی گئی ہے یہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ میں نے بیان

کر دیا ہے۔ (اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، آمین)۔

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 اَلَمْ ۙ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ ۗ
 هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ
 الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
 بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا
 رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ
 وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
 بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ
 وَ
 بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ

لفظی ترجمہ :

اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ یہ کتاب ہے لَا رَيْبَ فِيْهِ اس میں کوئی
 شک نہیں هُدًى ہدایت ہے لِّلْمُتَّقِيْنَ پرہیزگاروں کے لئے الَّذِيْنَ

پر ہیز گار وہ لوگ ہیں یَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے
 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو وَمِمَّا اور اس چیز سے
 رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے يُفْقُونَ خَرَجَ کرتے ہیں وَالَّذِينَ
 اور وہ لوگ ہیں یَوْمِنُونَ جو ایمان لاتے ہیں بِمَا اس چیز پر اُنزِلَ
 إِلَيْكَ جو نازل کی گئی آپ کی طرف وَمَا اور اس چیز پر اُنزِلَ مِنْ
 قَبْلِكَ جو نازل کی گئی آپ سے پہلے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ
 آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

وجہ تسمیہ :

اس سورۃ کا نام سورۃ البقرہ ہے اور قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا
 دوسرا نمبر ہے اور دیکھو یہاں سورۃ البقرہ لکھا ہوا ہے اس سے پہلے دو کا ہندسہ ہے یہ
 بتا رہا ہے کہ اس سورۃ کا دوسرا نمبر ہے اور سورۃ الفاتحہ پہلی سورۃ ہے۔

اس سورۃ کا نام بقرہ ہے۔ بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں۔
 یعنی نر اور مادہ دونوں پر بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سورۃ کا نام بقرہ اس لئے رکھا
 گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عامیل نامی ایک شخص کو اس کے بھتیجوں یا
 چچا زاد بھائیوں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر قتل کر دیا تھا۔ ان کا خیال یہ
 تھا کہ فیصلہ تو گواہوں پر ہوتا ہے اور موقع کا گواہ تو کوئی نہیں ہے لہذا بات آئی گئی
 ہو جائے گی۔

چنانچہ قتل کرنے کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہمارے چچا کو کسی

نے قتل کر دیا ہے ہماری داد رسی کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ قاتل کون ہے؟۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے.....
فَاذْبَحُوا بَقْرَةً پس تم گائے کو ذبح کرو۔ اور اس کا ایک حصہ مثلاً دل اس
مردے کو مارو وہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے
کافی لیت و لعل کے بعد گائے کو ذبح کیا تھا جب اس کا ایک حصہ مردے کو مارا گیا تو
اس نے بتایا کہ میرے قاتل فلاں ہیں۔ تو چونکہ اس سورۃ میں اس بقرہ کا ذکر ہے اس
لئے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ یعنی وہ سورۃ جس میں گائے کے ذبح کرنے کا
ذکر ہے۔

اگرچہ اس سورۃ میں اور بھی کئی واقعات ہیں مگر اس واقعہ کی مناسبت سے اس کا
نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ قرآن کریم کی تمام سورتوں میں سے سب سے بڑی
سورۃ ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے اور لفظ مدینہ کے بعد ستاسی کا ہندسہ لکھا
ہوا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ کا ستاسواں نمبر ہے۔
اس کے چالیس رکوع اور دو سو چھیالیس آیات ہیں۔

الْتَمِّمَ : الف۔ لام۔ میم مستقل آیت کریمہ ہے اور اس میں تین حرف
ہیں۔ اور آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو
دس نیکیاں ملیں گی (اور قرآن کریم سننے والے کو بھی ہر حرف کے بدلے دس دس
نیکیاں ملتی ہیں)۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں گی۔
پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الْتَمِّمَ ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف لام
ایک حرف اور میم الگ حرف ہے۔ گویا الْتَمِّمَ پڑھنے والا تیس نیکیوں کا حقدار ہے۔

اسی طرح سننے والا بھی تمیں نیکیوں کا حق دار ہے۔ اَلَمْ حروفِ مقطعات ہیں یہ حروفِ مقطعات قرآن مجید کی انتیس سورتوں کے شروع میں آتے ہیں یہاں اَلَمْ ہے۔ کہیں الر ہے کسی جگہ یسین ہے اور کہیں ظہ ہے اور کہیں حم ہے۔

حروفِ مقطعات کا معنی :

مقطع کا مفہوم آپ اس طرح سمجھیں کہ کسی لفظ کو اختصار کے ساتھ لکھنے اور بولنے کے لئے اس سے ایک حرف الگ کر لیں اور وہ حرف لکھ کر یا بول کر وہ لفظ مراد لیں جیسے.....

(۱)..... مردم شماری کا نمبر لکھتے ہوئے تو اس طرح لکھ دیتے ہیں (م۔ش نمبر ۱۰۰) مردم سے ”م“ لے لی اور شماری سے ”ش“ لے لیا۔ تو م،ش نمبر ۱۰۰ سے مراد مردم شماری نمبر ۱۰۰ ہے۔

(۲)..... یا جس طرح نوائے وقت کا مشہور کالم نویس تھا محمد شفیع مرحوم تو لفظ محمد سے میم لے لی شفیع سے شین لے لی محمد شفیع کا مخفف م،ش بنا۔ چنانچہ م،ش کی ڈائری مشہور تھی۔

(۳)..... یا جس طرح ڈپٹی کمشنر کا مخفف ڈی سی ہے۔ اور اسٹنٹ کمشنر کا مخفف اے سی ہے۔ اسی طرح یہ حروفِ مقطعات بھی مخفف ہیں۔ پھر یہ کس سے مخفف ہیں؟۔ اور ان کا مخفف کیا ہے؟۔

①..... تو اس کے متعلق اکثر تو فرماتے ہیں کہ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذٰلِكَ ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں صرف ان کے پڑھنے اور سننے کا ثواب ہوگا۔ ان کی حقیقت اور مراد کو ہم نہیں جانتے۔

② اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ **هِيَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى** یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ پھر ان کے قول کی تشریح میں اختلاف ہے کہ آیا بعینہم ”الم ، حم“ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یا یہ حروف ناموں کے مخفف ہیں۔

① تو ایک گروہ کہتا ہے کہ بعینہم یہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں تو یہ نہیں آتے تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں یہ دیا ہے کہ ننانوے نام تو اللہ تعالیٰ کے مشہور ہیں۔ اور غیر مشہور تو شمار سے باہر ہیں البتہ جو بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں ان کی تعداد خمسة الآف پانچ ہزار ہے۔ جو پہلی کتابوں اور صحیفوں میں نازل ہوئے ہیں۔

② دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ حروف بعینہم نام نہیں ہیں بلکہ ناموں کے مخفف ہیں مثلاً الف مخفف ہے اللہ سے اور لام مخفف ہے لطیف کا۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ ذاتی نام تو اللہ جل جلالہ ہے باقی سب صفاتی نام ہیں۔ جیسے رحمن ہے رحیم ہے جبار ہے دکیل ہے۔

عملیات کا علم جاننے والے بتاتے ہیں کہ جس مرد یا عورت کی شادی میں رکاوٹ ہو تو وہ یا رحیم یا کریم یا لطیف کا وظیفہ کرے رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ (طریقہ وظیفہ یہ ہے کہ جس نے وظیفہ کرنا ہے وہ اپنے نام اور اپنی والدہ کے نام کے عدد نکالے اس عدد کے برابر ان تینوں لفظوں کو کسی ایک نماز کے ساتھ اکتالیس دن پڑھے ان شاء اللہ تعالیٰ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نواز بلوچ گوجرانوالہ)۔

اور اگر آپس میں عداوت کو دور کرنا ہو تو یار حیم یا کریم یا ودود کا وظیفہ کرے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور ودود کا معنی ہے محبت کرنے والا۔ (اس وظیفے کی ترکیب بھی وہی ہے جو میں نے اوپر ذکر کی ہے۔ بلوچ)۔

اور اگر رزق کی تنگی ہو تو یار حیم، یا کریم، یا رزاق ہر نماز کے ساتھ تین مرتبہ پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء میں برکت ہے۔ اور ہر نام کی الگ الگ خاصیت ہے۔ تو الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور لام سے مراد لطیف ہے اور میم سے مراد مالک ہے۔ مالک بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور میم سے مراد مقتدر بھی ہو سکتا ہے اور مقیت بھی ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔

③..... اور تیسری بات ان حروف مقطعات کے متعلق قاضی بیضاوی

صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انتیس سورتوں کی ابتداء میں جو حروف مقطعات ہیں **سِرُّ بَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَبَيْنَ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**۔ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے درمیان راز ہیں۔ ان کے بغیر ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا اور ان کا یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ کہ الف سے مراد الآء اللہ ہے۔ الآء، اِلٰی يٰ اِلٰہِ الْوَحْدِیُّ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ الَّذِیْ کَانَ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ۔ قرآن پاک میں آتا ہے **فِیْ سَبَیِّ الْاِیِّ رَبِّکُمْ اَتُکَذِّبَانِ** تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور لام سے مراد لطف اللہ ہے۔ اور میم سے مراد مُلْکُ اللّٰهِ ہے۔ معنی بنے گانعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی، مہربانی بھی اللہ تعالیٰ کی اور ملک بھی اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ان حروف کی مختلف تعبیریں بیان کی گئی ہیں۔ صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

ذَلِكَ الْكِتَابُ يَهْدِيكُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ رِيبَ فِيهِ اس
 میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور منبع رشد و ہدایت ہے۔ اور اس
 کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پر بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ شک کرنے والوں نے
 تو قرآن کریم پر شک کیا۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ نکالو اسی پارے کا
 تیسرا کوع اس کی دوسری آیت دیکھو۔ (ایسا میں اس لئے کرتا ہوں تاکہ تم صرف سنو
 ہی نہیں بلکہ خود دیکھو کہ تمہیں کچھ شد بدھ حاصل ہو جائے)۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ
 مِّثْلِهِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ
 فرمائی ہے تو لاؤ تم اس جیسی کوئی ایک سورت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شک کرنے
 والوں نے قرآن کریم پر شک کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

قرآن کریم میں شک کا مطلب :

لَقَدْ رِيبَ فِيهِ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم
 میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ ان کے ذہنوں میں شک تھا تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں
 آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ جیسے شہد ہے کہ اس
 کے بیٹھے ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن صفاوی مزاج والے آدمی کو بخار ہو
 تو اسے شہد کڑوا لگتا ہے۔ شہد تو کڑوا نہیں ہے اس کا مزاج کڑوا ہے۔ اسی طرح
 قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے ان کے ذہنوں میں شک ہے۔

یا اس طرح سمجھو کہ بعض آدمی بھینگے ہوتے ہیں۔ ان کو ایک کی بجائے دو
 چیزیں نظر آتی ہیں تو چیز تو ایک ہوتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں خلل ہوتا ہے۔ جیسے

کیمل پور (فیصل آباد) میں غلام جیلانی برق بھینگا تھا اس نے دو قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اس بھینگے کو ایک قرآن دو نظر آتے تھے اسی طرح اس نے دو اسلام نامی کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کا جواب میں نے صرف ایک اسلام نامی کتاب لکھ کر دیا ہے۔ اور یہ میں نے ملتان جیل میں لکھی تھی۔ تو اس بھینگے کو ایک کی بجائے دو اسلام نظر آتے تھے۔ اور اس کی کتاب دو قرآن کا جواب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ لہذا قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں شک تھا۔

هُدًى یٰ تُوْنِزِیْ ہِدَایِتْ ہِے لِّلْمُتَّقِیْنَ پْرہیزگاروں کے لئے۔ اس پر بھی بظاہر اعتراض ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی پْرہیزگار ہیں ان کے لئے ہدایت ہونا کیا کمال ہے۔ کمال یہ تو تھا کہ نافرمانوں اور مجرموں کے لئے یہ کتاب ہدایت ہوتی۔

اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت تو تمام انسانوں کے لئے ہے جیسا کہ دوسرے پارہ میں ہے شَہْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنزِلَ فِیْہِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ اور سورۃ فرقان میں ہے تَبْرَکَ الَّذِیْ نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِہِ لَیْکُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ تمام جہانوں کے لئے نذیر بنے۔ مگر چونکہ فائدہ اس سے پْرہیزگار اٹھاتے ہیں دوسرے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے اس لئے ان کے لئے ہدایت پہنچنے کے اعتبار سے کہ متقی اہل کو قبول کرنے والے ہیں آگے کون لوگ ہیں فرمایا.....

﴿مُؤْمِنِیْنَ كِی صِفَاتِ﴾

①..... متقیوں کی پہلی صفت :

الَّذِیْنَ یُسُوْمِنُوْنَ بِالْغِیْبِ پْرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن

دیکھے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے جو تمام صفات و کمالات کو جامع ہے اور سارا جہان اس کے تصرف اور قبضے میں ہے۔ اس کی نہ ابتداء ہے نہ انتہاء ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اسکو موت آئے گی، وہ تمام کمزوریوں اور عیبوں سے پاک اور مبرا ہے۔

جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر اس پر ہمارا ایمان ہے اسی طرح ہم نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا مگر ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر آدم عَلَيْهِ السَّلَام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہیں۔ ان کے درمیان بھی جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق پیغمبر تھے۔

اسی طرح ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا اور دعا کرو کہ جلدی جلدی نظر بھی نہ آئیں کیونکہ موت کے وقت فرشتے ہر ایک کو نظر آتے ہیں۔ مگر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔

اسی طرح جنت و دوزخ پر بن دیکھے ہمارا ایمان ہے۔ پلصراط، میدان محشر کو بن دیکھے مانتے ہیں، قبر کی راحت اور تکلیف کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کی تکلیف سے سب کو محفوظ فرمائے۔ تو متقیوں کی پہلی صفت ایمان بالغیب ہے یعنی عقیدے کا درست ہونا۔

②..... متقیوں کی دوسری صفت :

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ قائم کرنے کا معنی ہے کہ

نماز کو تمام شرائط اور واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ رکوع، سجود، قنومہ، جلسہ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ ایسے ہی مگر یہی مارتے ہیں۔

اسی طرح جو آدمی بغیر مجبوری کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اکیلے پڑھ لیتا ہے۔ اس کی بھی کامل نماز نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں وہ اگر مسجد میں نماز نہ پڑھیں تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔

حدیث پاک میں آتا ہے لَا صَلَوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِي الْمَسْجِدِ مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں اور ٹخنوں سے رہ گیا ہے یا بیمار ہے یا بارش کی وجہ سے مسجد میں نہیں آسکتا یا سفر پر ہے یا اندھیرا ہے یا اور کوئی ایسی وجہ ہے تو اس کو گھر میں نماز پڑھنے پر بھی پوری نماز کا ثواب ملے گا۔

③..... متقیوں کی تیسری صفت :

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے یعنی ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں عشر نکالتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں اور نفلی صدقات بھی کرتے رہتے ہیں بخاری شریف میں روایت ہے اِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكٰوٰةِ بِيْشَكِّ مَالٍ فِي زَكٰوٰةٍ كَيْفَ عِلٰوَةٌ بِيْشَكِّ حَقِّ سِوَى الزَّكٰوٰةِ ہے۔

بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں زکوٰۃ کے مال کے علاوہ مال خرچ کرنے

کیلئے تیار نہیں ہوتے رشتہ داریاں بھی زکوٰۃ کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ مثلاً ان کے عزیزوں، رشتہ داروں کی شادیاں ہوں تو آکر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے عزیز کے بچہ بچی کی شادی ہے وہاں ہماری زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟۔ بھائی! ٹھیک ہے اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی مگر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا مال بھی تو تمہارے پاس موجود ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟ زکوٰۃ پر کیوں ٹرخاتے ہو؟۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر :

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف مال ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اور قوت عطا فرمائی ہے، علم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔

اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا تمہارے فریضہ میں داخل ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو وہ دوسروں کو اچھا مشورہ دے ان کی راہنمائی کرے کسی کو رب تعالیٰ نے قوت بدنی عطا فرمائی ہے تو وہ کمزوروں کی بدنی مدد کرے کہ ان کے کام آئے ان کا ہاتھ بٹائے۔

④..... متقیوں کی چوتھی صفت :

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ أَوْرَهُ لُؤْغٍ هِيَ جَوَائِمَان لَاتَاتِ هِي
اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف۔ قرآن کریم اور حدیث شریف پر ایمان

لاتے ہیں۔ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اِنِّیْ اُتِیْتُ الْقُرْآنَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ کَانَ کھول کر سن لو! مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا ہے اور حدیثیں بھی عطا کی ہیں۔

قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ ہیں جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے ہیں اور حدیث کے الفاظ وہ ہیں جو آپ ﷺ نے تلفظ فرمائے ہیں۔ اور مفہوم قرآن و حدیث دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی تعبیر آپ ﷺ اپنے الفاظ میں فرماتے تھے۔

جبریل علیہ السلام جو حکم آپ ﷺ تک پہنچاتے آپ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیتے تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لہذا جس طرح قرآن کریم کا منکر کافر ہے اسی طرح مجموعی حیثیت سے احادیث کا منکر بھی پکا کافر ہے۔

⑤..... متقیوں کی پانچویں صفت :

وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے۔ جنہی بھی آسانی کتابیں اور صحیفے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَ کُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو

ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ ﷺ پونازل کی گئی اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ ﷺ سے پہلے نازل کی گئی اگر آپ ﷺ کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو فرماتے اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ ﷺ کے بعد نازل کی جائے گی مگر یہ نہیں فرمایا کیونکہ آپ ﷺ کے بعد نازل ہونے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں اس لئے مِنْ بَعْدِكَ نہیں فرمایا۔ اگر آپ ﷺ کے بعد نبوت ہوتی اور وحی آتی ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرماتے۔

⑥..... متقیوں کی چھٹی صفت :

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کہ قیامت حق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور یاد رکھنا قیامت دور نہیں ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو شخص مرتا ہے پس تحقیق اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ جنت دوزخ سامنے آجائے گی بلکہ آنکھیں بند ہوئے سے پہلے دنیا کی زندگی کے آخری لمحات میں ہی فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ مرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ کیونکہ ایمان بالغیب ہے۔

اور مرنے والے کو جان نکالنے والا فرشتہ اور اس کے ساتھ جو اس کے معاون ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ نیک ہے تو جنت کا لباس اور خوشبوئیں لے کر آتے ہیں اور اگر بد ہے تو جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں لے کر آتے ہیں۔ اس لئے قبر کو نہ بھولو جزا سزا کو نہ بھولو آخرت کو نہ بھولو۔

جوانی میں عبادت :

نو جوانو یاد رکھو! عبادت تو عبادت ہے نماز تو نماز ہی ہے چاہے نو جوان پڑھے یا بوڑھا مگر نو جوان کی عبادت اور نماز کا لطف ہی اور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں ایک وہ شابُّ نو جوان ہوگا نَشَاءَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی۔

لہذا جوانی کی حالت میں عبادت کا بڑا درجہ ہے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو صرف سنو ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔

اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَ اُولَئِكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ
 عَلَيْهِمْ ءَا نذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
 لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى
 سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۗ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٧﴾

لفظی ترجمہ :

اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى یہی لوگ ہدایت پر ہیں مِّن رَّبِّهِمْ اپنے
 پروردگار کی طرف سے وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں
 فلاح پانے والے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ
 برابر ہے ان پر ءَا نذَرْتَهُمْ کیا آپ ان کو ڈرائیں اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا نہ
 ڈرائیں لَا يُؤْمِنُوْنَ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

خَتَمَ اللّٰهُ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ان کے دلوں
 پر وَعَلٰى سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور

ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے عذاب ہے بڑا۔

رابط کی اہمیت :

کل کے درس میں آپ نے سنا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے۔ پھر پرہیزگاروں کے اوصاف بیان فرمائے کہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں.....

① يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں اس کے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں اس کی کتابوں کو مانتے ہیں۔

② اور ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں نماز ایسی عبادت ہے کہ جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر نماز کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے اَصْلُ عِمَادِ الدِّينِ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔

③ اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال ہے علم ہے قوت بدنی ہے مشورے کی صلاحیت ہے۔

④ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ جو کچھ آپ ﷺ پر نازل ہوا ہے، قرآن و سنت سے اس پر ایمان لاتے ہیں۔

⑤ اور پانچویں صفت بیان فرمائی کہ آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے

توراة، انجیل، زبور اور صحیفے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔
 ⑥..... اور چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
 آگے اس کا نتیجہ بیان فرمایا.....

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ يَهْدِي اللَّهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّبِينٍ
 طرف سے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔
 یہاں ایک بات اور سمجھ لیں وہ یہ کہ آیا قرآن کریم آپس میں مربوط ہے یا نہیں اس
 طرح کہ سورتوں کا سورتوں کے ساتھ ربط رکوعوں کا رکوعوں کے ساتھ ربط آیتوں کا
 آیتوں کے ساتھ آپس میں ربط اور جوڑ ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلہ میں مفسرین کرام
 ﷺ کے دو گروہ ہیں۔

①..... ایک گروہ کا نظریہ ہے کہ کوئی ربط نہیں ہے، یہ شاہی فرمان ہے،
 بادشاہ اپنے ایک وزیر کو حکم دیتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے دوسرے وزیر کو حکم دیتا ہے
 کہ تو نے وہ کام کرنا ہے۔ باورچی کو اس کے متعلق حکم دیتا ہے۔ دھوبی کو اس کے
 متعلق حکم دیتا ہے کہ تو نے کپڑے دھونے ہیں، ان کو استری کرنی ہے۔ کسی کو بوٹ
 پالش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی ہر ایک کے حال کے مطابق حکم دے گا۔ ان کے
 درمیان ربط کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بادشاہ کے احکام ہیں بس ٹھیک ہیں اسی طرح
 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر ایک کے حال کے مطابق احکام جاری فرمائے ہیں
 ان میں ربط تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس شاہی فرمان ہے، اس کو مانو
 اور اس پر عمل کرو۔

②..... اور مفسرین کرام ﷺ کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بیشک قرآن کریم

شاہی فرمان ہے مگر شاہی فرمان ہونے کے باوجود اس میں ربط موجود ہے۔ اور قرآن کریم کی تفسیر میں جو خاصی مشکل چیزیں ہیں ان میں ایک ”ربط“ بھی ہے۔

جو حضرات ربط کے قائل ہیں ان میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابوالسعود محمد بن محمد عمادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے پیرومرشد مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ (واں پھر انوالے) کے علاوہ کئی دیگر بزرگ شامل ہیں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں یہ ربط ہے کہ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کا مطالبہ تھا۔ اور سورہ بقرہ میں اس کی منظوری ہے کہ تم نے جو ہدایت مانگی تھی وہ میں نے اس کتاب کی شکل میں تمہیں دے دی ہے.....

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ اِسْ كِتَابٌ مِّنْ كُتُبِ
شک و شبہ نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے جب بھی کوئی مصلح
پروگرام لے کر لوگوں کے پاس آیا ہے تو اس کا واسطہ تین قسم کے لوگوں کے ساتھ
پڑا ہے.....

①..... ایک وہ جنہوں نے اس کو دل اور زبان سے مانا اور یقین کیا یعنی
انہوں نے اس کو ظاہر اور باطناً تسلیم کیا اُولَئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک اس گروہ کا ذکر تھا۔ یہ
مومن متقی کہلاتے ہیں۔

②..... اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو نہ دل سے ماننا اور تسلیم کرتا ہے اور نہ
زبان سے یہ کافر جابر کہلاتا ہے اگلی دو آیتوں میں اس گروہ کا ذکر

ہے۔

③..... اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو زبان سے مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے، یہ منافق کہلاتے ہیں۔ اگلے سارے رکوع میں یعنی وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ سے لے کر اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تک ان کا ذکر ہے۔ اور ایسے لوگوں سے چونکہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں لوٹے کی طرح پھرتے رہتے ہیں اس لئے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ان دو آیتوں میں جابر کافروں کا ذکر ہے۔ جو نہ دل سے مانتے ہیں اور نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے قرآن کریم کو اور رسول ﷺ کو نہ دل سے مانا اور نہ زبان سے اقرار کیا۔ فرمایا.....

منکرین کا انجام :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِشِكِّ وَاكْفَرِيْهِمْ لَآ يُوْمِنُوْنَ وَاكْفَرِيْهِمْ لَآ يُوْمِنُوْنَ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

اس آیت کریمہ پر دو اشکال وارد ہوئے ہیں.....

①..... ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کفار کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے تو جب ان کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو ان کو ایمان کی دعوت دینا اور تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے ذمہ ایسا مہمل کام کیوں لگایا ہے؟۔

اس کے جواب میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ نے سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ فرمایا ہے سَوَاءٌ عَلَيْكَ نہیں فرمایا۔ یعنی ان کافروں کے لئے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ﷺ کے لئے تبلیغ کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ بلکہ آپ ﷺ کو دعوت اور تبلیغ کا ثواب ملے گا۔ کوئی مانے یا نہ مانے اور اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو مبلغ حق کی تبلیغ کرتا ہے اس کو بیان کرنے کا ثواب ملے گا اگر کوئی خوش قسمت مان لے تو نور علی نور اور اگر کوئی نہ بھی مانے تو اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

② دوسرا اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ بہت سارے کافر ایمان لائے دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے کافر مشرک ہی تو تھے اس کے جواب میں مفسرین کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق وہ کافر ہیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کی استعداد خراب ہے اور ان کا خاتمہ کفر پر ہونے والا ہے۔ جیسے ابو جہل، ابولہب، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ جن کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا اور جن کی قسمت میں ایمان تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔

اگلی آیت کریمہ کو ذرا غور اور توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
 خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَهْرَ لَغَادِي اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔

دلوں پر مہر کا مطلب :

یہاں پر یہ اشارہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی

کانوں میں ڈالے چڑھادیے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیئے یعنی ان کی ہدایت کے سارے راستے بند کر دیئے تو اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ رب تعالیٰ سے زور آور تو نہیں ہیں کہ خود پردے اٹھالیں، ڈالے نکال لیں اور دلائل کو دیکھ سن کر ایمان لے آئیں۔ رب، رب ہے اس سے زیادہ طاقت ور کون ہے۔ اور کافر بھی رب کو رب مانتے تھے اور مشرک بھی رب تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے بلکہ ظاہر طور پر اگر دیکھا جائے تو نام کے مسلمانوں سے مشرکوں کو رب تعالیٰ سے عقیدت زیادہ تھی۔ اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔

شُرک کا وسیلہ :

چنانچہ آٹھویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا دستور بتایا ہے فرمایا
وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ نَصِيبًا اور بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے
اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی سے اور مویشیوں سے ایک حصہ فقألو ا پھر کہتے ہیں هَذَا
لِلَّهِ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بِزَعْمِهِمْ اپنے خیال کے مطابق وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا
اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔

تو مشرک پہلے رب تعالیٰ کا حصہ نکالتے تھے پھر خود ساختہ معبودوں کا حصہ نکالتے تھے جبکہ یہ نام کے مسلمان جن کو دین کی حقیقت کا علم نہیں ہے یہ صرف بزرگوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں انہیں کا دھواں دھاتے رہتے ہیں پھر تھک ہار کے رب تعالیٰ کی طرف آتے ہیں۔

اور سورۃ یونس میں آتا ہے کہ مشرک کہتے تھے هُوَ لَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ
اللّٰهِ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت

بلند ہے اور ہم بڑے گھٹیا اور حقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ کہتے تھے کہ اس طرح سمجھو کہ صدر مملکت کو رعیت کا ہر آدمی تو بغیر واسطہ کے نہیں مل سکتا بلکہ ڈی، سی، کمشنر، وزیر اعلیٰ وغیرہ کا واسطہ تلاش کرے گا۔ جن کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے گا اسی طرح ہم ان کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں۔

اور سورۃ زمر میں ہے کہ وہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے یہ ہماری سیڑھیاں ہیں۔ ہماری ان کے آگے اور ان کی خدا کے آگے۔ مشرک ان کو رب نہیں مانتے تھے بلکہ رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے سیڑھیاں بناتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ؕ پس تم خدا کے لئے ایسی مثالیں نہ بیان کرو اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے حالات اور ضروریات کا علم ہے۔ اس کو کسی کے ذریعے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تمہارے صدر وغیرہ کچھ نہیں جانتے۔ بلکہ وہ تو پہلے ملاقاتیوں کی تسلی کرے گا کہ کہیں کوئی مجھے گولی مارنے کے لئے تو نہیں آ رہا، پھر ملاقات کی اجازت دے گا۔

لہذا اللہ تعالیٰ کے لئے ایسی مثال بھی دیتے تھے کہ مکان کی چھت پر چڑھنے کے لئے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے اُڑ کر تو کوئی نہیں جاسکتا تو یہ بزرگ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے ہماری سیڑھیاں ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا

فرمایا.....

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہاں کون سی سیڑھی لگاؤ گے اس ساری گفتگو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مشرک رب تعالیٰ کا منکر نہیں ہوتا بلکہ بظاہر بڑا عقیدت مند ہوتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہے تو جب رب تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی، کانوں پر مہر لگادی، آنکھوں پر پردے ڈال دیئے تو وہ ان کو ہٹا کر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ تو وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ ایمان لانے کے راستے بھی بند کر دیئے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ یہ تو اس طرح ہے جس طرح فارسی زبان کا شاعر کہتا ہے

درمیان قعر دریا تحت بندم کردہ

باز میگوئی کہ دامن ترکن ہوشیار باش

کہ کسی شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینک دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تر نہ ہونا۔ بھائی! وہ پانی سے تر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ تو جب رب تعالیٰ نے مہریں لگا کر ان کے راستے بند کر دیئے تو اب وہ اگر ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا گناہ ہے؟

اسی طرح سورۃ مدثر میں آتا ہے يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ

يَشَاءُ اللَّهُ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

تو ہدایت اور گمراہی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے تو پھر گمراہیوں کا کیا قصور ہے؟۔ اس

کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں وہ یہ کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اجمال

ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے کسی مسئلے میں اشتباہ

نہیں رہنے دیا بلکہ دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی ہے کوئی نہ سمجھے تو اس کی مرضی ہے۔

اس اشکال کا جواب سمجھنے کے لئے آپ سورۃ حم سجدہ نکالیں یہ پہلی آیات تو میں تبرک کے طور پر پڑھتا ہوں۔ حَمّ ۝ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یہ رحمن اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے کِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰیٰتُهُ یٰۤاَقْرٰنَ کریم ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا قرآن عربی زبان میں ہے۔ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ اس قوم کے لئے جو جانتی ہے کہ یہ قرآن ہے۔ بَشِیْرًا وَّاَنْذِیْرًا یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے ساتھ قوم نے کیا، کیا، کیا فرمایا.....

فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ پس ان کی اکثریت نے اعراض کیا اس جملے کو نہ بھولنا کہ ان کی اکثریت نے قرآن کریم سے اعراض کیا اس سے چہرہ پھیر لیا۔ فَهُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ پس وہ سنتے نہیں ہیں یعنی مانتے نہیں ہیں اور کہتے کیا ہیں۔ وَقَالُوْا اور انہوں نے کہا قُلُوْا بِنَا فِیْ اٰیٰتِنَا، اٰیٰتِنَا، کِنٰنٌ کی جمع ہے اور کنان کا معنی ہے پردہ اور غلاف۔ معنی ہوگا ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔

مِمَّا تَدْعُوْنَا اِلَیْهِ اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو یعنی ہم نے اپنے دلوں کو پردوں میں سنبھال رکھا ہے تمہاری دعوت کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ وَفِیْ اٰذَانِنَا وَقُرْاٰنِنَا اور ہمارے کانوں میں ڈالے ہیں، ہم نے کانوں میں ڈالے چڑھائے ہوئے ہیں۔

وَمِنْ بَیْنِنَا وَبَیْنِكَ حِجَابٌ اور ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے

ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ لٹکایا ہوا ہے ہم ان نگاہوں سے تجھے دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں جن نگاہوں سے تجھے ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) دیکھتے ہیں۔

فَاعْمَلْ پس تو اپنا کام کر اِنَّا عَامِلُونَ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔
اب دیکھو! جن لوگوں نے اپنے کسب، اختیار اور ارادے سے اپنے دلوں پر غلاف چڑھائے، کانوں میں ڈالے ٹھونک لئے، اپنی آنکھوں پر دے لٹکائے اور اپنے سنے ہدایت کے تمام راستے بند کر لئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی عمل کیا کیونکہ قانون خداوندی ہے۔

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جِدْهُرُكُوْنِي جَانَا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی بھیج دیتے ہیں۔
تو جب انہوں نے پردے لٹکائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم اس پر راضی ہو تو
خَسَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَّهْرَ كَادٰی اللّٰهُ تَعَالٰی نے ان کے دلوں پر وَعَلٰی سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ جو انہوں نے پسند کیا اللہ تعالیٰ نے ویسا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اختیار دیا ہے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ پس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے دکھادیئے، فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے اس کو دکھادیئے دونوں راستے خیر کا بھی اور شر کا بھی۔

اسی طرح قرآن کریم کی اس آیت کریمہ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کی تفصیل

بھی متعدد مقامات پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو گمراہ کرتا ہے۔ تیرہواں پارہ سورۃ رعد میں ارشادِ ربانی ہے.....

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اور اپنی طرف کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے جو رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور گمراہ کس کو کرتا ہے؟ فرمایا.....

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (سورۃ صف) پس جب ان لوگوں نے کجی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے تو اللہ تعالیٰ نے جبراً کسی کو گمراہ نہیں کیا ان آیات کو یاد کرو اور سمجھو تا کہ کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے کہ بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تو مجبور ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے.....

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ پس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے جبر اور اختیار کے متعلق دو فرقے ہیں ان کے نظریات بھی سمجھ لیں.....

معتزلہ اور جبریہ کے عقائد باطلہ :

①..... ایک فرقہ ہے معتزلہ، معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اگر ہم تقدیر مانتے ہیں تو ہمیں کس نیکی کا صلہ ملے گا؟ کیونکہ جو لکھا ہے وہی کرتے ہیں اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ لہذا انہوں نے سرے سے تقدیر کا انکار کر دیا۔

②..... اور دوسرا فرقہ ہے جبریہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کے ہاتھ میں کٹھ

بتلی ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے رب تعالیٰ ہی ہم سے سب کچھ کرواتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور محض ہیں۔

لیکن اہل حق اہل السنۃ والجماعت کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مجبور محض بھی نہیں بنایا اور ہر چیز کا اختیار بھی نہیں دیا اور جتنا اختیار دیا ہے اس سے اتنا ہی پوچھا جائے گا۔ (کتنا اختیار دیا ہے اس کو اس طرح سمجھو کہ ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار دیا ہے بیک وقت دونوں ٹانگوں کو اٹھانے کا اختیار نہیں دیا۔ اگر ایسا کرے گا تو گر جائے گا۔ بلوچ)۔

البتہ ایک سوال خاصا مشکل ہے وہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے سب کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اس لکھے ہوئے کو ہم بدل نہیں سکتے تو پھر ہم مجبور محض ہوئے۔ یہ بات اسی طرح ہے کہ سب کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ علماء متکلمین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اسے علم تھا کہ کس نے اپنی مرضی سے ایمان لانا ہے اور کس نے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرنا ہے کس نے نیکی کرنی ہے اور کس نے بدی کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے سب کچھ لکھ دیا ہے کہ یہ کچھ ہوگا اور کریں گے اپنی مرضی سے اس طرح نہیں لکھا فلاں کو اس طرح کرنا پڑے گا جو انہوں نے کرنا تھا وہ لکھا ہوا ہے۔ لہذا آدمی مختار ہے ایمان لانے میں اور کفر اختیار کرنے میں مجبور نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا نتیجہ بھی بیان فرما دیا کہ جومتقی ہیں اُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی فلاح پانے والے ہیں اور جو کافر ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بھی اور اس کے نتائج سے بھی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر طرح کے عذاب سے بچائے اور محفوظ فرمائے..... آمین۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
 وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
 فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا
 كَانُوا يَكْذِبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١
 إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا
 يَشْعُرُونَ ١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امِنُوا كَمَا آمَنَ
 النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ١٣
 إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٤
 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ١٥ وَإِذَا
 خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ١٦

إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۴﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ
بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ ﴿۱۵﴾

لفظی ترجمہ :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں
أَمَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے
دن پر وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔

يُخَدَعُونَ اللَّهُ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان
لوگوں کو جو ایمان لائے وَ مَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور وہ نہیں
دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو وَ مَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ان کے دلوں میں بیماری ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ
مَرَضًا پس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
اور ان کے لئے عذاب ہوگا دردناک بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اس وجہ سے کہ
وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو لَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ نہ فساد مچاؤ زمین میں قَالُوا کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اَلَا اِنَّهُمْ خِرَدَارٌ بے شک وہ
 هُمُ الْمُفْسِدُونَ وہی ہیں فساد کرنے والے وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ اور
 لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ
 كَمَا آمَنَ النَّاسُ جیسے ایمان لائے ہیں لوگ قَالُوا كَہتے ہیں اَنُؤْمِنُ
 کیا ہم ایمان لائیں كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے
 وقوف۔

اَلَا خِرَدَارٌ! اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ بے شک یہی ہیں بے وقوف
 وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ آمَنُوا
 اور جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے قَالُوا اَمَنَّا كہتے ہیں
 ہم بھی مؤمن ہیں۔

وَإِذَا خَلَوْا اِلَىٰ شَيْطٰنِهِمْ اور جس وقت جاتے ہیں اپنے
 شیطانوں کی طرف قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ كہتے ہیں بے شک ہم تمہارے
 ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ پختہ بات ہے ہم تو مومنوں سے
 مذاق کرتے ہیں اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهٖمُ اللّٰهُ تَعَالٰی ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا
 وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو مہلت دیتا ہے فِى طُغْيَانِهِمْ ان کی سرکشی میں
 يَغْمَهُونَ وہ سرگرداں اور حیراں پھرتے ہیں۔

روبط :

سورة فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا تھا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ہدایت عطا کر دی اور فرمایا ذَلِك
الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور
یہ پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے۔ ہدایت نامے کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے
بارے میں تین گروہ ہیں۔

①..... ایک وہ جو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک ان کا ذکر تھا۔

②..... دوسرا گروہ ہے جو نہ تو زبان سے اقرار کرتا ہے اور نہ دل سے تسلیم
کرتا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَلَّ لَكَ وَاَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ تک ان کا ذکر تھا۔

③..... اور تیسرا گروہ وہ جو زبان سے اقرار کرتا ہے مگر دل سے تسلیم نہیں کرتا
جس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَقُوْلُ سَلَّ لَكَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تک ان کا ذکر
ہے۔ فقہاء کرام، محدثین عظام، اور مفسرین کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ
نفاق کی دو قسمیں ہیں۔

منافقین کے دو طبقے :

(۱)..... ایک نفاق اعتقادی ہے۔ (۲)..... اور دوسرا نفاق عملی ہے۔

①..... اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا یعنی اس

کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہوتا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ یہ منافق کافر اور مشرک سے بھی بدتر اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جو سب سے زیادہ سزا والا طبقہ ہے۔

② دوسرا نفاق عملی ہے۔ عملی منافق اسے کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے مگر عمل منافقوں والے کرتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے عملی نفاق کی چار علامتیں بیان فرمائی ہیں جس شخص میں ایک علامت ہوگی وہ ایک درجے کا منافق ہوگا۔ جس میں دو علامتیں ہوں گی وہ دوسرے درجے کا منافق ہوگا۔ جس میں تین علامتیں پائی گئیں وہ تین درجوں کا منافق ہوگا۔ اور جس میں چاروں علامتیں پائی گئیں.....

كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وہ پکا منافق ہے ہمیں خالی الذہن ہو کر ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ کہیں ان میں سے کوئی علامت ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو بہت بری بات ہے۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا.....

منافقین کی نشانیاں :

(۱) إِذَا حَدَّثَكَ كَذِبًا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں ہر وہ بات جو واقعہ کے خلاف ہو شریعت اسے جھوٹ کہتی ہے۔ آپ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا اگر بولا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایک

درجے کا منافق سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔
 ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک جگہ تشریف لے
 جا رہے تھے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بڑے بلند پائے کی صحابیہ ہیں ان کا بچہ
 بچوں میں کھیل رہا تھا ان کو اپنے بچے سے کوئی کام تھا اس کو بلا یا وہ نہ آیا بچوں کو کھیل
 پیارا ہوتا ہے۔ بار بار بلانے کے باوجود جب نہ آیا تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں
 کوئی چیز دوں گی یہ بچے کو لالچ دیا تو وہ بچہ آ گیا۔ آنحضرت ﷺ کھڑے ہو گئے کہ
 بچے کو کوئی چیز دیتی ہے کہ نہیں؟۔

پھر فرمایا مائی اس کو کوئی چیز دے تاکہ تو جھوٹ سے نکل جائے۔ اگر نہیں دے
 گی تو یہ تیرا جھوٹ ہوگا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ خصوصاً عورتوں کو کہ یہ
 بچوں کو لالچ دیتی ہیں۔ مگر دیتی کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور یہ جھوٹ ہے۔ اور چیز بھی وہ ہو
 جس سے بچہ مطمئن ہو ریت مٹی نہ ہو، اس طرح جھوٹ سے نہیں نکلو گے۔

اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ جھوٹ بول بول کر جھوٹ سے نفرت ہی ختم ہو گئی
 ہے۔ اور ہیں ہم یکے مومن۔ ہونٹوں کے پاس فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے ان کے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں کوئی درود شریف پہنچانے پر مقرر ہے، کوئی سبحان اللہ،
 الحمد للہ پہنچانے والا ہے۔ مگر جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ
 بولتا ہے تو فرشتے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ لہذا جھوٹ سے بچنا چاہیے۔

(۴)..... منافق کی دوسری نشانی فرمایا إِذَا وَعَدَ خَلْفًا جب وعدہ کرتا ہے
 تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدْرًا اور جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو غداری
 کرتا ہے۔ وعدہ اور معاہدہ میں فرق ہے جب کسی سے انفرادی طور پر وعدہ ہو تو وعدہ

کہلاتا ہے۔ اور جماعتی شکل میں یا قومی شکل میں یا حکومتی سطح پر کسی سے کوئی بات طے کی جائے تو اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ آج اس وقت دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ساری اس مد میں ہیں الا ماشاء اللہ کہ ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں آتا ہے.....

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَعَدَى كَ بَارِئِ فِي سَوَالِ هُوَا لِهَذَا وَعَدَى كَسَى
سے کرو تو سوچ سمجھ کر کرو کہ میں اس کو پورا بھی کر سکوں گا کہ نہیں اگر پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ کرو ہی نہ اور اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اسے پورا کرو البتہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس وقت وعدہ کیا تھا اس وقت نیت اور ارادہ اس کو پورا کرنے کا تھا مگر بعد میں کوئی عارضہ پیش آ گیا ہے تو وہ الگ بات ہے۔

(۳)..... منافق کی تیسری نشانی ہے إِذَا أُتِمْنَ خَانَ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ پھر امانت کی کئی قسمیں ہیں علم بھی امانت ہے اور علمی خیانت یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتا غلط باتیں بتاتا ہے۔ مشورہ بھی امانت ہے اور مشورے میں خیانت یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے سے مشورہ طلب کرتا ہے تو تم اسے صحیح مشورہ نہیں دیتے غلط رائے دیتے ہو جب کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح رائے دو بات بھی امانت ہوتی ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مجلس میں ادھر ادھر دیکھ کر بات کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات اس کی امانت ہے۔ اس مجلس کی بات باہر کسی سے نہیں کرنی۔ مال بھی امانت ہے۔ اور مالی خیانت یہ ہے کہ اس میں کچھ خرچ کرے یا اس

کو تبدیل کرے۔

فقہاء کرام رضی اللہ عنہم نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے درہم یا دینار کا تھیلا کسی کے پاس امانت رکھا ہے، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں اور پہلے زمانے میں لوگ یہ تھیلوں میں رکھتے تھے تو اگر وہ تھیلا کسی کے پاس امانت رکھا ہے اور اس کا منہ جس دھاگے سے بندھا ہوا ہے اور وہ دھاگا میلا ہو گیا ہے تو یہ شخص اس دھاگے کو بدلنے کا مجاز نہیں ہے۔ رقم کو چھیڑنا تو درکنار اگر اس دھاگے کو بدلے کا تو یہ بھی خیانت ہے۔

(۴)..... منافق کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ إِذَا خَاصَمَ فَجَوَّ جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یاد رکھنا! آج کے معاشرے میں ہم نے تو منافق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ تو جب لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے اور ہم تو ہنسی مذاق میں گالیاں دیتے ہیں۔ جس طرح پہلے نیک لوگوں کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا تھا اس طرح ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں۔ چھوٹوں کو بڑوں کو یہاں تک کہ گدھوں اور مرغیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ چار نشانیاں بیان فرمائی ہیں اگر کسی بد بخت میں یہ چاروں علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی منافق کی کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا.....

إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہونے میں سستی کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں نفاق کی علامت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ.....

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا منافق اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔
 ناولوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، کھیلوں میں مشغول رہیں گے یعنی اور سارے کام
 ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے وقت نہیں ہوتا۔ یہ منافق کی موٹی موٹی علامتیں
 ہیں چار حدیث شریف میں اور یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے۔ اور
 دو علامتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ
 لو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے کسی میں یہ علامتیں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں.....

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ، مِنْ تَبَعِيهِ هُوَ معنی ہوگا اور لوگوں میں سے
 بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
 اور آخرت کے دن پر (رب تعالیٰ فرماتے ہیں)..... وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ حالانکہ وہ
 ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ صرف زبانی، زبانی کہتے ہیں کہ ہم مومن
 ہیں۔ دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ دَهُوٌّ دیتے ہیں اللہ
 تعالیٰ کو۔

سوال :

اب سوال یہ ہے کہ دھوکہ تو اس کو دیا جاسکتا ہے جس کو علم نہ ہو اور رب تعالیٰ
 سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کو کس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں؟۔

جواب :

مفسرین کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں صَنَعَهُمْ كَصَنَعِ خَادِعٍ ان کا یہ
 معاملہ اس طرح ہے جس طرح دھوکے بازوں کا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا

معاملہ کرتے ہیں جو دعا بازی کا ہوتا ہے۔ ورنہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اَمِنَّا کہہ کر کہ ہم بھی مومن ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا اَنْفُسَهُمْ اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو۔ کیونکہ اس کا وبال ان کی جانوں پر ہی پڑے گا وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے۔

ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم تو عقل والی مخلوق کے ساتھ خاص ہے جیسے انسان جنات ہیں فرشتے ہیں اور شعور کا معنی ہے اپنے اوپر آنے والے حالات کا احساس و ادراک کرنا جیسا کہ حیوانوں کو گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے۔ بھوک پیاس کو محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے متعلق فرمایا کہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی یہ منافق ایسے ہیں کہ ان کو حیوانوں جیسا شعور بھی نہیں ہے کہ اپنے نقصان کا اتنا بھی شعور و احساس کر لیں جتنا کہ حیوان کو ہوتا ہے۔ فرمایا.....

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے۔ جوں جوں دن گزرتے ہیں نیک لوگ نیکیاں کما رہے ہیں اور اعمالِ صالحہ میں آگے بڑھ رہے ہیں اور منافق.....

فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا پس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ان کا نفاق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ اور ان کے لئے عذاب ہوگا دردناک۔ سب سے زیادہ سخت عذاب منافقوں کے لئے ہے۔

بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ اس طرح کہ زبانی، زبانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی۔ اور دل سے نہیں مانتے تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ زبان کسی طرف اور دل کسی طرف۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَادَّأ قِيلَ لَهُمْ اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ نہ فساد مچاؤ زمین میں۔ کیونکہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا فساد فی الارض ہے۔

پاکستان اور منافقت کا نتیجہ :

آج بد قسمتی سے دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں مسلم یا غیر مسلم پاکستان ان تمام ملکوں میں سے بددیانتی میں نمایاں ہے۔ اخبارات میں تجزیہ شائع ہوا ہے کہ تمام بددیانت ملکوں میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں بڑے چھوٹے سب بددیانت ہیں۔ بڑے بددیانتی کرتے ہیں بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے بھی بددیانتی کرتے ہیں۔ بلکہ وہ اور تیز ہو جاتے ہیں۔ اگر بڑے احتیاط کریں اور دیانت داری سے کام لیں تو چھوٹوں کو جرأت نہیں ہو سکتی تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو.....

قَالُوا کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ بچتے بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جس طرح آج کل کے لیڈر کرتے فساد ہیں اور اس کو نام امن کا دیتے ہیں۔ بھائی امن کے نام سے تو کچھ نہیں بنے گا دنیا تو حقیقت کو دیکھتی ہے۔ افسوس! آج دنیا فساد سے بھری پڑی ہے اخبارات دیکھو تو سو میں سے ایک بات

اچھی ہوگی اور ننانوے باتیں بُری ہوں گی۔ یعنی قتل، اغواء، ڈاکے، بدمعاشیاں، بکریاں، فراڈ اور وہ بھی معمولی قسم کے نہیں بلکہ اربوں، کھربوں کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔

یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے لئے حاصل کیا گیا تھا۔ جس مقصد کے لئے اس کو حاصل کیا گیا اگر اس کے مطابق چلا تو آج اس کا یہ حشر نہ ہوتا۔ اور نہ ہی بنگال ہم سے کبھی جدا ہوتا وہ لوگ بڑے دیندار ہیں، پاکستانی سو سال تک بھی اتنے دیندار نہیں ہو سکتے وہ محض ہماری بددیانتیوں اور خیانتوں کو دیکھ کر ہم سے جدا ہوئے ہیں۔

پاکستان ہمیں مفت میں تو ہمیں ملاؤں کے پیچھے مسلمانوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اور علماء کرام کی شہادتیں ہیں۔ تحریک شہیدین، ۱۸۵ء کی تحریک اور تحریک ریشمی رومال ہے۔ جنہوں نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ مگر بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں بلا شرکت غیرے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے اور یہ مسلم لیگ کا کارنامہ ہے۔

البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں بلا شرکت غیرے کئی سال مسلم لیگ کی بااختیار حکومت رہی ہے۔ ان سالوں میں اگر وہ کسی درخت کے پتے پر بھی اسلامی قانون کے نافذ ہونے کا حکم لکھ دیتے تو اسلامی قانون نافذ ہو جاتا کیونکہ ان کے لئے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ نہ ان کے سامنے کوئی سرائٹا سکتا تھا، نہ ہی کوئی جماعت نمایاں تھی۔ مگر یہ لوگ اسلام کے لئے مخلص نہیں تھے اور ان کے دل صاف نہیں تھے سوائے چند حضرات کے، کہ وہ مخلص تھے کہ پاکستان میں اسلامی

قانون نافذ ہو۔ اگر تمام حضرات مخلص ہوتے تو آج ہمیں یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ تو خیر فرمایا.....

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ نَهْ فَسَادِهَا وَزَمِينِ مِثْلِ - قَالُوا كَيْفَ نَحْنُ نَجِّنُ مُصْلِحُونَ پختہ بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں.....

الْآخِرُ دَارٌ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ اور لیکن ان کو شعور نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ سچا ایمان لے آؤ كَمَا آمَنَ النَّاسُ جیسے ایمان لائے ہیں لوگ قَالُوا كَيْفَ نَحْنُ نَجِّنُ مُصْلِحُونَ کیا ہم ایمان لائیں كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف۔

منافق لوگ سچے مخلص اور دیانتدار مومنوں کو بے وقوف کہتے تھے، کہتے تھے کہ کوئی عقل مندی ہے کہ جس طرح وہ ان کو کہتا ہے بے سوچے سمجھے اسی طرح کرتے چلے جاتے ہیں۔ گھر، بار سب کچھ اس کے کہنے پر قربان کر دیا ہے۔ اگر عقل مند ہوتے تو کوششیاں بناتے دولت اکٹھی کرتے، تجارت بڑھاتے انہوں نے تو پہلا بھی سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ پہلے کتنے آسودہ حال تھے اور ایمان لانے کے بعد اب ان کا کیا حال ہے؟۔ یہ بے وقوف ہیں ہم ان بے وقوفوں جیسا کام کیوں کریں؟۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا.....

الْآخِرُ دَارٌ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ خِرْدَار! بے شک یہی ہیں بے وقوف وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جس وقت

ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو ان کو دھوکہ دینے کے لئے قَالُوا اٰمَنَّا کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں۔

جس طرح آج کل ووٹ مانگنے والے منتیں سماجتیں کرتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں چومتے ہیں۔ پوری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ممبر بن جانے کے بعد کبھی شکل بھی نہیں دکھاتے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم کون اور تم کون؟۔ یقین جانو جتنے منافق پاکستان میں ہیں شاید دنیا کے کسی اور خطے میں ہوں۔

وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ اور جب یہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں، راجوں، چوہدریوں، خانوں اور وڈیروں کے پاس جاتے ہیں تو قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ باقی تم نے سنا ہوگا کہ ہم نے مومنوں کو کہا کہ ہم بھی مومن ہیں تو یقین جانو.....

مومنوں سے استہزاء :

اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءٌ وَنَ پختہ بات ہے ہم تو مومنوں سے مذاق کرتے ہیں۔ دل لگی کرتے ہیں، ہم کہاں مومن ہیں؟ وڈیرے جب کان کھینچتے ہیں تو ان کو اس طرح مطمئن کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰی ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا وَيَمْدَهُمُ اور ان کو مہلت دیتا ہے فِي طُغْيَانِهِمْ ان کی سرکشی میں يَغْمَهُونَ وہ سرگرداں اور حیراں پھرتے ہیں۔ جتنا دھوکہ دے سکتے ہیں دے لیں، جو حرام کما، کھا سکتے ہیں

کر لیں۔ رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے۔ احادیث میں آتا ہے.....

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُمْلِي ظَالِمًا حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَ لَكُمْ يَفْلِتُهُ

بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو سختی سے

پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے آگے منافقوں کی بدکاریوں اور بد معاشیوں کا ذکر ہوگا۔

ان شاء اللہ تعالیٰ۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا
 رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾
 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ فَلَمَّا
 أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
 وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَّا يَبْصُرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّ
 بَعْضُكُمْ عَمَىٰ فَهُمْ لَّا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ
 كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَ
 بَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ
 الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
 بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ
 أَبْصَارَهُمْ ۗ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ ۗ
 وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۴

لفظی ترجمہ :

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ هِيَ لَوْ كَانُوا يُدْرِكُونَ الْآخِرَةَ لَآتَيْنَهُمْ مِنْهَا خَيْرًا مِمَّا يُحْتَسِبُونَ لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 أولئِكَ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ یہ وہی لوگ ہیں اَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ جنہوں نے
 خریدا گمراہی کو بِالْهُدَى ہدایت کے بدلے میں فَمَا رِبِحْتُمْ
 تَجَارَتُهُمْ پس نفع مند نہ ہوئی تجارت ان کی وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
 اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔

مَثَلُهُمْ مِثَالِ الْكَلْبِ الَّذِي اس شخص کی طرح ہے
 اسْتَوْقَدَ نَارًا اس نے آگ جلائی فَلَمَّا أَضَاءَتْ پس جب روشن
 کر دیا اس آگ نے مَا حَوْلَهُ اس جلانے والے کے ارد گرد کو ذَهَبَ
 اللَّهُ بِنُورِهِمْ لَعَلَّ اللَّهُ تَعَالَى ان کی روشنی کو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ
 اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں لَا يُبْصِرُونَ وہ نہیں دیکھ سکتے صُمٌّ
 بہرے ہیں بُكُمْ گونگے ہیں عُمَى اندھے ہیں فَهُمْ لَا
 يَرْجِعُونَ وہ نہیں لوٹتے۔

أَوْ كَصَيْبٍ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ جو
 آسمان کی طرف سے نازل ہوئی ہے فِيهِ ظُلُمٌ اس میں اندھیرے
 ہیں وَرَعْدٌ اور کڑک ہے وَبَرْقٌ اور بجلی ہے يَجْعَلُونَ
 أَصَابِعَهُمْ كَرْتِي هِيَ اِنْتِظَارٌ فِي آذَانِهِمْ اپنے کانوں میں

مَنْ الصَّوَاعِقِ بَجَلٍ كِي وَجِهٍ سَ حَذَرَ الْمَوْتِ مَوْتٍ سَ دُرْتِ
 هُوَ وَاللَّهُ مُحِيطٌ . اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے بِالْكَافِرِينَ
 کافروں کو يَكَادُ الْبَرْقُ قَرِيبٌ ہے کہ بجلی يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ
 اچک لے ان کی آنکھوں کو كَلَّمَآ أَضَاءَ لَهُمْ جب کبھی روشنی ہوتی ہے
 ان کے لئے مَشَوْا فِيهِ اس میں چل پڑتے ہیں وَإِذَا آظْلَمَ
 عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر قَامُوا تو ٹھہر جاتے ہیں وَكُو
 شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ البتہ لے جائے ان
 کے کانوں کو وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو إِنَّ اللَّهَ بَشَكَ اللَّهُ
 تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر چیز پر قادر ہے۔

منافقوں کا ذکر چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

منافقین کا مقطع :

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَ
 گمراہی کو بِالْهُدَى ہدایت کے بدلے میں۔ یعنی ہدایت دی اور اس کے بدلے
 میں گمراہی لے لی اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پہلے کافر تھے ان کے
 پاس تو ہدایت نہیں تھی تو انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کیسے خرید لی؟۔

مفسرین کرام علیہم السلام اس کے دو جواب نقل کرتے ہیں.....

پہلا جواب :

①..... ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہرنے میں پیدائشی طور پر صحیح فطرت رکھی

ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر بچے کو اسی فطرت پر چھوڑا جائے جس پر وہ پیدا ہوا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے تو وہ فوراً قبول کرے گا۔ فطرت صحیحہ اس کو قبول کرنے پر آمادہ کرے گی۔

دوسرا جواب :

② فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (سورۃ روم) اللہ تعالیٰ

کی فطرۃ جس پر پیدا کیا لوگوں کو۔ یعنی ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی لیکن ماحول کی وجہ سے لوگوں نے اس فطرۃ سلیمہ یعنی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کو خراب کر لیا تو اب مطلب یہ بنے گا کہ ان منافقین نے وہ صلاحیت اور استعداد دے دی اور اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔

کفار کے نابالغ بچے :

یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ کافروں اور مشرکوں کے وہ بچے جو

چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں وہ جنتی ہیں یا دوزخی؟۔ اس سلسلے میں فقہاء کرام رحمہم اللہ

کے تین قول نقل کئے گئے ہیں.....

پہلا قول :

① یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر دوزخ میں جائیں گے یہ

حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو باب الجہاد میں آتی ہے کہ آنحضرت ﷺ سے سوال کیا گیا کہ ہم کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے بھی آجاتے ہیں رات کے وقت افراتفری میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی تو اس دوران جو بچے مر جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟۔

اس موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا ان کو قصد انہ مارو ضمنی طور پر مارے گئے تو ہُمْ تَبْعُ لِأَبَائِهِمْ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔ محققین حضرات اس روایت کا مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ روایت جہاد کے موقع کی ہے کہ مارنا تو تم نے بڑوں کو تھا اتفاقاً اس موقع پر جو چھوٹے قتل ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ کیونکہ لڑائی کے دوران ایسا ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہیں۔

دوسرا قول :

②..... فقہاء کرام رحمہم اللہ کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنتی ہیں کیونکہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے وہ مکلف نہیں ہوتا یعنی اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ تین قسم کے آدمیوں سے قلم اٹھالی گئی ہے۔ ان میں الْأَصْبِيُّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ جب اس پر شرعی احکام ہی لاگو نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس کو دوزخ میں پھینکے۔

پھر طبرانی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت آتی ہے آنحضرت

ﷺ سے سوال کیا گیا کہ حضرت کافروں کے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ خَدَمُ اَهْلِ الْجَنَّةِ مشرکوں کے بچے جنتیوں کے خادم ہوں گے۔

مودودی صاحب مرحوم کا غلط موقف :

اور مودودی صاحب مرحوم سے حوروں کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ حوریں کافروں کی لڑکیاں ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئی ہیں۔ یہ بات انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں لکھی ہے حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ حوروں کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے.....

خُلِقَتْ مِنَ الْمَسْكِ حوریں کشتوری سے پیدا کی گئی ہیں۔ لہذا جو علماء مسائل میں مودودی صاحب کی تردید کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے بلکہ صحیح کرتے ہیں۔ قاضی حسین احمد بڑا ہوشیار آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے منشور میں لکھوا دیا ہے کہ ہم مودودی صاحب کے غلط مسائل کی تردید کرتے ہیں ویسے ہم سیاسی طور پر ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ اس نے بڑی جرأت کی بات کی ہے۔ اس نے منشور بدل دیا ہے۔ اور اس بات کی وجہ سے اب عوام ان کے ساتھ مل گئی ہے بہر حال حوروں کا مادہ مٹی نہیں ہے وہ جنت ہی کی مخلوق ہیں۔

تیسرا قول :

(۳)..... فقہاء کرام رضی اللہ عنہم کا تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں گے فیصلہ فرمائیں گے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کافروں کے بچے جو چھوٹی عمر میں فوت

ہو جاتے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟۔ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں؟۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملين اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا تھا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان :

اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو نہ تو قطعی طور پر جنتی کہتے ہیں اور نہ قطعی طور پر دوزخی کہتے ہیں۔ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ بہر حال بات یہ ہو رہی تھی کہ کافروں کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس طرح خرید لی؟۔

تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے اس کے درج ذیل جوابات دیئے ہیں.....

①..... اس کا ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فطرۃ سلیمہ اسلام کے قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد عطا ہوئی تھی اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی۔

②..... دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اس جہان کی حیثیت منڈی اور دوکان کی ہے کہ دوکان میں ایک نمبر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور دو نمبر چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ مہنگی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور سستی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان بے وقوفوں نے ایک نمبر چیز ہدایت کو خریدنے کی بجائے دو نمبر کی چیز گمراہی خرید لی کیونکہ دنیا میں ہدایت بھی ملتی ہے گمراہی بھی ملتی ہے۔ اس طرح انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کے پاس ہدایت تھی وہ دے کر اس کے بدلے گمراہی لے لی۔

فَمَا رِبْحَتْ تِجَارَتُهُمْ پس نفع مند نہ ہوئی تجارت ان کی۔ کیونکہ تجارت تو ہوتی ہے فائدے کے لئے اور انہوں نے اچھی چیز کے بدلے بری چیز لے لی یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہوا ہے۔

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعہ ان کی حالت کو بیان فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے.....

مَثَلُهُمْ مِثَالِ الْبَعِثِ الَّذِي اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے اور تاریکی میں استوقد ناراً آگ جلائی تاکہ اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرے فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ پس جب روشن کر دیا اس آگ نے اس جلانے والے کے ارد گرد کو اور وہ خوش ہو گیا کہ روشنی ہو گئی ہے تو اچانک آندھی اور طوفان آیا اس نے آگ بجھادی۔

ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو نہ وہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے۔ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمٍ اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں لَا يُبْصِرُونَ وہ نہیں دیکھ سکتے۔

منافقین کی پہلی مثال :

یہ مثال ان پر اس طرح فٹ آتی ہے کہ یہ منافق کفر، شرک کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے تو جس طرح اندھیرے میں پھنسا ہوا آدمی آگ جلاتا ہے کہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے انہوں نے کلمہ پڑھاتا کہ اس سے فائدہ اٹھائیں چنانچہ اس سے ان کو مال غنیمت ملا، زکاتیں ملیں، صدقات اور خیراتیں حاصل ہوئیں۔

مسلمانوں کی سختی سے بچے۔ زبانی کلمہ پڑھنے سے ان کو یہ کچھ حاصل ہوا۔ مگر کتنی دیر تک صرف سانس نکلنے کے وقت تک اس روشنی نے نہ تو ان کا ساتھ قبر میں دیا نہ حشر میں ساتھ دے گی۔ اگر وہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھتے تو ہمیشہ کے لئے ساتھ دیتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جان نکال لی تو اندھیرے میں رہ گئے.....

بہرے، گونگے، اندھے کا معنی :

صُمٌّ ، بہرے ہیں بُمْحَمٌ گونگے ہیں عُمًی اندھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے کافر اور منافق ہیں وہ نہ تو سنتے ہیں نہ بولتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات سننے سے بہرے ہیں حق بات کہنے سے گونگے ہیں، حق کے نشانات دیکھنے سے اندھے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے حکمران ہیں کہ ساری باتیں سنتے ہیں مگر مظلوم کی فریاد نہیں سنتے۔ ایسی لمبی تقریریں کریں گے کہ سننے والا کہے گا کہ ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہے لیکن حق کی بات زبان سے نہیں نکلے گی۔ حق کے معاملے میں گونگے ہیں۔

زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا سب ان کو نظر آتے ہیں مگر کمزوروں پر ظلم ہوتا ان کو نظر نہیں آتا۔ غریب اور مظلوم عوام کی غربت اور بے کسی ان کو نظر نہیں آتی۔ لوگوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس سلسلے میں اندھے ہیں۔

آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے کی بات ہے جامع مسجد شیرانوالہ باغ میں، میں پڑھتا تھا حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے لکھڑ میں بھی میرے پاس کئی دفعہ تشریف لائے ہیں کچھ عرصہ ہوا ہے فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان

کی مغفرت فرمائے۔ مشکوٰۃ شریف کے سبق کے دوران ایک حدیث آئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں پر ایسے لوگ حکمرانی کریں گے جو صُمْ، بُمْ، عُمی بہرے گوئیں گے۔ ہم نے استاذ محترم سے پوچھا کہ حضرت اس وقت آنکھوں والے، کانوں والے اور بولنے والے نہیں ہوں گے؟ کہ لوگ اندھوں، بہروں، گوئوں کو اپنا بادشاہ بنائیں گے۔

بخاری شریف میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اَنْ تَرَى صُمَّ بُمْ عُمًا مُلُوكَ الْاَرْضِ یہ کہ تو دیکھے گا بہرے، گوئے، اور اندھے زمین کے بادشاہ ہیں۔

حضرت کا تکیہ کلام ہوتا تھا ”میاں“ فرمایا میاں آنکھیں ہوں گی، کان بھی ہوں گے اور زبانیں بھی ہوں گی مگر حق کو سنیں گے نہیں، حق بولیں گے نہیں۔ حق کے نشانات دیکھیں گے نہیں۔ آنحضرت ﷺ کی ایک بات حق بن کر سامنے آرہی ہے۔ تو معنی ہوگا صُمْ وہ حق بات سننے سے بہرے ہوں گے بُمْ حق بولنے سے گوئے ہوں گے عُمی صحیح بات کو دیکھنے سے اندھے ہوں گے۔

منافقین کی دوسری مثال :

اَوْ كَصَيْبٍ يَأْتِي مِنَ السَّمَاءِ جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے فِيهِ ظُلُمَاتٌ اس میں اندھیرے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔

وَرَعْدٌ اور کڑک ہے وَبَرْقٌ اور بجلی ہے۔ بات سمجھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی شکل میں اس میں کفر پر جو وعیدیں ہیں

اور عذاب کا ذکر ہے اس کو تشبیہ دی ہے رَعْدُ کڑک کے ساتھ اور قرآن کریم میں جو حقیقت کے دلائل ہیں ان کو بَرْقُ چمک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

یعنی جب قرآن کریم تازل ہوا ہے ہر طرف کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی تو قرآن کریم نے کفر شرک پر وعید سنائی اور قرآن کریم میں بڑے واضح دلائل ہیں جن سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکتی ہے لیکن جب دلائل کی بجلی چمکتی ہے تو یہ منافق.....

يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ كَرْتِي هِي لِيْعْنِي ذَالْتِي هِي اِنِّي اِنْكَلِيَا رِهِي
اِذَانِيْهِمْ اِنِّيْ كَانُوْنَ فِيْ مِّنَ الصَّوَاغِيْ بَجَلِيْ كِي وَجِيْ سِي۔ كِيونكِي جَب بَجَلِيْ كَرْتِي
هِي تُو اِس سِي آدِي جَانُوْر بِيْ كَر جَاتِي هِي اُوْر بِيْ بُوْ اِنْقِصَانِ هُوْتَا هِي تُو يِهِي قُرْآنِ كَرِيْمِ
كِي دَلَالِي كُو بَجَلِي سَبْحَتِي هِي۔

حَذَرَ الْمَوْتِ مَوْتِ كِي ذُر سِي اِيَا كَرْتِي هِي۔ اِن مِي طاقْتِ نِيْهِ
هِي كِي قُرْآنِ كَرِيْمِ كِي آيْتِي سِيْهِ۔ اِس لِيْ كَانُوْ مِي اِنْكَلِيَا دِي لِيْتِي هِي۔ اُوْر
سَاتُوِيْ پَارِي مِي آتَا هِي.....

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ اُوْر وَه كافر قرآن پاک كُو سننِي سِي مَنَعِ
كَرْتِي هِي۔ اُوْر وَه خُوْدِ قُرْآنِ كَرِيْمِ سِي دُوْر بَهَا كَتِي هِي۔ اُوْر كَتِي هِي لَا تَسْمَعُوْا
لِهَذَا الْقُرْآنِ نِي سنُو اِس قُرْآنِ كُو اُوْر جَب قُرْآنِ كِي تِلَاوَتِ هُوْرِي هُو تُو وَالغَوْ فِيْهِ
شُوْر مِچَاؤ۔ تا كِي كُوِي اُوْر بِي نِي سِي۔

وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالكُفْرِيْنَ اُوْر اَللّٰهُ تَعَالٰى كِي مِي رِنِي دَالَا هِي كافرُوْ كُو۔
قَدْرَتِ كِي لِحَاظِ سِي بِي اُوْر عِلْمِ كِي اِعْتِبَارِ سِي بِي۔

يَكَادُ الْبَرْقُ قَرِيْبِ هِي كِي وَه بَجَلِي يَنْخَطِفُ اَبْصَارَهُمْ اِچك لِي اِن

کی آنکھوں کو۔ وہ بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ جب بجلی چمکے اس کی طرف نہ دیکھو اور اطباء نے بھی لکھا ہے کہ اس کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے سے بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورج گرہن ہو تو اس وقت سورج کی طرف دیکھنے سے بھی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔

نظام قدرت بڑا عجیب ہے۔ فرمایا.....

كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ جَبَّ كَيْفِي رُشْنِي هُوتِي هِي اِن كِي لِي، بجلي كِي چمكِنِي سِي۔ مَشُوا فِيهِ اِس مِي چل پڑتِي هِي وَ اِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمُ اُور جَب اِنْدِهِي اچھا جاتا هِي اِن پَر قَامُوا تُوْظْهَر جَاتِي هِي۔ اُور بَعْض حَضْرَات نِي اِس كَا يِي مَطْلَب بِي بِيان كِيَا هِي كِي اِن مَنَافِقُوں كُو جَب مَال غَنِيْمَت مِي سِي يَا صَدَقَ، خِيْرَات اُور مَال زَكُوٰة مِي سِي كُچھ مل جاتا هِي تُو اِس كِي چمك سِي فَا نِدِه اُٹھاتِي هُوئِي سَاتْه چل پڑتِي هِي۔ اُور كِهْتِي هِي، هِم تِهَارِي سَاتْه هِي اُور جَب كُچھ نِيْس مِلتا تُو اِنْدِهِي اچھا جاتا هِي تُوْظْهَر جَاتِي هِي۔ اُور كَا فِرُوں كُو كِهْتِي هِي اِنَّا مَعَكُمْ هِم تِهَارِي سَاتْه هِي۔

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ اُور اِگر اللّٰهُ تَعَالٰی چا هِي لَنْ ذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ اَلْتِي لِي جَائِي اِن كِي كَانُوں كُو وَ اَبْصَارِهِمُ اُور اِن كِي آنكھُوں كُو اِنَّ اللّٰهَ بِي شَك اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ہر چيز پَر قَادِر ہي۔

پنڈت ديانند سرسوتی کا اعتراض :

یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں وہ یہ کہ قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے بد باطن لوگ اس پر اعتراض کرتے آئے ہیں اور اپنے منہ کی کھاتے آئے ہیں۔

اعتراض کرنے والوں میں سے ایک بہت بڑا خبیث پنڈت دیانند سوسوتی گزرا ہے یہ آریا سماج کا لیڈر تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے ستیا رتھ پرکاش اس کے چودھویں باب میں قرآن پاک پر اعتراضات کئے ہیں۔ اور بڑی گندی زبان استعمال کی ہے۔

قرآن کریم کے نازل کرنے والے یعنی رب تعالیٰ کو اس نے بے ایمان، جاہل اور بدو کہا ہے العیاذ باللہ۔ اور اپنے آپ کو محقق کہتا ہے۔ اور اس کا انداز یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ نقل کرتا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ محقق کہتا ہے۔ چنانچہ اس نے اس آیت کریمہ پر بھی اعتراض کیا ہے لکھتا ہے..... اے مسلمانو! تم قرآن میں پڑھتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ چوری اور زنا پر بھی قادر ہے؟ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کیا فرق ہوا؟۔ اور اگر قادر نہیں ہے تو پھر تمہارا قرآن سچا نہیں ہے۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب :

اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اس دور میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب انتصار الاسلام ہے جس میں انہوں نے اس کے اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں۔ اس اعتراض کا حضرت نے جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ پنڈت جی چوری کی تعریف ہے کہ آپ غیر کی ملک میں ہاتھ ڈالیں۔ اپنی ملک میں سے کسی چیز کے لینے کو چوری نہیں کہتے پہلے کسی چیز کے متعلق یہ ثابت کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملک نہیں ہے۔ اور فلاں کی ملک ہے، پھر چوری کی

بحث آئے گی جب دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں تو ان میں چوری کا سوال کس طرح پیدا ہو گیا؟۔

اور رہی بات زنا کی تو زنا کے لئے زمانہ مردانہ آلات کی ضرورت ہے پہلے رب تعالیٰ کے لئے وہ آلات ثابت کرو پھر زنا کی بات ہوگی۔ رب تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے رب تعالیٰ تمام اوصاف سے متصف ہے اور اس کی وہ صفتیں ہماری طرح نہیں ہیں۔ ارشادِ باری ہے.....

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اس کے مثل کوئی شیء نہیں ہے۔ اس کے کان ہمارے کانوں کی طرح نہیں ہیں۔ اس کی زبان ہماری زبان کی طرح نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہیں۔ اس کے پاؤں ہمارے پاؤں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے۔ اور پنڈت جی اس بات کو تم بھی مانتے ہو لہذا تمہارا یہ سوال کرنا حماقت ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَ
أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا
نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ
سُ ۖ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ

رَزَقًا ۚ قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ ۗ وَآتُوا
 بِهِ مُتَشَابِهًا ۗ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۗ
 وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵﴾

لفظی ترجمہ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ااعْبُدُوا رَبَّكُمُ عِبَادَتِ كِرْوَابِنِ رَبِّ
 كِي الَذِي خَلَقَكُمُ جِسْ نِي تَم كُو پيدا كيا هِي وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ
 اور ان لوگوں كو جو تم سے پہلے هُوئے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاكه تم بچ جاؤ
 الَذِي وه ذات هِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا جس نے بنايا
 تمهارے لئى زمين كو بچھونا وَّ السَّمَاءَ بِنَاءً اور آسمان كو بنايا چھترو
 اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے اتارا آسمان كى طرف سے پانى
 فَاخْرَجَ بِهِ پھر اس نے نكالے اس پانى كے ذريعے مِن الشَّجَرِ پھل
 رَزَقًا لَكُمْ تمهارے لئى روزى فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا پس نہ بناؤ
 اللہ تعالٰى كے لئى شريك وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے هو۔

وَاِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ اور اگر هو تم شك ميں مِمَّا اس چيز كے
 بارے ميں نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا جو اتارى هم نے اپنے بندے پر فَاتُوا
 بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ پس لاؤ تم كوئى سورت اس جيسى وَاذْعُوا شُهَدَاءَ

کُمْ اور بلا لو اپنے امدادیوں کو مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالٰی سے نیچے نیچے اِنْ
 كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اگر ہوتے سچے فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا پس اگر تم نہ کر سکو وَاٰنِ
 تَفْعَلُوْا اور ہرگز نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ پھر ڈرو تم اس
 آگ سے وَقُوْذُهَا جس کا ایندھن ہوں گے النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ لوگ
 اور پتھر اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو
 اِيْمَانٌ لَّا يَ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ اور عمل کئے اچھے اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ
 بِنِجْمِ ان کے لئے ایسے باغات ہوں گے تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
 الْاَنْهٰرُ کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا جب
 بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں میں مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا پھلوں سے رزق
 قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ كُھیں گے یہ تو وہی ہے رِزْقَنَا مِنْ قَبْلُ جو اس
 سے پہلے ہمیں روزی دی گئی وَ اٰتُوْا بِهٖ مُّتَشٰبِهًا اور وہ اس میں دیئے
 جائیں گے ایک دوسرے سے ملتا جلتا وَ لَهُمْ فِيْهَا اور ان کے لئے
 ہوں گے ان جنتوں میں اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ جوڑے پاکیزہ وَ هُمْ فِيْهَا
 خٰلِدُوْنَ اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

وَبَشِّرِ :

سورۃ فاتحہ میں ہدایت کا مطالبہ تھا اور سورۃ بقرہ کے شروع میں اس ہدایت

نامے کے ملنے کی بشارت تھی ذَلِكِ الْكِتَابُ لَدَيْكَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
 لَمْ تُقِنْ كَمَنْ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى فِي اس كِتَابِ كَيْفَ فِيهِ هُدًى
 تمہیں دے دی ہے۔ پھر اس ہدایت کے متعلق تین گروہوں کا ذکر ہوا۔

- (۱)..... ایک وہ جو ظاہر باطناً ماننے والے ہیں۔
- (۲)..... دوسرے وہ جو نہ دل سے مانتے ہیں اور نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں۔
- (۳)..... اور تیسرے منافق جو زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے۔

قرآن کریم کی بنیادی دعوت :

اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت نامہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملا ہے وہ کہتا کیا ہے؟ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اصل الاصول عقیدے تین ہیں.....

①..... توحید ②..... رسالت ③..... قیامت

باقی جتنے عقیدے ہیں وہ ان تین کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان تینوں بنیادی عقیدوں کا ذکر فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا فِي تَوْحِيدٍ كَمَا كُنْتُمْ فِي دِينِ
 میں رسالت کا ذکر ہے۔ اور وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ أَمْوَاتًا فِي قِيَامَتِ كَمَا كُنْتُمْ كَاذِبِينَ
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے.....

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَعْمَىٰ ثُمَّ جَعَلَ لَكُمُ الْبَصَارَ إِذْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا وَإِن تَكَفَّرُوا فَإِنَّهُ مُبْعِدٌ
 اے انسانو! آنحضرت ﷺ کی نعمت کی بے انتہائی نعمت تو جنوں اور انسانوں

سب کے لئے ہے۔ اور خطاب صرف انسانوں کو اس لئے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت انسانوں کے سپرد فرمائی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول کے بعد زمین پر خلیفہ انسان ہی ہے۔ اور جنات انسانوں کے تابع ہیں۔ اور خطاب اصل کو ہی ہوتا ہے۔ اس لئے فرمایا **يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ** اے انسانو!۔ اور یہ خطاب تمام انسانوں کو ہے کالے گورے اور عربی، عجمی کی تخصیص کے بغیر.....

اَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ عبادت کرو اپنے پروردگار کی **الَّذِيْ خَلَقَكُمْ** جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت **مُخَلِّق** اتنی واضح ہے کہ جو بکے سکے بند مشرک تھے وہ بھی مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے **وَلَسِيْنُ سٰۤاَلْتَهُمْ** اور اگر آپ ان سے سوال کریں **مَنْ خَلَقَهُمْ** ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟۔ **لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ** تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ.....

وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خالق ہے۔ پہلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی قیامت تک سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت کا حکم اس لئے دیا ہے کہ.....

لَقَدْ كُنْتُمْ تَافِكُوْنَ تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ نظر نہیں آتا مگر اس کی قدرت کی دلیلیں اتنی واضح ہیں کہ کوئی اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا البتہ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔

وجودِ باری تعالیٰ پر دلائل :

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر تین واقعات نقل فرمائے ہیں.....

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال :

①..... پہلا واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس علاقے میں کچھ لوگ دہریے تھے جن کا نظریہ تھا کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے۔ یہ لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو نہیں مانتے آپ ہمیں رب تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دیں کہ رب کہاں ہے اور اس کی صورت کیا ہے؟۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں (اور یاد رکھنا کہ بات سمجھانے کے لئے کوئی کہانی بیان کی جائے تو وہ جائز ہے)۔

فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں کہ میرے سامنے ایک درخت تھا میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گر گیا اور خود بخود اس کے پھٹے اور تختیاں بن گئیں اور خود بخود وہ آپس میں جڑ گئیں اور کشتی تیار ہو کر دریا میں آگئی اور لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتی اور کرایہ بھی خود ہی وصول کرتی کوئی اس کا ملاح نہیں اور مسافروں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچا رہی ہے۔

امام صاحب نے جب یہ بات فرمائی تو وہ دہریے ٹھہرے اور بے دین شاہ شاہ کر کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کی بہت تعریف سنی تھی کہ بڑے صاحبِ علم اور بصیرت والے ہیں۔ اور امام اعظم ہیں۔ مگر آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ بھلا یہ کس طرح

ہوسکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے اور خود بخود اس کے تختے بن کے جڑنے لگ جائیں اور خود بخود ان میں مٹھیں لگ جائیں اور وہ خود بخود کشتی بن کر دریا میں چلی جائے اور خود بخود مسافروں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچانے لگ جائے اور کراہی بھی خود ہی وصول کرے یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کشتی کا بغیر بنانے والے کے خود بخود بن جانا اور بغیر چلانے والے کے چلنا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔

او ظالمو! یہ آسمان اور زمین اور پہاڑ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود کس طرح بن گئے۔ ایک کشتی کا بغیر ملاح کے چلنا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو یہ سارا کارخانہ کائنات خود بخود کس طرح چل رہا ہے بغیر کسی چلانے والے کے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ فَاسْلَمُوا عَلٰی يَدَيْهِ پس وہ تمام کے تمام امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھو میرے سامنے تپائی پڑی ہے اس کو کسی نے بنایا ہے تو بنی ہے خود بخود تو نہیں بن گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ہیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد
مریچ آہن خود بخود تیغ نہ شد

کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بن سکتی اور کوئی لوہا خود بخود تلووار نہیں بن سکتا۔ بلکہ بنانے والا بناتا ہے تو بنتی ہے۔ یہ مثنوی کا شعر ہے پہلے زمانے میں مرد عورتیں گھروں میں مثنوی پڑھتے تھے اور اب نادلوں نے لوگوں کے دماغ خراب کر دیئے ہیں۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

مولوی نہ شد مولائے روم

تا غلام شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نہ شد

میں ویسے ہی تو مولوی نہیں بن گیا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں

ان کی خدمت کی ہے تو مجھے علم حاصل ہوا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال :

② دوسرا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا ہے

کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس کیا

دلیل ہے فرمایا کہ یہ شہوت کا درخت ہے کہ اس کے پتے کو ریشم والے کیڑے

کھاتے ہیں تو ان کے جسموں سے ریشم کے دھاگے نکلتے ہیں اگر شہد کی کھیاں کھاتی

ہیں تو شہد بنتا ہے اور انہیں پتوں کو اگر گائیں اور بکریاں کھائیں تو گوبر اور مینگنیاں بنتی

ہیں اور اگر ہرنی کھائے تو کستوری بنتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پتے وہی

ہیں باقی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال :

③ اور تیسرا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نقل

فرمایا ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل

ہے؟ فرمایا ایک قلعہ ہے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہے اور نہ کھڑکی ہے اوپر سے چاندی

کی طرح سفید ہے اور اندر سے سونے کی طرح ہے پس اچانک اس کی دیواریں

پھٹ جاتی ہیں اور اس میں سے ایک خوبصورت پیاری آواز والا حیوان نکل آتا ہے جو

دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ قلعہ سے مراد اللہ ہے اور اس سے چوزہ نکل آتا ہے

جو بڑا خوبصورت اور پیاری آواز والا ہوتا ہے جس ذات نے بند قلعے سے جس میں نہ خوراک کا راستہ اور نہ ہوا یہ بچہ پیدا فرمایا ہے وہی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔

ہر گیاه کہ از زمین روید
وحده لا شریک له گوید

جو گھاس زمین سے پیدا ہوتا ہے وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحده لا شریک له ہے۔ کیونکہ گھاس یا کوئی بھی پودا زمین سے اگتا ہے تو پہلے اس کی ایک کونٹیل نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وحده لا شریک له ہونے پر دلالت کرتی ہے پھر شاخیں اور ٹہنیاں نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے سب کو پیدا فرمایا ہے تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَاللَّهُ تَعَالَىٰ وَه ذَاتٌ هِيَ جَسْنَ بِنَايَا
تمہارے لئے زمین کو بچھونا و السَّمَاءَ بِنَاءً اور آسمان کو چھت۔ اور تم اسی زمین میں رہ رہے ہو اور اسی چھت کے نیچے چلتے پھرتے ہو۔

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی
بارش کی صورت میں فَأَخْرَجَ بِهِ پھر اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے مِنْ
الشَّجَرَاتِ پھل ۛرَزَقْنَا لَكُمْ تمہارے لئے روزی۔ براہ راست بھی پھل کھاتے
ہو اور پھلوں کو فروخت کر کے اناج خرید کر بھی کھاتے ہو اور دیگر اپنی ضروریات بھی
پوری کرتے ہو۔ یہ تمام انتظام کرنے والا کون ہے زمین، آسمان کس نے بنائے؟
بارش کس نے برسائی؟ اور اس کے ذریعے سے پھل کس نے زمین سے نکالے؟

روزی کا انتظام کس نے کیا؟ جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو.....
 فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا ۙ اِنْ سِوَاہٖ تَعْبُدُوْنَ ۗ اِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ
 حالانکہ تم جانتے ہو کہ خالق وہی ہے پھر شریک کیوں بناتے ہو؟۔
 آگے رسالت کے مسئلہ کا بیان ہے۔ کافر، مشرک لوگ کبھی تو آنحضرت ﷺ
 کو ساحر اور کبھی مجنون کہتے تھے۔ (معاذ اللہ تعالیٰ)۔ اور کبھی کہتے کہ اَسَاطِيرُ
 الْأَوَّلِينَ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہمیں سنا تا ہے۔ بے شک قرآن کریم میں
 آدم ﷺ، نوح ﷺ اور دیگر انبیاء کرام ﷺ کے واقعات ہیں مگر ان واقعات سے محض
 دماغی عیاشی نہیں ہے بلکہ ان کے اندر ایک حقیقت ہے جس سے عبرت اور سبق حاصل
 ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے.....

فَاَقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۗ اِنَّ آيَاتِنَا لَخَبِيْرَةٌ
 بیان کریں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں اور کبھی کہتے کہ یہ مفتری ہے یعنی قرآن خود بنا
 کے ہمیں سنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

مقابلہ کے لئے قرآن کا چیلنج :

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ مَا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا ۙ جَوَاتِرًا ۙ اِنَّمَا هُوَ اَنْزٰلُ رَبِّنَا
 بِسُوْرَةٍ ۙ سُوْرَةٍ مِّنْ تَوْنِ قَلْتِ كَلِمَةٍ ۙ لِّمَنْ هُوَ اَوْ تَمَّ كَوْنًا ۙ اِنَّمَا هُوَ اَنْزٰلُ رَبِّنَا
 سورت۔ مِّنْ قَبْلِهِ اس قرآن جیسی۔

قرآن پاک میں تین سورتیں تمام سورتوں سے چھوٹی ہیں۔

① سورة العصر ② سورة الكوثر ③ سورة النصر

اور قرآن کریم کی کوئی سورت تین آیتوں سے کم نہیں ہے۔ اسی لئے فقہاء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کی ایک رکعت میں کم از کم تین آیتیں پڑھنی چاہئیں۔ یا ایک آیت اتنی لمبی ہو کہ جو تین آیتوں کے برابر ہو تو پھر بھی صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر آیت بھی اتنی بڑی پڑھ لیں کہ جو کم از کم تین آیتوں کے برابر ہو تو نماز صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو تم اس قرآن کے مثل کوئی چھوٹی سی سورت ہی لے آؤ۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری چیلنج تھا۔ پہلے یہ چیلنج دیا کہ.....

لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لَيَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
یعنی انسان اور تمام جن مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں گویا ساری مخلوق عاجز ہے۔ اس بات سے کہ قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر سکیں۔ پھر چیلنج دیا کہ اگر سارے قرآن کی مثل نہیں لاسکتے تو تمہیں مزید چھوٹ دے دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ قرآن کریم کی کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں ایک سو چار سورتیں تمہیں معاف ہیں.....

فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ
پس اس جیسی دس سورتیں ہی بنا کر لے آؤ۔ معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسان بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتا ہے۔ مگر کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ پھر آخر میں یہ چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی سورۃ ہی لے آؤ اور پہلے تو انسانوں اور جنوں کو چیلنج تھا اور

اب فرمایا.....

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ، شُهَدَاءَ، شَهِيد کی جمع ہے اور یہاں شہید کے معنی مددگار کے ہیں معنی ہوگا اور بلا لوال اپنے امدادیوں کو اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے۔ چاہے انسان ہوں چاہے جنات ہوں، چاہے فرشتے ہوں۔

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر ہوتے سچے فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے وَلَنْ تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ پندرہویں صدی شروع ہے آج تک کوئی ماں کالال قرآن پاک جیسی ایک سورت بھی نہ لاسکا۔ حالانکہ سبحان وائل جیسے بڑے بڑے فصیح اور بلغ اس دنیا میں آئے ہیں۔

فصیح عرب سبحان وائل قرآن کے سامنے مہربلب :

سبحان وائل تمام فصحاء کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ او وہ اتنا فصیح تھا کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی مکرر جملہ نہیں بولا۔ یعنی اپنے مطلب کی ادائیگی کے لئے اس نے جو جملہ ایک دفعہ بولا ہے دوبارہ اسے زبان پر نہیں لایا۔ اگر وہ بات دوبارہ بیان کی ہے تو دوسرے جملہ کے ساتھ بیان کی ہے۔ مگر اس کو بھی قرآن جیسی سورۃ لانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ نہ آج تک کوئی لاسکا نہ قیامت تک کوئی لاسکے گا۔

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ يُهْرَثِدُ مِنْهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ جس کا ایدھن ہوں گے لوگ اور پتھر۔ یعنی جس طرح اس میں انسان جلیں گے اسی طرح پتھر بھی جلیں گے اور وہ آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہوگی۔

اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے، منکروں کے لئے، یہ تو کافروں کا انجام ہوگا اب ماننے والوں کا انجام بھی سن لو تاکہ دونوں باتیں سامنے

آجائیں فرمایا.....

مومنوں کو بشارت :

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور آپ خوشخبری سنادیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کئے اچھے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ فرمایا.....
أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ بَشَّتْ لَهَا نِجْمَاتُهَا هِيَ كَالْمِثْقَالِ مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ
تَمْرَةٍ رَزَقًا جب بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں میں پھلوں سے رزق قَالُوا هَذَا
الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ جو اس سے پہلے ہمیں روزی
دی گئی تھی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ اس میں دیئے جائیں گے ایک دوسرے
سے ملتا جلتا۔

مثلاً تیسرے دن جو پھل ملے گا اس کی شکل و صورت وہی ہوگی جو داخل ہونے
کے بعد دوسرے دن ملا تھا مگر ذائقہ الگ الگ ہوگا اور لذت روز بروز بڑھتی جائے گی
پہلے دن کے پھل کا جو ذائقہ ہوگا دوسرے دن کا اس سے زیادہ ہوگا تیسرے دن کا
اس سے زیادہ ہوگا اسی طرح روز بروز بڑھتا جائے گا۔ جس طرح کافروں کے متعلق
فرمایا.....

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا پس چکھو تم ہرگز نہیں بڑھائیں گے
تمہارے لئے مگر عذاب ہی۔ یعنی ان کے عذاب میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا۔
اور مومنوں کے لئے مزید کیا ہوگا؟۔ فرمایا.....

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لئے ہوں گے ان جنتوں

میں جوڑے پاکیزہ۔ ایمان والوں کو وہاں حوریں بھی ملیں گی اور دنیا والی عورتیں بھی ملیں گی اور ان کا درجہ حوروں سے زیادہ ہوگا۔

دنیا کی عورتوں اور حوروں کا مکالمہ :

حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا والی عورتوں کو حوریں کہیں گی کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں کوئی کستوری سے پیدا ہوئی ہوگی کوئی عنبر سے کوئی کانور سے کوئی زعفران سے اور تم خاکی مخلوق ہو۔ مگر تمہارا درجہ اور حسن ہمارے سے زیادہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

یہ عورتیں جواب دیں گی لِيَصَلُّوْنَا وَصِيَامِنَا ہم نمازیں پڑھتی تھیں اور روزے رکھتی تھیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے تم تو یہاں مفت میں کھاتی پیتی ہو۔ دنیا والی عورتوں کو نمازوں اور روزوں کی برکت سے اور دین کے سلسلے میں مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے حوروں پر سرداری ملے گی۔ اور ان کا حسن و جمال حوروں کے حسن و جمال کو مات کر دے گا مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہوں۔ کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لئے ایمان شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور مہربانی سے عورتوں کو سہولت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھیں۔

عورتوں کو بطور خاص نصیحت :

وہ عورت بڑی خوش قسمت ہے جس کا خاوند نماز روزے کا پابند ہے۔ اور یہ اس کی خدمت کرتی ہے روٹی پکا کر دیتی ہے۔ کپڑے دھو کر استری کر کے دیتی ہے۔ خاوند کے گھر مال، عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ خاوند کے ثواب میں برابر کی شریک ہے۔ یعنی جتنی وہ نیکیاں کرتا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گا اس کو بھی اتنا ثواب

ملے گا۔ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے برابر ثواب ملے گا۔

اور بیسیو اور بیٹیو! یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ نقلی روزوں اور نقلی نمازوں سے گھر کے کام کاج کا ثواب زیادہ ہے۔ مگر آج کل عورتیں کم کوششیں گھروں میں مشینیں آگئی ہیں سارا کام مشینوں سے لیتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتیں۔ اس وجہ سے صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کریں گے تو جسم میں ضعف اور کمزوری آئے گی۔ بیماریاں حملہ کریں گی تجربہ شاہد ہے کہ بوڑھی عورتیں آج کل کی نوجوان عورتوں سے زیادہ طاقت ور ہیں۔ اور بوڑھے نوجوانوں سے زیادہ طاقت اور ہمت رکھتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے بدن کو حرکت دی ہے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ کام کئے ہیں۔ اور ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کام کرنے میں اللہ تعالیٰ نے صحت رکھی ہے اور اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ لیکن آج کل کے تمام کام مشینوں کے ذریعے سرانجام دیتے ہیں۔ لہذا وہ صحت اور طاقت نہیں ہے۔

تو خیر! فرمایا کہ ایمان والوں کو جنتوں میں جوڑے ملیں گے عورتوں کو خاوند اور مردوں کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی وَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے انعامات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا
 بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا
 الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا آرَادَ اللَّهُ
 بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا
 وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ
 يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَ
 يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ
 فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٨﴾ كَيْفَ
 تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ
 يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٩﴾
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
 ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمَوَاتٍ ۙ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾

لفظی ترجمہ :

إِنَّ اللَّهَ بِرُكْبِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَسْتَعْتَبِي - نہیں شر ماتا أَنْ يُضْرِبَ يَه كِه بِيَان كَرِي مَعْلَامَا كُوِي مِثَال بَعُوْضَةٌ لَمَا كُوِيهَا مِجْمُوكِي هُوِيَا اِس سِي بُوِي لَمَا اَلْدِيْن اَمَنُوَا اِس بِيْر حَال وَه لُوِك جُو اِيْمَان لَائِي لَمَعْلَمُوْن اِس وَه جَانَتِي هِي اِنَّهُ اَلْحَقُّ مِّنْ رَّبِّهِمْ كِه يِه مِثَال حَق هِي اِن كِي رِب كِي طَرَف سِي۔

وَ اَمَّا اَلْدِيْن كَفَرُوَا اُوْر بِيْر حَال وَه لُوِك جُو كَافِر هِي لَمَسْقُوْنُوْن اِس وَه كِهْتِي هِي مَا ذَا اَرَادَ اَللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كِيَا اِرَادَه كِيَا اَللَّهُ تَعَالَى نِي اِس مِثَال كِي سَاتِه يُوْضِلُّ بِه كَثِيْرًا اَللَّهُ تَعَالَى كِرَاه كِرَاتِي هِي اِس كِي ذَرِيْعِي بِيْهْتُوِي كُو وَيَهْدِيْ بِه كَثِيْرًا اُوْر هِدَايْت دِيْتَا هِي اِس كِي ذَرِيْعِي بِيْهْتُوِي كُو وَمَا يُوْضِلُّ بِه اُوْر نِيْهِس كِرَاه كِرَاتَا اِس كِي ذَرِيْعِي اِلَّا اَلْفَسِيْقِيْنَ مَكْرِنَا فِرْمَانُوِي كُو۔

اَلْدِيْن يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ نَا فِرْمَان وَه هِي جُو تُوْزَتِي هِي اَللَّهُ تَعَالَى كِي عَهْد كُو مِّنْ بَعْدِ مَسْقُوْلِهِمْ اِس كُو مَضْبُوْط كِرْنِي كِي بَعْد وَ يَنْقَطِعُوْنَ اُوْر تُوْزَتِي هِي مَا اَمَرَ اَللَّهُ بِه اِس جِيْز كُو جِس كِي بَارِي مِي اَللَّهُ تَعَالَى نِي عَكْم دِيَا هِي اَنْ يُوْضِلُّ يِه كِي اِس كُو جُوْزَا جَانِي

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد مچاتے ہیں زمین میں اُولَئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ كَيْسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا وَكُنْتُمْ
اَمْوَاتًا حالانکہ تم بے جان تھے فَاَحْيَاكُمْ پس اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا
ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ
کرے گا ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ اللّٰهُ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے
لئے مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا جو کچھ زمین میں ہے سارا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى
السَّمٰوٰتِ پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف فَسَوَّاهُنَّ پس برابر کر دیا
ان کو سَبْعَ سَمٰوٰتٍ سات آسمان وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

وَبَطَّل :

اس سے پہلے درس میں میں نے بتایا تھا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تین
چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ توحید، رسالت اور معاد کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں
شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد ﷺ پر نازل
فرمایا ہے تو قرآن کریم کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے کسی ایک چھوٹی سی سورت
کے مثل کوئی سورت لے آؤ۔

لَا اَنْ لَّمْ تَلْعَلُوْا پس اگر تم لوگ عربی اور فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود سب

مل کر بھی نہ لاسکو وَلَٰكِنْ تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہ لاسکو گے تو بچو تم اس آگ سے جس کا
ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔

قرآن کریم پر مشرکین کا اعتراض :

مشرکین مقابلہ کرنے سے تو عاجز آگئے مگر دنیا کی عادت ہے کہ خاموش کوئی
نہیں رہتا۔ جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو قرآن پاک پر اعتراض اور شوٹے چھوڑنے
شروع کر دیئے۔ کہنے لگے کہ تم قرآن کی بڑی تعریف کرتے ہو کہ یہ بڑی عظیم کتاب
ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر اس میں مکھی، مچھر، مکڑی، کتے اور خنزیر کا ذکر کیوں
آتا ہے؟۔ کیونکہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موقع محل کی مناسبت سے اللہ
تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے
ہوئے فرمایا.....

قرآن کریم کی عام فہم مثالیں :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْمَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ حرام کر دیا گیا تم پر
مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کی بے بسی کو ذکر کرتے ہوئے سورۃ الحج
میں فرمایا.....

يَسْأَلُهَا النَّاسُ اے لوگو! ضَرْبَ مَثَلٍ ایک مثال بیان کی جاتی ہے
فَاَسْتَمِعُوا لَهُ اس کو غور سے سناؤ اِنَّ الْاٰدِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ بے شک
جس کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس سمجھ کر پکارتے ہو لٰسَنْ
يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اٰجْتَمَعُوْا لَهُ وہ ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی اگرچہ سارے جمع
ہو جائیں۔ اور اسی طرح شرک کی تردید کرتے ہوئے بیسویں پارے کے آخر میں

فرمایا.....

مَثَلُ الَّذِينَ مَثَلُ ان لوگوں کی تَاخَنُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ جنہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ كَمْزِي كِي طرَحِ هِيَ اتَّخَذَتْ بَيْتًا جس نے بنایا اپنا گھر وَإِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اور بے شک تمام گھروں سے کمزور البتہ كَمْزِي كا گھر ہے یہ كَمْزِي كا جالانا اس كو گرمی سے بچا سكتا ہے۔ نہ سردی سے اور معمولی سا تِكا كُننِ سے ٹوٹ جاتا ہے۔

غرض كہ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر كَمْزِي كا جالانا ہے۔ كَمْزِي سے كوئی پوچھے كہ اتنا بڑا مكان كو ٹھنی مضبوط قلعہ تیرے لئے كا فانی نہیں ہے كہ اس كی چھت كے نیچے یہ جالانا بناتی ہے۔ یہی حال ہے مشركوں كا كہ اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق پر اس كو یقین نہیں آتا اس سے نیچے نیچے چھوٹے چھوٹے كارساز حاجت روا، مشكل كشا، دستگیر بناتے ہیں۔ جو نہ ان كا كچھ بنا سكتے ہیں نہ بگاڑ سكتے ہیں۔

پھر یہ جو كَمْزِي جالانا بناتی ہے اس كا میٹرل باہر سے نہیں لاتی بلکہ اس كا میٹرل اس كے پیٹ سے لعاب كی شكل میں باہر نكلتا ہے۔ ایسے ہی مشرك كے پاس اپنے شركیہ عقیدے پر خارج سے كوئی دلیل نہیں ہوتی نہ قرآن كریم سے، نہ سنت رسول سے، نہ اعمال صحابہ سے، نہ بزرگوں كے اقوال سے بلکہ جو كچھ نكلتا ہے اندر سے ہی نكلتا ہے.....

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ (سورة الكهف) بڑی سخت بات ہے جو ان كے مونہوں سے نكلتی ہے۔ ظالم مشرك اپنے شرك پر ساری دلیلیں اپنے پیٹ سے ہی نکالتا ہے اسی طرح قرآن كریم میں كتے كا بھی ذكر آتا ہے۔ تو

مشرکوں نے اعتراض کیا ہے کہ جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں ان چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا.....

إِنَّ اللَّهَ بَشِكِّ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَسْتَحْيِي نَهَيْ شَرْمَاتَا أَنْ يَضْرِبَ يَهْ كَهْ
 بیان کرنے مَثَلًا مَا كَوْنِي مَثَال، جو تمہیں سمجھانے کے لئے ہو۔ بَعُوْضَةٌ
 فَمَا فَوْقَهَا (فرض کرو) چھڑکی ہو یا اس سے بڑی ہو۔ باریک ہونے میں اس
 سے بڑی ہو۔ یا موٹا ہونے میں اس سے بڑی ہو۔ مثالیں تو سمجھانے کے لئے ہوتی
 ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے پیروں اور مولویوں نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ جس طرح آج کل اہل بدعت نے صحیح دین اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا ہے۔ یہودی اس طرح کرتے تھے کہ چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دیتے تھے لیکن بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لئے فرمایا کہ ”تم چھڑوں کو چھانٹتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو“۔ یعنی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہو اور بڑی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔

لَحِيَّةٌ بِشَيْءٍ :

ایسا ہی ایک واقعہ ”المستطرف فی کل فن مستظرف“ نامی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں وعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہیں اور ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہیں۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے کنواری عورت کے ساتھ بدکاری کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی اس بدکار نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ولادت ہو جائے گی اور میری بدنامی ہوگی لہذا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کو مشورہ دیا گیا کہ کسی دائی سے مل کر

استقاط حمل کر دے کہنے لگا کہ حمل گرانا تو مکروہ ہے۔ اس نے اتنا خیال نہ کیا کہ حمل گرانا مکروہ اور کیا بدکاری جائز ہے۔ یہی حال تھا یہودیوں کا کہ چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے تھے اور بڑی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو مثالیں سمجھانے کے لئے ہوتی ہیں.....

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے
فَبِعَلْمُونَ پس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ مثال حق ہے
ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہر حال وہ لوگ جو کافر
ہیں فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں مَا ذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا
اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ کہ کہیں مکڑی کا ذکر کیا، کہیں مکھی کا۔ ان کے
دماغ ٹیڑھے تھے اس لئے اس طرح کے اعتراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے
ہیں.....

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو۔ جن کے
دماغ صاف نہیں، ضدی ہیں۔ اور ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو۔ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
سمجھانے کے لئے مثالیں دی ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں گمراہ
کرتا ان مثالوں کے ذریعے مگر نافرمانوں کو۔ جو حق کو نہیں مانتے اور فاسق، فاجر
ہیں۔ آگے فاسقین کی صفات کے ساتھ ان کی وضاحت فرمائی ہے.....

﴿ فاسقین کی علامات ﴾

①..... فاسقین کی پہلی صفت :

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ فاسق، فاجر، نافرمان وہ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ تو مفسرین کرام رضی اللہ عنہم کے درج ذیل مختلف اقوال ہیں.....

①..... مفسرین کرام رضی اللہ عنہم کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا تھا۔ حضرت آدم عليه السلام سے لے کر آخری انسان تک جو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پیدا ہونے والے تھے چیونٹیوں کی مانند سب کو ظاہر فرمایا اور ان کو عقل اور شعور دیا پھر ان سے پوچھا.....

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سہیل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو ”قول الست“ کا یاد ہونا :

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَى سب نے کہا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ بعض علماء نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر ہم نے یہ عہد کیا ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا۔ ہمیں تو یہ عہد یاد نہیں ہے؟۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے حافظے کمزور ہیں ان کو تو یاد نہیں ہے اور جن کے حافظے مضبوط ہیں ان کو یاد ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے الست والا عہد یاد ہے۔ اسی طرح حضرت سہیل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اولیاء میں سے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ عہد مجھے بھی یاد ہے۔ اور کئی بزرگ ہیں جو فرماتے ہیں کہ الست والا عہد ہمیں یاد ہے۔

رہی ہماری تمہاری بات تو ہمارے حافظے کا حال تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ روٹی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، پانی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، ماں نے بتایا، باپ نے بتایا، بھائی نے بتایا۔ آخر کسی کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ روٹی ہے اور یہ پانی ہے۔ اسی طرح ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، پاؤں ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ہمیں کس نے سکھائے ہیں۔ اور کس وقت بتائے ہیں۔ رات کے وقت بتائے ہیں دن کے وقت بتائے ہیں۔ کس جگہ بتائے ہیں۔ آخر کسی کے بتانے سے ہی معلوم ہوئے ہیں۔ لہذا اگر وہ عہد یاد نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عہد لیا ہی نہیں گیا۔ بلکہ عالم ارواح میں وہ عہد لیا گیا ہے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ”عہد“ سے وہ عہد مراد ہے۔

②..... مفسرین کرام رضی اللہ عنہم کا دوسرا گروہ فرماتا ہے کہ اس عہد سے کلمے والا عہد مراد ہے۔ کہ ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ باقی کتنے لوگ ہیں جو اس عہد کو قائم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اور کتنے عہد کو توڑنے والے ہیں یہ سب کے سامنے ہے۔

عیانِ راجہ بیاب

کھلی چیز کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ عہد مراد ہے کہ وہ اس عہد کو توڑتے ہیں۔

اور اسی طرح جب ہم ایمان محل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں بھی

عہد کرتے ہیں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ اور میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو قبول کیا۔ اس پر بھی غور کر لو اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہم نے کتنے احکام مانے ہیں اور کتنے توڑے ہیں۔ الٹ والے عہد پر کتنے قائم ہیں۔ اور کلمے والے عہد پر کس قدر قائم ہیں۔ اور قَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ والے عہد پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟۔ غور کر لو کیونکہ عہد توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فاسقون فرمایا ہے۔

②..... فاسقین کی دوسری صفت :

وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اَنْ يُّوْصَلَ یہ کہ اس کو جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑو میرے پیغمبروں کے ساتھ تعلق جوڑو، میری کتابوں کے ساتھ تعلق جوڑو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، نہ اس کے پیغمبروں کے ساتھ، نہ اس کی کتابوں کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ اور صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔

③..... فاسقین کی تیسری صفت :

وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ اور فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ خلاف شریعت کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل، زنا، جوا کھیلتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں فساد فی الارض ہیں۔ اور ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا بھی فساد فی الارض ہے۔ ملاوٹ کا تو یہ حال ہے کہ نمک، مرچ، ہلدی، دودھ، گھی تک کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ دنیا میں فساد ہی فساد ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟۔ فرمایا.....

اُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یہاں تک توحید، رسالت اور قرآن کریم پر اعتراض کا جواب دیا گیا آگے معاد کا بیان ہے۔ فرمایا.....

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ كَيْسَ تَمۡنٰكِرۡ كَرۡتَ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَا۔ یعنی اس کی قدرت اور اس کے احکامات کا وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا حالانکہ تم بے جان تھے۔ رحم مادر میں تخلیق انسان کی کیفیت یہ ہے کہ چالیس دن تک نطفہ ہی رہتا ہے۔ پھر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پھر گوشت کا ٹکڑا ہڈیاں بن جاتا ہے۔ پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے۔ جب انسانی شکل بن گئی تو چار ماہ بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اب اس میں جان آگئی۔ اور اس نے ماں کے پیٹ میں نقل و حرکت شروع کر دی۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا انتظام اس طرح کیا کہ حیض والی نالی کا اس کی ناف کے ساتھ ناڑو لگا دیا۔ ماں کے بدن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا اس کے ذریعے سے اس کو خوراک ملتی ہے۔ جان پڑنے کے بعد پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پلتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔

خدا کی قدرت دیکھو! نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہے۔ مگر وہ پل رہا ہے، موٹا بھی ہو رہا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ پیدائش کے بعد آواز بھی نکالتا ہے۔ جبکہ دنیا میں حالت یہ ہے کہ گرمی میں چھوٹے سے کمرے کی کھڑکیاں، روشن دان، دروازے بند کر دیں تو انسان کو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ دم نکلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اس نے کس طرح انتظام

فرمایا ہے کہ وہ ماں کے چھوٹے سے پیٹ میں سانس بھی لے رہا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو وہ قادرِ مطلق ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا.....

فَأَحْيَاكُمْ پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ کہ ماں کے پیٹ میں جان ڈالی ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تمہیں قبر میں زندہ کرے گا۔

قبر میں زندگی :

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے پھر جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو تُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے فرشتے آجاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں.....

مَنْ رَبُّكَ تیرا رب کون ہے؟۔ مَنْ نَبِيُّكَ تیرا نبی کون ہے؟۔ مَا دِينُكَ تو کس دین پر تھا؟۔ وہ سوالوں کو سمجھتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر نیک ہے تو اس کو قبر میں جو راحت اور آرام ملتا ہے اس کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے اور اگر بد ہے تو اس کو جو سزا ملتی ہے اس کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔

ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت قائم کی جائے گی۔ تمام کے تمام رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے رتی رتی کا حساب ہوگا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پہلوؤں کو پیدا کیا اس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان کی طرف سے بارش نازل فرمائی۔ اور اس کے ذریعے پھل پھول پیدا فرمائے۔ آگے دیگر انعامات کا ذکر ہے، فرمایا.....

کوئی چیز بے فائدہ نہیں :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ اللّٰهَ تَعَالَىٰ وَهِيَ جَسَدٌ فِيهِ خَلْقٌ لِّكُمْ
فائدے کے لئے مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا جو کچھ زمین میں ہے سارا۔ زمین میں جو کچھ ہے انسان کے فائدے کے لئے ہے۔

فائدہ کی مختلف صورتیں :

بعض ملحدین اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ سانپ کے پیدا کرنے میں انسان کو کیا فائدہ ہے؟۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سانپ کے فوائد تو بہت ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لئے صرف ایک فائدہ بتاتا ہوں۔

دیکھو! عذابِ قبر کے بارے میں آتا ہے کہ بروں کے پیچھے نانوے اڑدھے لگے ہوں گے وہ اتنے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک دفعہ سانس لیں تو دنیا میں کوئی چیز ہری نہ رہے۔ تو ان کا ڈنگ کتنا زہریلا ہوگا۔ اب اگر دنیا میں سانپ نہ ہوتا تو یہ بات کس طرح سمجھ آتی اور انسان عبرت کس طرح حاصل کرتا؟۔

حالت یہ ہے کہ مجمع میں اگر چھوٹا سا سانپ نظر آ جائے تو مجمع بدحواس ہو کر بکھر جاتا ہے۔ اور قبر میں اتنے زہریلے سانپ ہوں گے وہ ڈنگ ماریں گے اور آدمی بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ فائدہ ہے کہ نہیں کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔

فائدے کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی پیٹ میں ڈالے۔ بلکہ عبرت حاصل کرنا بھی فائدے میں شامل ہے۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَآءِ پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف۔ زمین کی طرح آسمان بھی آٹے کے پیڑے کی طرح گول تھا۔

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ پس برابر کر دیا ان کو سات آسمان اپنی قدرت سے۔ یہ تمام چیزیں زمین، آسمان اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لئے بنائے ہیں۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
 خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
 وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
 وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾
 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى
 الْمَلَأِكَةِ ۖ فَقَالَ ابْتُؤْنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا
 بِمَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ
 يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ
 بِأَسْمَائِهِمْ ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
 كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَأِكَةِ
 اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۗ أَبَى

وَاسْتَكْبَرَ ۚ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

لفظی ترجمہ :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا تیرے رب نے لِلْمَلٰٓئِكَةِ فرشتوں کو اِنِّىْ جَاعِلٌ بے شک میں بنانے والا ہوں فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً زَمِيْنٍ میں میں نائب قَالُوْا کہا فرشتوں نے اَتَجْعَلُ فِيْهَا كِيَا تو بناتا ہے اس زمین میں مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ اور بہائے گا خون وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ فرمایا اللہ تعالٰی نے بے شک میں جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُوْنَ جو تم نہیں جانتے۔

وَعَلَّمَ اٰدَمَ اور تعلیم دی آدم (ﷺ) كُوَالْاَسْمَآءِ كُلِّهَا سب ناموں كِى نُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰى الْمَلٰٓئِكَةِ پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر فَقَالَ اِنِّبُوْنِیْ پھر فرمایا اللہ تعالٰی نے مجھے خبر دو بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ ان چیزوں کے ناموں كِى اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اگر تم سچے ہو۔

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ کہا فرشتوں نے تیری ذات پاک ہے لَا اَعْلَمُ لَنَا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اِلَّا مَا اَعْلَمْتَنَا مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا قَالَ

يَا آدَمُ أَنْبِئِهِمْ فَرَمَايَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ فِي اے آدم خبر دے ان کو بِأَسْمَائِهِمْ اِن
 چیزوں کے ناموں کی فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ پس جب خبر دی آدم (عَلَيْهِ السَّلَام) نے ان کو
 بِأَسْمَائِهِمْ اِن چیزوں کے ناموں کی قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ فَرَمَايَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ
 نے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اِنِّي اَعْلَمُ بے شک میں جانتا ہوں غَيْبِ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمانوں اور زمین کے غیبوں کو وَاَعْلَمُ اور میں
 جانتا ہوں مَا تُبْدُوْنَ اِس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا كُنْتُمْ
 تَكْتُمُوْنَ اور اِس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو اسْجُدُوْا
 لِاٰدَمَ سجدہ کرو تم آدم (عَلَيْهِ السَّلَام) کو فَسَجَدُوْا پس انہوں نے سجدہ کیا اِلَّا
 اِبْلِيسَ مگر ابلیس نے اَبٰی وَاَسْتَكْبَرَ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا
 وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ اور تھا وہ کافروں میں سے۔

و ربط :

ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے؟۔ اس کے متعلق علماء کرام
 فرماتے ہیں کہ نعمتیں دو قسم کی ہیں.....

①..... ایک ظاہری اور حسی کہ نظر آتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں۔ جیسے آسمان،
 زمین، انسان کا وجود، خوراک اور لباس ہے کہ یہ نظر بھی آتی ہیں اور
 محسوس بھی ہوتی ہیں۔

②..... دوسری نعمتیں باطنی اور معنوی ہیں جو نہ تو نظر آتی ہیں اور نہ محسوس

ہوتی ہیں جیسے علم، اخلاقِ حسنہ وغیرہ ہیں۔ کہ جو نہ تو نظر آتے ہیں اور نہ محسوس ہوتے ہیں۔ کیونکہ اخلاقِ حسنہ کا پتہ تو معاملہ کرنے کے بعد چلے گا۔ ویسے نہیں معلوم ہو سکتا۔

خلافتِ ارضی :

تو پہلے ظاہری اور حسی نعمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور اب باطنی اور معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اے انسانو! تم اس بزرگ کی نسل سے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا جس کی بدولت وہ فرشتوں سے آگے نکل گیا اور مسجود الملائکہ بنا۔ اور انسانوں کی توجہ اس طرف بھی کرائی ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہو اس نے جو تمہارے ساتھ کیا تھا وہ بھی سن لو۔ اور اس کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دو اور اپنی اصل کو نہ بھولو۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو۔ مَلَائِكَةً، اَلْوَكَّةُ سے مشتق ہے۔ اور اَلْوَكَّةُ کا معنی ہے پیغام پہنچانا۔ اور فرشتوں کے ذمہ بھی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی وحی لاتا ہے کوئی رحمت کا پیغام پہنچاتا ہے۔ کوئی نیکوں کے لئے رحمت کی دعائیں کر رہا ہے۔ کوئی مجرموں پر لعنتیں پہنچا رہا ہے۔ کوئی احکامات پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اس لئے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اور فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔

فرشتوں کے ”نور“ سے مراد :

چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ فرشتے نور سے پیدا کئے

گئے ہیں لیکن یہ نور وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ** اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام نور بھی ہے یہ صفت اللہ تعالیٰ
کے ساتھ خاص ہے اس سے کوئی چیز نہیں نکلی فرشتے جس نور سے پیدا کئے گئے ہیں وہ
مخلوق ہے جس طرح مٹی مخلوق ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم عليه السلام کو پیدا فرمایا۔
آگ مخلوق ہے جو جنات کی اصل ہے۔

اسی طرح نور بھی مخلوق ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ
نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اور نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی
عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور ان کی اعلیٰ ترین عبادت ہے **سُبْحَانَ اللَّهِ
وَبِحَمْدِهِ** تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا.....

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بے شک میں بنانے والا ہوں زمین
میں نائب۔ خلیفہ کا معنی ہے نائب۔ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے احکام اللہ تعالیٰ سے وصول کر کے اس کی مخلوق پر نافذ کرے۔ مخلوق کو پہنچائے
تا کہ وہ اس پر عمل کریں۔

فرشتوں کا اشکال :

قَالُوا کہا فرشتوں نے **أَتَجْعَلُ فِيهَا** کیا تو بناتا ہے اس زمین میں **مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا** اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں **وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ** اور بہائے گا
خون **وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ** اور ہم فرشتے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری
حمد کے ساتھ **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ** پڑھتے رہتے ہیں۔

وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں۔ کہ تو تمام عیبوں اور کمزوریوں سے پاک اور صاف ہے۔ اس سے فرشتوں کا مدعا یہ تھا کہ اے پروردگار! کسی اور مخلوق کو جو خلیفہ بنانا چاہتا ہے ہمیں بنا دے ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔

انسان کی فضیلت :

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے۔ تمہارے ذہن میں صرف فرمانبرداری اور اطاعت ہے کہ جس کو تو نے پیدا کرنا ہے اس نے بھی تیری فرمانبرداری اور اطاعت کرنی ہے۔ اور وہ ہم کر رہے ہیں لہذا اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟

ٹھیک ہے تم فرمانبردار ہو اور رہو گے کیونکہ تمہارے خمیر میں خواہشات نہیں ہیں۔ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس میں ہر طرح کی خواہشات بھی ہوں گی لیکن اس میں ایسی قابلیت اور صلاحیت ہوگی کہ وہ ان تمام خواہشات کو دبا کر میری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے فرمانبردار رہے گا۔ اس بات کو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ اور اس وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے کہ فرشتے لمبی راتوں میں بھی ساری رات سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی قیام میں پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں۔ نہ ان کو وضو کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ نہ ان کو نیند کی حاجت ہے اور انسان کے ساتھ یہ ساری حاجتیں اور ضرورتیں لگی ہوئی ہیں۔ پھر وہ فرمانبردار ہے۔ اس لئے اس کی عبادت کا درجہ فرشتوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔

مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو یوں سمجھو کہ اس نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے۔ یعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو گیا اور صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ تو اس کا سونا بھی عبادت شمار ہوگا۔ کیونکہ یہ گرمی، سردی کی پرواہ کئے بغیر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے پھر چل کر مسجد میں جاتا ہے۔ اور فرشتوں کو نہ گرمی کی تکلیف اور نہ سردی کا احساس، نہ چلنے سے تھکاوٹ اس لئے انسان کی پانچ منٹ کی عبادت فرشتوں کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اگرچہ مقدار میں تھوڑی ہے۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا۔

فرشتوں کے اشکال کی وجہ؟ :

تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کا فرشتوں کو کس طرح پتہ چل گیا۔ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو انہوں نے قبل از وقت یہ بات کس طرح کر دی؟۔ اس سلسلے میں مفسرین کرام رضی اللہ عنہم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ.....

①..... آدم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے زمین میں جنات کی حکومت تھی اور وہ قتل و غارت اور فساد وغیرہ سب کچھ کرتے تھے تو ان پر قیاس کرتے ہوئے کہ جو ان کی جگہ آ رہے ہیں یہ بھی وہی کچھ کریں گے گویا کہ فرشتوں نے ایک نوع کا دوسری نوع پر قیاس کیا فَاسَّ أَحَدَ التَّوَعِّينِ عَلَى الْآخَرِ انہوں نے ایک نوع کا

دوسری نوع پر قیاس کیا۔

②..... اور اس کے جواب میں دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ حاکم اور خلیفہ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں جھگڑا ہو فتنہ فساد ہو اور جہاں جھگڑا، فساد نہ ہو وہاں خلیفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ساری جنت میں ایک بھی تھانیدار نہیں ہوگا۔

③..... اور تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ فرشتوں نے لوح محفوظ میں دیکھا تھا کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے کہ فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا۔ تو اس کے ذریعے فرشتوں کو معلوم ہوا کہ آنے والی مخلوق یہ کچھ کرے گی۔ ملائكة المقربین نے لوح محفوظ کو دیکھا تھا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا اور فرشتوں نے پڑھا تھا۔ وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔

اس وقت فتنے عروج پر ہیں اور جوں جوں قیامت قریب آنے لگی فتنے زیادہ ہوں گے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کی پیش گوئی ہے کہ جوں جوں قیامت قریب آئے گی فتنے زیادہ ہوں گے لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ آدمی قبر کو دیکھ کر کہے گا کاش! یہ میری قبر ہوتی۔ یعنی میں مر چکا ہوتا۔ اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا۔

اور آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا ہے وہ کبھی خطا نہیں جا سکتا۔ جوں جوں قیامت قریب ہوگی دن بدن فتنوں میں اضافہ ہوگا۔ کمی کی توقع نہیں ہے۔ کمی تب ہوگی جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کی کنائی کریں گے بد معاش ختم ہوں گے اور اللہ والے کوشوں سے باہر نکل آئیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا

اے پروردگار! تو ایسے کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بے شک ان میں ایسے بھی ہوں گے۔ مگر بے شمار ان میں نیک بھی ہوں گے۔

12

انقلابِ روس اور استقامتِ دین :

پہلے زمانے تو خیر کے تھے ہر طرف نیک لوگ تھے مگر اس زمانے میں بھی زمین کے ہر کونے میں نیک لوگ موجود ہیں۔ اور انہوں نے مظالم کو برداشت کر کے بھی ایمان بچایا ہے اور اسلام کا تحفظ کیا ہے۔

روسی انقلاب کو ہی دیکھ لو کہ انہوں نے اسلام پر پابندی لگا دی ستر سال تک روسی مظالم نے لوگوں کے ذہن مسخ کئے حکومت سے منظوری لئے بغیر نومولود بچے کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا تھا۔ کہ کوئی مسلمانوں والا نام نہ رکھ دے کہ بڑا ہو کر اس کو معلوم ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں اس حد تک پابندیاں تھیں۔ اس کے باوجود وہاں لوگوں نے تہہ خانوں میں چھپ کر اپنے بچوں کو دین سکھایا اور ایمان کا تحفظ کیا۔ الحمد للہ! اس وقت بھی ان علاقوں میں مسلمان موجود ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا امتحان :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور تعلیم دی آدم (علیہ السلام) کو سب ناموں کی ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر فَقَالَ أَنْبِئُونِي پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دو بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان چیزوں کے ناموں کی إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں۔۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ کہ فرشتوں نے تیری ذات پاک ہے لَاَعْلَمَ لَنَا ہمیں

کوئی علم نہیں ہے إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا۔

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ فَرَمَايَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ نَے اے آدم خبر دے ان کو بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ پس جب خبر دی آدم (ﷺ) نے ان کو بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ فَرَمَايَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ نے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا إِنْ سِيْءُ مَا تُدْرِكُونَ أَعْلَمُ بَشَرًا مَّا تُدْرِكُونَ بے شک میں جانتا ہوں غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کے غیبوں کو لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْلُ ذَرَّةٍ اس سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔

وَأَعْلَمُ مَا تُدْرِكُونَ اور میں جانتا ہوں مَا تُدْرِكُونَ اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ اے پروردگار! ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور چھپاتے تھے کہ ہمیں غلافت ملنی چاہیے۔

آدم (ﷺ) کی برتری کی وجہ بمعہ امثلہ :

اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے تعلیم تو دی آدم (ﷺ) کو اور امتحان میں فرشتے بھی مبتلا کئے گئے۔ بظاہر یہ بات انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ یا تو فرشتوں کو بھی تعلیم دی جاتی پھر امتحان لیا جاتا۔

① مولانا اشرف علی تھانوی (رحمۃ اللہ علیہ) نے بیان القرآن میں اس کا بڑا مختصر

جواب دیا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں آدم (ﷺ) کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ مثلاً آدم (ﷺ) کو سمجھایا کہ یہ وہی ہے، یہ ہانڈی ہے، اس کو

چمچہ کہتے ہیں، یہ نمک ہے، اس کو ہلدی کہتے ہیں، یہ مرچ ہے وغیرہ، وغیرہ۔ تو جب آدم علیہ السلام کو نام بتائے فرشتے وہاں موجود تھے مگر وہ سمجھ نہ سکے۔ کیونکہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی نہیں تھیں۔ اور آدم علیہ السلام سمجھ گئے کیونکہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی تھیں۔

②..... پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس طرح سمجھو کہ جیسے

کوئی استاد اقلیدس (جیومیٹری) پڑھائے اور کہے کہ ایک زاویہ قائمہ ہوتا ہے اور ایک زاویہ کادہ ہوتا ہے، ایک شکل خماسی ہوتی ہے اور ایک مربع ہوتی ہے، ایک مثلث ہوتی ہے اور ایک مسدس ہوتی ہے۔ یہ وہی سمجھیں گے جن کو اس سے کچھ نسبت ہوگی۔ وہاں بیٹھے ہوئے عوام بے چارے کیا سمجھیں گے کہ زاویہ کیا ہوتا ہے؟ اور مثلث کیا ہوتی ہے؟ اور مربع کیا ہوتا ہے؟۔ اسی طرح فرشتے بھی نہ سمجھ سکے، کیونکہ ان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔

③..... یا اس طرح سمجھو کہ جس آدمی کو پشتو کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ عبدالرحمن بابا کے شعر کو نہیں سمجھ سکتا۔ صوبہ سرحد میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں عبدالرحمن بابا۔ یہ بڑے اونچے درجے کے اشعار بولتے تھے۔ ان کا دیوان بھی پشتو زبان میں بڑا مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں

مار چہ سورے لہ ورشی ہلہ سم شی

تو پگور ڈڈمے تہ سم شولے رحمانا ہہ

اب جن کو پشتو کے ساتھ تعلق ہے اور پشتو جانتے ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے اور جن کو تعلق نہیں وہ نہیں سمجھ سکے۔ باباجی فرماتے ہیں کہ سانپ جب بل میں داخل ہوتا ہے تو بالکل سیدھا ہو کر داخل ہوتا ہے۔ اے عبدالرحمن تو مرنے کے قریب ہو گیا

ہے، قبر کے قریب ہو گیا ہے اور تیرے بل نہیں نکلے جو دنیا سے عشق اور محبت کے بل تیرے بدن میں ہیں۔

تو انہوں نے تصوف کی بہت بلند بات فرمائی ہے اور یاد رکھنا جو صحیح تصوف ہے اس کے بغیر بھی مسلمان کو چارہ نہیں ہے۔ نفس کا تزکیہ کرنا اخلاق حسنہ کو اخذ کرنا بڑی چیز ہے۔ مگر آج کے دور میں اس کو سمجھنا خاصا مشکل ہے۔

فرشتوں کو سجدہ کا حکم :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اُورْجِبْ كَمَا هُمْ نِي فَرَشْتُوْا كُو اسْجُدُوْا لِاَدَمَ
سجدہ کرو تم آدم (علیہ السلام) کو فَسَجَدُوْا اِیْس انہوں نے سجدہ کیا اِلَّا اِبْلِیْسَ مگر ابلیس
نے اَبی وَاَسْتَكْبَرَ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ اور تھا
وہ کافروں میں سے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا۔ اور ابلیس تو جنات میں سے تھا تَكانَ مِنَ الْجِنِّ تو اس کے متعلق کیوں فرمایا کہ اس نے انکار کر دیا۔ اور تکبر کیا تو جب اس کو حکم ہی نہیں تھا تو اس نے انکار کس طرح کیا تو یاد رکھنا! قرآن کریم میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہاں تو صرف فرشتوں کو سجدے کا حکم ہے اور سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں آتا ہے کہ.....

ابلیس کا انکار و تکبر :

يَا اِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ لَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ اے ابلیس! تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ابلیس

کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ مگر اس نے انکار کر دیا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ اور.....

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ پس تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا جس طرح جماعت میں امام کے پیچھے سارے مقتدی اکٹھے رکوع سجود کرتے ہیں۔ کیونکہ أَجْمَعُونَ کا لفظ ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ سب نے اکٹھا سجدہ کیا اور کیا بھی تمام فرشتوں نے ایسا نہیں ہے کہ بعضوں نے کیا ہو اور بعضوں نے نہ کیا ہو۔ کیونکہ كَلُّهُمْ کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی فرشتہ اس حکم سے خارج نہیں ہے۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہ کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا کہ.....

① ... أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے آگ میں شعلہ اور بلندی ہے۔ اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے جو پاؤں کے نیچے کچلی جاتی ہے اس کو میں کیوں سجدہ کروں۔ اور دوسرے مقام پر ہے کہنے لگا.....

② ... ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے بشر کو حقیر سمجھنے والا ابلیس ہے۔ پندرہویں پارے میں ہے، کہنے لگا.....

③ ... أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَهُ یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ طعن بازی کی ہے۔ جیسے عورتیں لڑتی ہیں تو طعنے دیتی ہیں۔ اور بشر کی تعریف اور تعظیم سب سے پہلے فرشتوں نے کی ہے۔ بشر کا

مقام بہت بلند ہے، لہذا اے انسانو! تم مسجود الملائکہ کی نسل سے ہو۔ اور حضرت
آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی تو علم کی وجہ سے ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
تمہیں معنوی اور روحانی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کو یاد رکھو اور اعمالِ صالحہ
کرو..... واللہ الموفق۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
 وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا
 هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾
 فَازَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا
 فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
 عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ
 إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ
 فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾
 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۗ فَإِمَّا
 يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾ ۚ

لفظی ترجمہ :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ! اسْكُنْ أَنْتَ رَهْ تَو
وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور تیری بیوی جنت میں وَكَلَامًا مِنْهَا اور کھاؤ تم
دونوں اس جنت سے رَغَدًا وسعت اور کشادگی سے حَيْثُ شِئْتُمَا
جس جگہ سے چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور قریب نہ جانا اس
درخت کے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس ہو جاؤ گے نا انصافوں میں
سے۔

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس پھسلا یا ان دونوں کو شیطان نے
اس درخت سے فَأَخْرَجَهُمَا پس نکالا ان دونوں کو مِمَّا كَانَا فِيهِ
ان خوشیوں سے جن کے اندر وہ تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے اترو تم
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ بعض تمہارے دوسرے بعض کے لئے دشمن
ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لئے زمین میں
ٹھکانا ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔

فَتَلَقَىٰ آدَمُ پس حاصل کئے آدم ﷺ نے مِنْ رَبِّهِ اپنے رب سے
كَلِمَاتٍ چند کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ پس اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا ان پر إِنَّهُ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہا ہم نے اترو تم یہاں سے سارے

فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ پس اگر آئے تمہارے پاس مِّنِّي هُدًى میری طرف
 سے ہدایت فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی فَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ پس ان پر نہ خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غم
 کریں گے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور
 جھٹلایا ہماری آیتوں کو أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہ دوزخ والے ہیں هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔

رہنما :

پچھلے سبق میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم ﷺ اور فرشتوں کا امتحان لیا
 اس علمی امتحان میں آدم ﷺ کامیاب ہو گئے اور فرشتے کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اللہ
 تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم ﷺ کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے بغیر کسی قیل و قال
 کے آدم ﷺ کو سجدہ کیا اور ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں
 اپنے سے گھٹیا اور پستماندہ کو سجدہ کیوں کروں؟۔ میں اس سے بہتر ہوں۔

سلطان محمود غزنوی ﷺ کا سبق آموز واقعہ :

مولانا روم ﷺ ایک حکایت بیان کر کے فرماتے ہیں کہ کاش! ابلیس سلطان
 محمود غزنوی ﷺ کے غلام ایاز سے ہی سبق سیکھ لیتا۔ مولانا روم ﷺ بڑے عجیب قسم
 کے بزرگ تھے انہوں نے مثنوی شریف میں کہانیوں کی شکل میں توحید و سنت اخلاص
 تصوف بہت کچھ سمجھایا ہے اور سلطان محمود غزنوی ﷺ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے

زمرہ میں تو نہیں آتا جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان بایزید یلدرم (ترکی) اور سلطان الپ ارسلان سلجوقی رحمۃ اللہ علیہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے نہیں تھے مگر بڑے نیک اور مجاہد قسم کے بادشاہ گزرے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں یورپ والوں کو لگام ڈال رکھی تھی۔

سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ایک نو عمر لڑکا جس کا نام ایاز تھا اور یہ بہت ذہین اور سمجھ دار تھا کو مجلس میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ اور وزیروں کو مشیروں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی انہوں نے کہا کہ حضرت یہ چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ کسی بڑے آدمی کو اپنے پاس بٹھایا کریں اس وقت تو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔

مگر جب انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور سومنات کا مندر گرایا اور ہندوستان کے قیمتی ہیرے اور جواہرات افغانستان پہنچے ان میں ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا اچھے غلام کو حکم دیا کہ ایک پتھر اور ہتھوڑا لاکر میرے سامنے رکھ دو۔ غلام نے پتھر اور ہتھوڑا لاکر رکھ دیا جب مجلس جم گئی تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے وہ قیمتی ہیرا نکالا اور ایک وزیر کو کہا کہ اس کو پتھر پر رکھ کر توڑ دو اس نے کہا بہت قیمتی ہیرا ہے اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اور نہ توڑا۔ دوسرے وزیر کو کہا اس نے بھی نہ توڑا۔ تیسرے کو کہا اس نے بھی نہ توڑا۔

الغرض! وزیروں، مشیروں میں سے جب کسی نے ہیرے کو نہ توڑا تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز کو کہا لو بیٹے تم اس ہیرے کو توڑ دو ایاز نے ہیرے کو پتھر پر رکھ کر ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز کو کہا بیٹا یہ بڑا قیمتی ہیرا تھا سب مشیروں، وزیروں نے توڑنے سے انکار کر دیا اور تو نے اس کو کیوں توڑ دیا ہے؟۔ ایاز نے کہا بے شک ہیرا قیمتی تھا مگر میرے آقا کا حکم اس سے زیادہ قیمتی تھا۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ کاش! کہ ابلیس ایاز سے ہی سبق سیکھ لیتا ایک منٹ کے لئے مان لیتے ہیں کہ تو بہتر ہے۔ اگرچہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ آگ سے خاک بہتر ہے مگر یہ تو دیکھتا کہ تجھے حکم کون دے رہا ہے مگر یہ ساری باتیں سمجھ سے تعلق رکھتی ہیں۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
اور کہا ہم نے اے آدم! رہ تو و زَوْجُكَ
الْجَنَّةَ اور تیری بیوی (حواء عليها السلام) جنت میں۔

جنت سے مراد :

جنت سے مراد اصل جنت ہی ہے نہ کہ ملک اردن کا باغ جیسا کہ بعض ملحدوں نے کہا ہے کہ اردن میں ایک باغ تھا اس میں ان کو بھیج دیا یہ سب خرافات ہیں بلکہ وہی جنت ہے جس میں حساب کے بعد مومنوں نے داخل ہونا ہے۔ اور وہ آسمانوں کی طرف ہے جس کے مقابلہ میں دوزخ ہے۔ جس میں کافروں اور مشرکوں نے داخل ہونا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی سمجھی ہے۔

وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور کھاؤ تم دونوں اس جنت سے وسعت اور کشادگی سے
حَيْثُ شِئْتُمَا جس جگہ سے چاہو۔ اور جو چاہو کھاؤ، بیوکوئی پابندی نہیں ہے مگر
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور قریب نہ جانا اس درخت کے۔ کیونکہ اگر تم نے اس
درخت کا پھل کھایا تو.....

شجر ممنوعہ کون سا تھا؟ :

فَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ پس ہو جاؤ گے نا انصافوں میں سے۔ یہ کس

چیز کا درخت تھا تفسیروں میں مختلف اقوال منقول ہیں.....

(۱)..... انگور اور کھجور کا ذکر بھی ہے۔

(۲)..... بادام اور ملوک کا ذکر بھی ہے۔

(۳)..... لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا۔

اب سوال یہ ہے کہ گندم کا تو درخت نہیں ہوتا بلکہ پودہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے

کہ جنت کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا میں جو پودے ہیں وہ جنت میں درخت ہوں گے

ان کو اس درخت سے کھانے پر ابلیس نے اکسایا تھا۔ قرآن کریم میں ہے.....

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ابلیس لعین نے دونوں

کے سامنے قسم اٹھائی کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات تم سے کر

رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اس درخت سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے منع فرمایا ہے اگر تم اس

درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے الٹی گڑگا چلائی۔

حضرت آدم علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ ہے تو ابلیس مگر رب تعالیٰ کی قسم اٹھا کر تو

جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ پھر حضرت حوا علیہا السلام نے بھی اکسایا۔ بخاری شریف میں حدیث

آتی ہے کہ ”اگر حوا علیہا السلام خیانت نہ کرتیں تو کوئی عورت خیانت نہ کرتی“۔ بہر حال دنیا

میں آنا مقدر تھا۔

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ پس جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا

بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا کھل کے ستران کے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ

وَرَقِ الْجَنَّةِ (اعراف) وہ لگے اپنے اوپر جوڑنے بہشت کے پتے کھانا تو دور کی بات ہے دونوں نے چکھا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کے کپڑے اتار دو۔ دونوں ننگ دھڑنگ ہو گئے اللہ تعالیٰ کی شان کہ درخت بھی بگڑ گئے ستر پوشی کے لئے پتے پتے کے لئے جس درخت کے قریب جاتے اس کی ٹہنیاں اوپر ہو جاتیں۔ بالآخر انجیر کے درخت نے قربانی دی کہ پتے توڑ دینے۔ اب انہوں نے پتوں کے ساتھ پتے جوڑ کر آگے پیچھے رکھ کر ستر ڈھانپا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا.....

حضرت آدم علیہ السلام کا اعتراف و توبہ :

أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ مِثْنِ نَمِهِيں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا وَأَقْلُ لَكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اور تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت بازی نہیں کی۔ حالانکہ اگر منطق لڑاتے تو کہہ سکتے تھے کہ اے پروردگار! ابلیس سے پوچھو اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر کیوں دھوکہ دیا ہے؟۔ اصل مجرم تو وہ ہے اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے تھے مگر آدم علیہ السلام نے سوچا کہ تمام چکر کاٹنے کے بعد بھی عاجزی کا اقرار کرنا ہے۔ تو شروع سے ہی تسلیم کرو۔ قیل وقال کی کیا ضرورت ہے؟۔ اس سے انسان کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

مِنَ الْخٰسِرِينَ دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تو ہمیں معاف کر دے تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کس سے معافی

معا نگیں گے تو اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں ہوں گے یہی انسان کی شرافت ہے کہ رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑتا نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا کیوں ہوئی کہ اس درخت کا پھل کھالیا؟۔

① **امام بغوی** رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہ جانا تو جس درخت کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہوں نے وہ مخصوص درخت سمجھا اور اس کے قریب نہیں گئے۔ اس نوع کے دوسرے درخت سے کھالیا یہ غلطی ہو گئی۔

② **دوسری وجہ** یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نہی کو نہی تحریمی نہیں سمجھا بلکہ نہی تنزیہی سمجھا اور نہی تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے اگر کر لو تو گناہ نہیں ہے۔

③ **تیسری وجہ** یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان کی قسم سے مغالطہ ہوا کہ یہ جو قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ تم کھا لو۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم اٹھالیا ہے اور ابلیس کو اس حکم کے منسوخ ہونے کا علم ہو گیا ہے۔ بہر حال کچھ بھی ہوا ہو یہ مقدر تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام نے زمین پر اترنا تھا۔ سوا تار دیئے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس پھلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے۔ نتیجہ یہ نکلا فَأَخْرَجَهُمَا پس نکالا ان دونوں کو مِمَّا كَانَا فِيهِ ان خوشیوں سے جن میں وہ تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے اتر جاؤ تم

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ بَعْضُ تَمْبَارے دوسرے بعض کے لئے دشمن ہوں گے۔
یعنی تمہاری نسل میں ایک دوسرے کی دشمنی چلے گی۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں
ہے۔ آج دنیا میں انسان ایک دوسرے کی کتنی گردنیں کاٹ رہے ہیں شمار سے باہر
ہیں۔

حضرت آدم وحواء علیہما السلام کے اترنے کی جگہیں :

کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سرئی لٹکا کے جزیرہ سراندیپ میں اتارا گیا اور حوا علیہا السلام
کو سرزمین عرب میں دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ عرفات
کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔

”عرفات“ کا معنی :

”عرفات“ کو عرفات اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ عرفات کا معنی
ہے ”شناخت کی جگہ“۔ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام نے ایک دوسرے کی اس جگہ شناخت
کی تھی۔ فرمایا.....

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ۖ وَتَمْبَارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے۔
یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے ۖ وَمَتَاعٍ ۖ الْي حِينِ ۖ اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت
تک۔ ایک عرصہ تک زمین میں رہو۔ پھر دنیا بے جانا ہے۔

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ۖ بِسِ حَاصِلِ كَلِمَاتِ آدَمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۖ فِي
چند کلمات۔ وہ کلمات یہ ہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۖ یہ آئیں پارے میں موجود ہیں۔

فَتَابَ عَلَيْهِ ۖ بِسِ اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا ان پر۔ یعنی ان کی توبہ قبول

فرمائی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيْعًا كَمَا هُمْ نَزَعْتُمْ مِنْهَا سِوَا رَءْسِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور ان کے ضمن میں جو ان کی اولاد ہے وہ تمام کے تمام سب کو خطاب ہے۔

فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اَلْهُدٰى سِوَا رَءْسِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ اِمَّا اَصْلٌ مِنْ اِنْ مَا هُوَ۔ ”اِنْ“ شرطیہ ہے اگر ہدایت آئے۔ یہ اس واسطے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اگر نہ بھیجتا تو اس سے کون پوچھ سکتا ہے اگر ضرورت ہوئی تو تمہاری طرف پیغمبروں اور کتابوں کی شکل میں ہدایت بھیجوں گا۔

خوف / حزن میں فرق :

فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ اِنۡ يَّسَّرۡ لَكَ شَيْۡءًا مِّنۡ دُوۡنِ ذٰلِكَ فَاٰتِ بِهٖۤ اَمْۤ اَسۡءَا بَۡتۡ لَكَۚ لَآ تَحۡزَنُوۡنَ عَلٰیہِمۡ وَلَا هُمْ يَّحۡزَنُوۡنَ پس ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ آئندہ کسی شے کا خدشہ ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور گزشتہ کسی چیز پر افسوس ہو تو اس کو غم کہتے ہیں۔ جب میں داخل ہونے کے بعد نہ تو آئندہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ گزشتہ زندگی پر کسی قسم کی پریشانی ہوگی کیونکہ نیکیاں کر کے گئے ہوں گے۔

سوال :

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن تو اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ سب کے طوطے اڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ کہہ رہے ہوں گے۔ اے رب سلامتی فرما، اے رب سلامتی فرما۔ تو پھر

لَا خَوْفٌ كَامَطْلَبٌ كِيَا هُوْكََا؟۔

جواب :

اس كے جواب ميں حضرت شيخ الهند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہيں كہ خوف

دو طرح كا ہوتا ہے.....

①..... كہي تو خوف كا باعث ڈرنے والے ميں پايا جاتا ہے جيسے مجرم

بادشاہي جو بادشاہ سے ڈرتا ہے۔ اس خوف كا سبب مجرم ہے جو مجرم كي طرف رجوع كرتا ہے۔

②..... اور كہي خوف كا سبب مخوف عنده يعنى جس سے ڈرتے ہيں اس ميں

كوئي امر ہوتا ہے۔ مثلاً كوئي شخص صاحب جاہ و جلال بادشاہ كے سامنے ہو تو اس كے خوف زدہ ہونے كي يہ وجہ نہيں كہ اس نے بادشاہ كا كوئي جرم كيا ہے بلکہ اس كا قہر و جلال سلطاني اور هيبت خوف كا سبب ہے۔

آيت كريمہ ميں پہلي قسم كي نفى ہوتى ہے جو خوف كسى جرم كي وجہ سے ہو۔ يہ خوف ان پر نہيں ہوگا اور نيك لوگوں پر جو خوف ہوگا وہ اللہ تعاليٰ كے جلال اور عظمت كا ہوگا۔ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ اور لوگوں پر اعمال كي وجہ سے جو گھبراہٹ ہوگی نيك لوگوں پر وہ نہيں ہوگی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جنہوں نے كفر كيا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جھٹلایا

ہماری آنتوں کو اُولَسِّنِكَ اصْحَبُ النَّارِ وہ دوزخ والے ہیں هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ اور جلیں گے نکلنے کا سوال ہی پیدا
 نہیں ہوتا۔

يَبْنِي إِسْرَاءِ يَلْ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ
عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٣٠﴾ وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا
لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ
وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيَّتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ
فَاتَّقُونِ ﴿٣١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّكَعِينَ ﴿٣٣﴾ اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ
وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٤﴾ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٣٥﴾ الَّذِينَ
يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ

رَجْعُونَ ﴿۳۶﴾

لفظی ترجمہ :

يَبْنِي إِسْرَائِيلَ اے بنی اسرائیل! اذْكُرُوا نِعْمَتِي یاد کرو میری نعمتوں کو الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ جو میں نے تم پر انعام کیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور پورا کرو میرے عہد کو أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو وَإِيَّايَ فَارْتَبِعُونِ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔

وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِه اور نہ ہو جاؤ تم پہلے منکر اس کے وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيْتِي اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی قیمت وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ چھپاؤ تم حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حالانکہ تم جانتے ہو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور قائم کرو تم نماز کو اور ادا کرو تم زکوٰۃ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔

أَمْ رُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ كَمَا تَمَّ حَكْمٌ دِيْتِ هُوَ لُوْغُوْنَ كُوْنِيْكَ كَا
وَتَنْسُوْنَ اَنْفُسَكُمْ اُوْر بَهْوَلْ جَاتِ هُوَ اِنِيْ جَانُوْنَ كُوْ وَاَنْتُمْ
تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ حَالَانِكُمْ كِتَابٍ پڑھتے هُوَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ كِيَا پَسِ
تَمْ سَمَجھتے نِهِيْ هُو۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اُوْر مَدِطْلِبْ كُرُوْ صَبْرٍ اُوْر نِمَازِ كِ
سَاتھِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اُوْر بے شَكِّ يِه نِمَازِ الْبِتِّ بَهَارِيْ هِيْ اِلَّا عَلٰى
الْخٰشِعِيْنَ مَكْرَانَ لُوْغُوْنَ پَرِ جُوْ عَا جَزِيْ كَرْنِ وَاَلِ هِيْ۔

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ وَه لُوْغٌ جُوْ يَقِيْنَ رَكھتے هِيْ اَنْهُمْ مُّلْقُوْا
رَبِّهِمْ بے شَكِّ وَه مَلَا قَاتِ كَرْنِ وَاَلِ هِيْ اِنِ پَنِيْ رِبِّ سِيْ وَاَنْهُمْ
اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اُوْر بے شَكِّ وَه اَسِيْ كِيْ طَرَفِ لُوْثْنِ وَاَلِ هِيْ۔

رَبِّكَ :

ان آيات كا پچھلي آيات كے ساتھ ربط يه بيان فرماتے هِيْ كِه پہلے نعمت عامه
بر عامه كا ذكر تھا يعنى نعمتیں بھی عام اور تھیں بھی عام مخلوق پر۔ اور اب نعمت خاصه بر
خاصه كا ذكر هے يعنى نعمتیں بھی خاص اور جس قوم پر ہوئی هِيْ وَه بھی خاص هے۔ يعنى
بنی اسرائیل۔ ان نعمتوں كی تفصیل آگے كئی ركووں تك بيان هُوگی۔

”اسرائیل“ كا معنی :

”اسرائیل“ حضرت يعقوب عليه السلام كا لقب تھا۔ اسراء كا معنی هے عبد اور

ايل كا معنی هے اللہ۔ كمل معنی بنے كا ”عبد اللہ“۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہ بیٹے عطا فرمائے تھے بیٹوں میں سے تین تھے۔ ان بارہ بیٹوں میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے باقی بھائی جمہور کے نزدیک پیغمبر نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً چار ہزار پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ان کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح کیا ہے۔

بنی اسرائیل پر انعامات :

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَجَاءَ بِمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ كَذَّابٌ
 رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور چار مشہور آسمانی کتابوں توراہ، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سے تین پہلی ان کو دی گئیں۔ اور مشہور اس لئے فرمایا کہ ان کے علاوہ اور کتابیں اور صحیفے بھی ہیں مگر وہ مشہور نہیں ہیں۔

توراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں ایسے پیغمبر بھی تھے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ملی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام آخری دور میں مصر کے بادشاہ بھی تھے۔ اور پیغمبر بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے بادشاہ بھی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اور عام بنی اسرائیلیوں پر جو انعامات ہوئے ان کا ذکر اگلے دور کو عموماً میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

يٰۤاِسْرٰٓءِٔلَ اِنَّا اٰتٰٓمُوكُمُ الْكِتٰبَ الْغٰٓیۡبَ الَّذِیۡ فِیۡہِ اٰیٰتٌ لِّقَوْمٍ عٰقِلِیۡنَ
 یٰ بنی اسرائیل! اذکروا انعمتیں یاد کرو
 میری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیں۔ یاد کرنے کا

مطلب ہے کہ ان کا شکر ادا کرو۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْ اٰوْفُوْا بِعَهْدِيْ اور پورا کرو میرے عہد کو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔
 اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا
 ہے۔ یہاں پر اجمال ہے اور چھٹے پارے کے ساتویں رکوع میں اس کی تفصیل ہے کہ
 انہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا
 تھا.....

بنی اسرائیل کا میثاق :

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرٰٓئِيْلَ اور البتہ تحقیق پیغمبر عبدلیا اللہ تعالیٰ
 نے بنی اسرائیل سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنِّيْ مَعَكُمْ میں تمہارے ساتھ
 ہوں لِيْنِ اَقِمْتُمْ الصَّلٰوةَ اگر تم نے قائم کی نماز وَاَتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ اور تم زکوٰۃ
 دیتے رہے وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے
 وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ اور تم ان کی عزت اور قدر کرتے رہے وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ
 قَرْضًا حَسَنًا اور تم اللہ تعالیٰ کو قرضِ حسنہ دیتے رہے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں
 خرچ کرتے رہے۔ یہ کام بنی اسرائیلیوں کے ذمہ تھے وہ پورا کرتے رہیں۔

وَأَوْفِ بِعَهْدِكُمْ اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اے بنی
 اسرائیلیو! وہ میں پورا کروں گا وہ وعدہ کیا ہے؟۔ فرمایا لَا كُفْرَانَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 البتہ میں ضرور مٹا دوں گا تمہاری خطائیں وَلَا دُخْلَنَّاكُمْ اور میں تمہیں ضرور داخل
 کروں گا جَنَّتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں
 بہتی ہوں گی۔ یہ اس معاہدے کی تفصیل ہے۔ فرمایا.....

وَأَيَّاءَ فَارَهُبُونَ ، فَارَهُبُونَ اصل میں فَارَهُبُونَ تھی۔ یا کو تخفیف کے طور پر حذف کر دیا گیا۔ معنی بنے گا اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو۔

وَأَمْسُوا بِمَا أَنْزَلْتُ اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے۔ یعنی قرآن کریم۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور یہ قرآن کریم تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ توراہ، انجیل، زبور جو اصل آسمانی کتابیں تھیں۔
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور نہ ہو جاؤ تم پہلے منکر اس کے۔ اے بنی اسرائیل! اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری طرف دیکھ کر دوسرے بھی انکار کریں گے۔ تو ان کا وبال بھی تمہارے اوپر پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے.....

لوگوں کے سامنے اچھی چیز کا پیش کرنا :

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً جس کسی نے اچھی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی کسی سنت کو زندہ کیا اور اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی عمل کیا تو ان لوگوں کے برابر اس کو بھی اجر ملے گا۔ اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا۔ اس پر جتنے لوگ چلیں گے۔ جتنا گناہ ان کو ہوگا اس رائج کرنے والے کو بھی ان سب کے برابر گناہ ہوگا۔ اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔
اس ضابطے کے مطابق یہ امت جتنی نیکیاں کر رہی ہے وہ تمام کی تمام آنحضرت ﷺ کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں۔ اور جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں بلکہ وہ آنحضرت ﷺ کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اور عام مسلمانوں کو جو دعائیں پہنچی تھیں وہ نہیں پہنچ رہیں تو ان کا بھی حق مار رہے ہیں۔

امام تاج الدين سبكي رحمۃ اللہ علیہ کا قول :

امام تاج الدين سبكي رحمۃ اللہ علیہ ساتویں یا آٹھویں صدی کے بڑے بزرگ اور بڑے عالم تھے۔ طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے بڑا مجمع تھا۔ فرمانے لگے اگر میں قاضی اور جج ہوتا اور کوئی شخص میرے پاس آ کر مقدمہ درج کراتا کہ فلاں آدمی نے نماز نہ پڑھ کر میرا حق مارا ہے تو میں مقدمہ درج کر کے اس کے خلاف کارروائی کرتا کہ واقعی اس نے اس کا حق مارا ہے۔

طالب علموں نے کہا حضرت نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس میں بندے کا حق کیسے آگیا؟۔ فرمایا بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب دعا کرتے تھے تو اس طرح کہتے تھے.....

السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى ميكَائيلَ
السَّلَامُ عَلَى عِزْرَائِيلَ اِلَى آخِرِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَقُولُوا
السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ نہ کہو السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے سلامتی
کی دعا تو اس کو دی جاتی ہے جس کو کوئی خطرہ اور خدشہ ہو۔ اس لئے کہ السلام علیکم کا
معنی ہے اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی میں رکھے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم اس
کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہو۔

اور فرشتوں کا نام لے، لے کر کتنوں پر سلام بھیجو گے اور پھر کتنے فرشتوں کے
نام تمہیں آتے ہیں پھر اسکے بعد پیغمبر ہیں تو کتنے پیغمبروں کا نام لے کر سلام بھیجو
گے۔ لہذا تم اس طرح کہو السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کہ ہم پر
سلامتی ہو تو اس جملے میں انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم، صلحاء، جن، فرشتے تمام آجائیں گے اور یہ دعا

أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ لِلَّهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللهُ تَعَالَى كَيْ هَرَيْكَ
بندے کو پہنچتی ہے۔ چاہے وہ آسمانوں میں یا زمین میں شرق میں ہو یا غرب میں،
شمال میں ہو یا جنوب میں۔

لہذا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ سب کا حق مارتا ہے کہ وہ اس دعا سے محروم
ہو گئے۔ تو علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ کرتا کہ واقعی اس نے اس کا حق مارا
ہے۔ کہ اس کو دعا سے محروم رکھا ہے۔ یا اس طرح سمجھو کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس
نے درود شریف صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ بھی نہیں پڑھا۔
ال محمد سے مراد تمام مومن ہیں تو اس نے تمام مومنوں کا حق مارا ہے۔ لہذا بے نماز
صرف رب تعالیٰ کا ہی حق نہیں مارتا بلکہ مخلوق کا بھی حق مارتا ہے۔

دنیا کی حیثیت :

وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ خریدو میری آیتوں کے
بدلے تمہاری قیمت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے بیچنا جائز
ہے۔ کیونکہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب قلیل ہے۔

چنانچہ ترمذی شریف میں روایت آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ
دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں پھھر کے پر کے برابر بھی
ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فر کو ایک ٹھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ ہمارے نزدیک تو سونے،
چاندی، ڈالر اور پونڈز کی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھھر کے پر کے برابر بھی
اس کی حیثیت نہیں ہے۔

لہذا ساری دنیا بھی قرآن کریم کی ایک آیت کے مقابلہ میں بیچ ہے۔ یوں

سمجھو کہ "ق" ایک آیت ہے سارے دنیا کے خزانے جمع ہو کر "ق یا جم" کی قیمت نہیں بن سکتے۔ فرمایا وَ اِتٰی فَاَتَقُوْنَ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔

کتمانِ حق کی مختلف صورتیں :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ يٰۤاٰنَآءَ لَا مَقْدَرَ لَہٗٓ اَصْلًا میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ
اور نہ چھپاؤ تم حق کو۔ حق کے مننے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں.....

① ایک یہ کہ حق کو بیان نہ کیا جائے اور ظاہر بات ہے کہ جب حق کو بیان نہیں کیا جائے گا تو آنے والی نسلوں کو کیا پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے؟۔ اور باطل کیا ہے؟۔

② اور دوسرا یہ ہے کہ حق کو ملغوبہ بنا دیا جائے کہ حق اور باطل کو اس طرح خلط ملط کر دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟۔ اسی لئے بدعت کا بہت سخت گناہ ہے کہ بدعت سے دین خلط ملط ہو جاتا ہے کتنا سخت گناہ ہے۔

بدعت کی نحوست :

ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر سو بوتلیں شراب کی پئے تو اس کا کتنا گناہ ہے۔ ویسے تو ایک بوتل کا بڑا گناہ ہے۔ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ سو بوتلیں شراب کی پئے تو کتنا گناہ ہوگا ایک بدعت کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا۔ گناہ کرنے والا بھی گناہ کو سنہ سمجھتا ہے اس سے توبہ بھی کر سکتا ہے۔ دین نہیں سمجھتا۔ اور بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ بدعتی

، بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے۔ اور ثواب سمجھتا ہے اس لئے اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں نے دین کو سنبھالا ہوا ہے بدعات ان کا دین ہیں۔ اگر تم بدعات کا رد کرو تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے۔ اس لئے سو گناہ کبیرہ ایک طرف اور ایک بدعت ایک طرف ہو تو بدعت کا گناہ زیادہ ہے۔ کیونکہ اس سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اور بدعتی، بدعت کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ اسی لئے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ اس کو کارِ ثواب سمجھتا ہے۔ اور ثواب کے کام سے کیوں توبہ کرے۔

مثلاً ابھی آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے اور درس سن رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب تم یہ نہیں کہو گے کہ اے پروردگار! یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے اس سے میری توبہ اور یہ جو میں نے قرآن سنا ہے اس سے میری توبہ۔ بلکہ شکر ادا کرو گے کہ الحمد للہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور بدعتی جب بدعت کو دین سمجھ کر کرے گا تو اس سے توبہ کب کرے گا؟

بدعتی سے توبہ کا سلب ہو جانا :

چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ بَشَكَ اللَّهُ تَعَالَى نَعْتِ كَرْنِ وَالِے ۛر تَوْبَہ كَا ۛر وَاوَزَه بِنْد كَر دِيَا هَے۔ بدعت كِ اتْنِي نَحْوَسْت هُوْتِي هَے كَه ۛر ۛر ۛر تَوْبَہ كِي صِلَا حِيْت بَا قِي هِي نَهِيْس رَهْتِي۔ جَس طَرَح غَالِي كَا فَرُوں مِيْس اِيْمَان كِي صِلَا حِيْت بَا قِي نَهِيْس رَهْتِي۔

رسوم باطلہ ”تحفۃ الہند“ کی روشنی میں :

مولانا عبید اللہ نو مسلم (مرحوم) پہلے پنڈت تھے اور لدھیانہ کے رہنے والے تھے بڑے بڑھے لکھے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان ہو گئے انہوں نے کتاب لکھی ”تحفۃ الہند“ ہندوؤں کے لئے تحفہ۔ یہ کتاب بڑی نایاب تھی۔ اب گوجرانوالہ کے ساتھیوں نے ہمت کر کے چھپوائی ہے۔ اس کو لے کر ضرور پڑھو اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تیجہ، ساتواں، دسواں، برسی منانا، عرس لگانا یہ تمام ہندوؤں کی رسمیں ہیں جو ہمارے اندر آگئی ہیں۔

مسلمان آئے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہندو، سکھ مسلمان ہوئے مگر ان کی جو رسمیں تھیں ان کو نہیں چھوڑا وہ ابھی تک ساتھ چلی آرہی ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان لانے کا سبب یہی کتاب بنی، ان کا پہلا نام بوٹا سنگھ تھا۔

اور عورتوں کو بھی سمجھاؤ اور ان کا ذہن صاف کرو بدعات کا ایک سبب یہ بھی ہیں۔ جب تک ان کا ذہن صاف نہیں ہوگا۔ بدعات ختم نہیں ہوں گی تم حاجی بن جاؤ نمازی بن جاؤ، عورتوں کے ذہن صاف نہیں ہیں تو بدعتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور جن گھروں میں عورتیں سمجھ دار ہیں الحمد للہ وہاں بدعتیں اولاً تو ہوتی ہی نہیں اور اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت کم۔ بدعت کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد :

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفے کے گورنر تھے کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت فلاں مسجد میں لوگ اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا **أَوْفَعَلُونَ ذَلِكَ** کیا ایسی کارروائی

یہاں ہو رہی ہے؟۔ لوگوں نے کہا ہاں حضرت ہو رہی ہے۔ فرمایا کل جس وقت یہ کارروائی ہو مجھے آکر اطلاع دینا چنانچہ اطلاع دی گئی۔ حضرت کا ہلکا پھلکا چھوٹا سا قد تھا، نقاب پوشی کی تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ بڑے تیز چلتے تھے وہاں پہنچ کر منہ سے کپڑا اتارا اور فرمایا.....

مَنْ عَرَفَنِي ، عَرَفَنِيُ جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَنِيُ فَإِنَّا إِنُّ مَسْعُودٍ اور جو نہیں پہچانتا تو میں عبد اللہ بن مسعود کو نے کا گورنر ہوں۔ اوظالمو! ابھی تک آنحضرت ﷺ کے مٹی کے برتن نہیں ٹوٹے ابھی تک آپ ﷺ کے کپڑے میلے نہیں ہوئے اور.....

اتَيْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظَلَمَاءِ یہ تم مسجد میں اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہو بدعتیں کرتے ہو۔ مَا أَرَاكُمْ إِلَّا مُتَدِعِينَ میں نہیں دیکھتا تمہیں مگر یہ کہ تم سارے کے سارے بدعتی ہو۔ فَأَخْرَجَهُم مِّنَ الْمَسْجِدِ پس ایک ایک کو پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا اس سے اندازہ لگاؤ کہ بدعت کتنی قبیح ہے۔ یہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما آفَقَهُ الْأُمَّةُ ہیں۔

تمام امت میں سب سے بڑے فقیہ تمام امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن جن کے متعلق آنحضرت ﷺ نے فرمایا رَضِيْتُ لَكُمْ مَا رَضِيَ لَكُمْ إِنَّ أُمَّ عَبْدٍ جس چیز کو تمہارے لئے ابن مسعود پسند کرے میں بھی اس پر راضی ہوں۔ وَمَا أَسْخَطَ لَكُمْ إِنَّ أُمَّ عَبْدٍ فَقَدْ سَخَطْتُ لَكُمْ اور جو چیز تمہارے لئے ابن مسعود ناپسند کرے میں پسند نہیں کرتا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو بدعات نہ کرے وہ وہابی ہے اور جو بدعات کرے وہ سنی ہے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ - تو فرمایا کہ حق کو نہ چھپاؤ۔

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حالانکہ تم جانتے ہو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ اور قائم کرو تم نماز کو اور ادا کرو تم زکوٰۃ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔

أَمْ مَرُوءِنَ النَّاسِ بِالْبُرِّ كَمَا تَمْ حَكْمٌ دِيْتَهُ هُوَ لَوْ لَوْ كُوْنَ كُوْنِي كُوْ
وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ اور بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو۔ آج ہمارے وعظ و تبلیغ
میں اسی وجہ سے اثر نہیں ہے کہ ہم کہتے زیادہ ہیں اور کرتے کم ہیں۔ اور پہلے
لوگوں کے وعظ اور تبلیغ اس لئے موثر ہوتے تھے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے پہلے کر کے
دکھاتے تھے۔

وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو أَفَلَا تَعْقِلُونَ
کیا پس تم (اپنی موٹی باتیں بھی) نہیں سمجھتے۔

استعانت کا غلط مفہوم :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ صبر
اور نماز مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی بلکہ مدد اللہ تعالیٰ
سے مانگنی ہے۔ جس کا سبق سورۃ فاتحہ میں دیا گیا ہے اِيَّاكَ نَسْتَعِيْدُ وَاِيَّاكَ
نَسْتَعِيْنُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بات اچھی
طرح سمجھ لو غلط قسم کے لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔

چنانچہ ایک بدعتی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہنے لگے دیکھو سنیو! یہ وہابی
کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو۔ میں غیر اللہ سے مدد مانگنا قرآن سے ثابت کرتا

ہوں۔ دیکھو! قرآن کہتا ہے **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے۔ کیا صبر اور نماز غیر اللہ نہیں ہیں؟۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا قرآن سے ثابت ہے **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ**۔

کیسا دھوکہ دے رہا تھا کہ ”حرفِ با“ جو صبر پر داخل ہے اور نماز پر داخل ہے اس کو حلو سمجھ کر کھا گیا۔ کیونکہ ”با“ کا معنی سبب اور ذریعہ ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعہ سے اور مانگنی کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔
فرمایا.....

وَأَنهَآ لَكِبْرَةٌ اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے **إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ** مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے۔

الَّذِينَ يَظُنُّونَ عاجزی کرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں **أَنَّهُمْ مُّلقُوا رَبَّهُمْ** بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے **وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رٰجِعُونَ** اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایسے مومنوں پر نماز کوئی بھاری نہیں ہے۔

يَبْنِيْ اِسْرَآءِ يُلَ اذْ كُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِي
اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتِيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَي
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾ وَاَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ
نَفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ
لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَاذْ
نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اِلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُوْنَكُمْ سُوءَ
العَذَابِ يَدَّبْحُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ
نِسَاءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
عَظِيْمٌ ﴿٣٩﴾ وَاذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ
فَاَنجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَا اِلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ
تَنْظُرُونَ ﴿٤٠﴾ وَاذْ وَاَعَدْنَا مُوسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً
ثُمَّ اَتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهِ وَاَنْتُمْ
ظٰلِمُونَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى

الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۳﴾

لفظی ترجمہ :

يُبْنِي إِسْرَائِيلَ اے بنی اسرائیل اذْکُرُوا نِعْمَتِي یاد کرو میری نعمتوں کو اَلَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وہ (نعمتیں) جو میں نے تم پر انعام کیں وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی عَلَي الْعَالَمِينَ جہان والوں پر

وَاتَّقُوا يَوْمًا اور ڈرو اس دن سے لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے شَيْئًا کچھ بھی وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے جرمانہ وَّ لَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونوں سے يَسُومُونَكُمْ جو چکھاتے تھے تمہیں سُوءَ الْعَذَابِ برا عذاب يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو وَفِي

ذَلِكُمْ بَلَاءٌ اور اس میں امتحان تھا مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ تمہارے رب کی طرف سے بڑا۔

وَإِذْ فَارَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ اور جس وقت پھاڑا ہم نے تمہارے لئے سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تمہیں نجات دی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور غرق کیا ہم نے فرعونوں کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) سے أَرْبَعِينَ لَيْلَةً چالیس راتوں کا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبودٍ مِنْ بَعْدِهِ اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ پھر ہم نے معاف کیا تم کو مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر یہ ادا کرو۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ اور جب دی ہم نے موسیٰ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) کو کتابَ وَالْفُرْقَانَ اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔

رَبِّكَ :

اس سے پہلے رکوع میں يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ كُرُوا نِعْمَتِيَ کے ذکر

میں، میں نے کہا تھا کہ یہ اجمال ہے اور آگے تفصیل آئے گی۔ یہاں سے ان نعمتوں کی تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ کچھ اس رکوع میں اور کچھ اگلے رکوع میں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

بنی اسرائیل کی فضیلت :

يُسَبِّحُ اسْرَاءِئِيلَ اے بنی اسرائیل اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ یاد کرو میری نعمتوں کو اَلَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وہ (نعمتیں) جو میں نے تم پر انعام کیں وَاَنْتُمْ نَسِيتُمْ فَضْلَتَكُمْ اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی عَلَي الْعٰلَمِيْنَ جہاں والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائیں اور باطنی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا۔

باطنی نعمتیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً چار ہزار پیغمبر مبعوث فرمائے کسی قوم میں ایک پیغمبر آ جائے تو ان کا سر فخر سے آسمان کے ساتھ جا لگتا ہے۔ اور جس قوم میں چار ہزار پیغمبر آئیں ان کے لئے یہ کتنے فخر کی بات ہے پھر تین مشہور آسمانی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائیں۔ توراہ حضرت موسیٰ، زبور حضرت داؤد اور انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔

اور ظاہری نعمتیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے۔ پھر داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ اور کئی نیک بادشاہ ان میں گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور میری ان

نعمتوں کا شکر یہ ادا کرو۔

وَأَتَّقُوا يَوْمًا أُورِثُوا سِدْرًا مِّنْ دُونِهَا (مراد قیامت کا دن ہے)۔ لَا تَنْجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور نہ قبول کی جائے گی اس کی طرف سے سفارش وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے جرمانہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھو! عادتاً جو آدمی گرفتار ہوتا ہے اسے عقلی طور پر چھڑانے کے چار طریقے ہیں.....

مجرم چھڑانے کے چار طریقے :

(۱)..... ایک یہ کہ اس کا کوئی شخص ضامن بن جائے کہ یہ بھاگے گا نہیں میں اس کو عدالت میں پیش کروں گا یا جو کچھ اس کے ذمہ ہے رقم وغیرہ اس کی ضمانت دے کر چھڑالے۔

(۲)..... دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفارش کے ذریعے چھڑا لیا جاتا ہے۔

(۳)..... تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جرمانہ دے کر چھڑا لیا جاتا ہے۔

(۴)..... چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہلہ بول کر تھانے سے چھڑا لیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان میں سے کوئی طریقہ بھی کام نہیں آئے گا نہ تو کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کفایت یعنی ضمانت دے سکے گا، نہ سفارش قبول کی جائے گی۔ اور نہ جرمانہ لیا جائے گا اور نہ ہلہ بول کر کوئی چھڑا سکے گا۔ آگے ان انعامات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر مختلف اوقات اور مختلف زمانوں میں ہوئے.....

وَإِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اٰوْر جِبْہِمۡ نَے تَمۡ کُوۡنَجَاتِ دِی
 فِرْعَوْنِیۡوۡں سَے یَسُوۡمُوۡنَکُمۡ سُوۡءَ الْعَذَابِ جُو چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب
 یُدَبِّحُوۡنَ اَبْنَآءَکُمۡ ذٰنِجۡ کَرۡتَے تھے تمہارے بیٹوں کُو وَیَسْتَحِیۡوُنَ نِسَآءَ
 کُمۡ اُوْر زَنۡدَہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کُو۔

”فرعون“ کا معنی اور منصب :

”فرعون“ عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ”بادشاہ اور صدر“ ہے اس وقت
 کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا بہت سارے ایسے صدر اور فرعون گزرے ہیں نام
 ان کے مختلف تھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام تھا ”ریان بن ولید
 بن مسد“ یہ بڑا نیک آدمی تھا اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے حکومت چھوڑ دی تھی۔
 حالانکہ حکومت چھوڑنا آسان بات نہیں ہے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو کرسی سے اتار دیا جائے وہ کس طرح تڑپتا ہے اور
 مارا مارا پھرتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر پھینک دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے۔ یہی
 حال معزول حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ مگر اس اللہ کے بندے نے بخوشی و رضا تاج شاہی
 یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا
 مصعب بن ولید یہ بڑا ہوشیار چالاک آدمی تھا۔ آج کل لیڈروں کی طرح کہ سب کچھ
 کر کے بھی بے گناہ ثابت ہوتے ہیں۔

فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ دو تین سالوں میں بنی اسرائیلیوں میں ایک بچہ
 پیدا ہوگا۔ جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا وہ نجومی کبھی درست بات بھی
 کرتے تھے۔

چنانچہ فرعون نے عورتوں کا ایک الگ محکمہ قائم کیا اور ان کو ذمہ داری سونپی کہ بنی اسرائیلیوں کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کریں۔ بنی اسرائیلی اس وقت کافی تعداد میں تھے۔ حاملہ عورتوں کی نگرانی سخت کر دی جاتی اگر بچی پیدا ہوتی تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے اگر بچہ ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کو قتل کر دو۔

①..... شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں۔ ”بارہ ہزار بچے اس ظالم حکمران کے قانون سے ذبح ہوئے“۔

②..... علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوئے ہیں انہوں نے عملیات کے موضوع پر عربی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے شمس المعارف یہ چار جلدوں میں ہے اور عملیات کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق ”ستر ہزار بچے قتل ہوئے“۔ لیکن بارہ ہزار تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اور نوے ہزار ماؤں نے دیدہ دانستہ حمل گرا دیئے کہ بچہ ہمارے سامنے ذبح ہوگا تو ہم سے گوارہ نہ ہو سکے گا۔

③..... اکبر الہ آبادی مرحوم بڑے طنز نگار شاعر تھے۔ طنز کے طور پر وہ بڑی بات سمجھادیتے تھے وہ کہتے ہیں۔

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا

افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

مطلب یہ ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کر کے بدنام ہو گیا کالج بنا کر ان کے ذہن

بگاڑ دیتا کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ کیونکہ کالج میں آسانی سے ذہن مسخ کئے جاتے

ہیں۔ انگریزوں نے کالج کے ذریعے ہی مسلمان نسل کے ذہن بگاڑے ہیں۔

معاف رکھنا! حالات تمہارے سامنے ہیں۔ چند انگریزی خانوں کو نکال کر کہ جنہوں نے انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی ہے یہ تو مستثنیٰ ہیں اور جنہوں نے صرف انگریزی تعلیم حاصل کی ان کے ذہن صاف نہیں ہیں۔ وہ وہی بات کرتے ہیں جو انگریز کہتا ہے۔

خدائی تدبیر :

بہر حال فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لئے بڑے بچے ذبح کروائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی۔ جس کی تفصیل سولہویں پارہ میں ہے کہ جس بچے سے خطرہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر پال کر دکھایا۔

حکایت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ :

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرعون کی اس کارروائی کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں: "ایک آدمی بڑا مالدار تھا اس کے پاس سونا، چاندی، جواہرات اور بڑے قیمتی ہیرے تھے۔ اور مکان اس کا قلعہ نما تھا۔ ڈاکوؤں نے مشورہ کیا کہ اس کے لوٹنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ نہ تو دروازے توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی دیوار پھلانگ کر اندر جاسکتے ہیں۔ طے یہ پایا کہ دن کو جب دروازہ کھلا ہو ایک ہلکا سا آدمی اندر چلا جائے اور کسی حصے میں پلنگ وغیرہ کے نیچے چھپ جائے۔ رات کو فلاں وقت اندر سے کنڈی کھول دے ہم اندر داخل ہو جائیں گے۔

چنانچہ ایک پھر تیلے جسم کا چور اندر داخل ہوا اور کہیں چھپ گیا رات کو اس نے اٹھ کر باہر والے دروازے کی کنڈی کھول دی صاحب خانہ کو کنڈی کھلنے کی آواز آئی اس نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی ہے وہ جلدی سے اٹھا اور کنڈی لگا دی۔ حالانکہ چور

اندر ہی تھا مگر اس نے سمجھا کہ نکل گیا ہے۔

در بہ بست و وزد اندر خانہ بود

حیلہ فرعون زیں افسانہ بود

دروازہ بند کر دیا حالانکہ چور اندر ہے اسی لئے فرعون کی تدبیر ایک کہانی بن گئی

کامیاب نہ ہو سکی۔

اے ظالم! تو نے بارہ ہزار بچے ذبح کروائے اور جس نے تیرا بیڑا غرق کرنا

ہے وہ تیرے گھر میں پرورش پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیرے گھر پال کر

دکھاؤں گا۔ مکمل تیس سال تک موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پلتے رہے۔ بچوں کو ذبح کرتا

اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ فرمایا.....

وَ فِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ وَّاٰرَاسٍ مِّنْ اٰمْتِحَانٍ تَهَارَىٰ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ

تمہارے رب کی طرف سے بڑا۔

بنی اسرائیل کی نجات :

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان

ساتھیوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں مرد عورتیں اور بچے تھے لے کر یہاں سے ہجرت

کر کے چلے جاؤ۔ اور فلسطین میں جا کر رہو۔ بنی اسرائیلی جتنا سامان اٹھا سکتے تھے وہ

لے لیا اور رات کو یہاں سے نکل گئے۔ اتنی مخلوق جب اکٹھی نکلتی ہے تو شور تو ہوتا ہے

فرعون اور اس کے وزیر اعظم ہامان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ہنگامی حالات کا اعلان

کر دیا فرعون اپنی فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ بنی اسرائیلی سحری کے

وقت دریا قلزم کے قریب پہنچے۔ جو خاصا گہرا تھا پیچھے فرعون کی فوجیں بھی ڈھول

بجاتی، گانے گاتی اچھلتی کودتی پہنچ گئیں۔ بنی اسرائیلی فرعون کی فوجوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب ہم کیا کریں گے پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا.....

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيُنِيْ بِشَكِّ مِيرے ساتھ میرا رب ہے وہ میری راہنمائی فرمائے گا۔ اور حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو اپنی لاشھی دریا میں مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاشھی دریا پر ماری تو رب تعالیٰ نے بارہ راستے بنا دیئے۔

فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں ہوتی ہیں۔ راستے بالکل خشک ہو گئے بلکہ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں لگا دی گئیں۔ تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں کہ وہ بھی جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔

فرعون کی غرقابی :

فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گیا۔ اور اپنے وزیر اعظم ہامان کو کہا کہ تو فوج کے آگے چل اور میں پیچھے رہوں گا۔ اور دریا میں داخل ہو جاؤ۔ اور ان کا تعاقب کرو۔ جب وہ تمام کے تمام دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ تو جاری ہو جا۔ سارے جہنم رسید ہوئے اور فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے بڑا واویلا کیا اور کہا.....

أَمِنْتُ أَنَّهُ لَإِلَٰهَ إِلَّا الَّذِيْ آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ میں ایمان لایا کہ

بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔
جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا.....

الْأُنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ابِ اِيْمَانِ لَا تَا هِيْ حَالَانِكِهٖ اِيْمَانِكِهٖ اِيْمَانِكِهٖ اِيْمَانِكِهٖ
اور اکڑتا تھا۔ اب یہ کریں گے کہ الْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ
خَلْفَكَ آيَةً آج ہم تیرا وجود دریا سے نکال کر باہر پھینک دیں گے تاکہ پچھلے
لوگ دیکھیں کہ یہ تھا وہ کہتا تھا.....

اِنَّا رَّبُّكُمْ الْاَعْلٰى مِيْن تَمِهَارَا رَبُّ الْاَعْلٰى اِيْعْنٰى ”سب سے بڑا رب“
ہوں۔ اب ناک سے پانی بہ رہا ہے اور بھی جہاں جہاں سے بہنا تھا بہ رہا ہے۔
آج تک اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی
فرعونوں کی لاشیں پڑی ہیں اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں.....
وَ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ اَوْرَجْسِ وَاَقْتِ اِيْمَانِكِهٖ اِيْمَانِكِهٖ اِيْمَانِكِهٖ اِيْمَانِكِهٖ
فَاَنْجَيْنَاكُمْ اِيْمَانِكِهٖ اِيْمَانِكِهٖ اِيْمَانِكِهٖ اِيْمَانِكِهٖ اِيْمَانِكِهٖ اِيْمَانِكِهٖ اِيْمَانِكِهٖ اِيْمَانِكِهٖ
ہم نے فرعونوں کو وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ اور تم یہ سارا نقشہ دیکھ رہے تھے۔

صحرائے سینا :

دریا پار کر کے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر جب وادی تیبہ میں پہنچے جس کو آج کل
کے جغرافیہ میں ”وادی سینائی“ کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی چھتیس میل اور چوڑائی
چوبیس میل ہے۔ اور سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔

اس پر ۱۹۶۷ء کی جنگ میں یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا پھر مصر نے جنگ لڑ کر
اس کا کچھ حصہ حاصل کیا۔ لیکن وہ حصہ جس میں تیل ہے اور فوجی اہمیت کا حامل ہے وہ

آج تک اسرائیل کے قبضہ میں ہے۔ بہر حال حضرت موسیٰ ﷺ جب وادی تیبہ میں پہنچے تو قوم نے کہا اے موسیٰ! کوئی قوم آئین کے بغیر وقت پاس نہیں کر سکتی۔ اور ضابطے اور قانون کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا لہذا اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب لا کر دو تا کہ ہم اس کے مطابق وقت گزاریں۔

چنانچہ موسیٰ ﷺ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ پہلے تیس راتیں پھر بڑھا کر چالیس راتیں کر دی گئیں۔ چالیس راتوں کے اعتکاف کے بعد موسیٰ ﷺ کو کتاب دے دی گئی۔ لیکن اس دوران پیچھے قوم میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔

سامری کی کارستانی :

ہوا اس طرح کہ موسیٰ ﷺ کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام ”موسیٰ بن ظفر“ تھا۔ یہ قبیلہ سامرہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اور سامرہ قبیلہ بھی حضرت یعقوب ﷺ کی نسل سے تھا۔ یہ آدمی منافق تھا۔ اس نے سونے چاندی کا ایک نچھڑا بنایا اور حضرت جبریل ﷺ کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی وہ مٹی اس نچھڑے میں ڈالی تو اس نچھڑے نے ٹیس ٹیس کی آواز نکالنی شروع کر دی۔

سامری نے لوگوں کو کہا کہ نچھڑے کے اندر جو ٹیس ٹیس کر رہا ہے یہ رب ہے۔ بے وقوف لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ ﷺ جب واپس تشریف لائے تو حضرت ہارون ﷺ سے غصے ہوئے ان کی ڈاڑھی پکڑی سر کے بال پکڑے اور کہا کہ تم نے لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی؟۔ انہوں نے کہا.....

يَا بْنَ اُمَّ اے میری ماں کے بیٹے! میری ڈاڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو میں نے قوم کو یہاں تک سمجھایا کہ كَادُوا يَفْتُلُونَنِي قریب تھا کہ مجھے قتل کر

اَعْوَرَ یعنی کانا ہوگا وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيَسَّ بِاَعْوَرَ اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے پچھڑے کو معبود بنا لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ پھر ہم نے معاف کیا تم کو مِنْ مَّ بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر یہ ادا کرو۔ وَاذُنَا مُوسَى الْكِتَابِ اور جب دی ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب۔ توراہ، جس کا تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بہت بلند مقام ہے اور بڑی جامع کتاب ہے۔

وَالْفُرْقَانَ اور معجزے دیئے جن کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا تھا۔ بہت سارے معجزے تھے ان میں سے ایک وہ عصا مبارک بھی تھا کہ جب اس کو پھینکتے تھے تو وہ اژدھا بن جاتا تھا اور مقابلے میں آنے والے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل جاتا تھا۔ پھر جب اس کو ہاتھ لگاتے تھے وہ عصا ہو جاتا تھا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کے ذریعے حق کو ظاہر کیا اور ان کی کارروائی کو باطل کیا۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أِنَّكُمْ
 ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
 فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ
 ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ
 قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى
 اللَّهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمْ
 تُنظَرُونَ ﴿٥٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٥﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ
 الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ
 كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٦﴾ وَإِذْ
 قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا

حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ
 سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَّغْفِرْ لَكُمْ
 خَطِيئَتِكُمْ ۗ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾
 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ
 لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا
 مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

لفظی ترجمہ :

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ااور جب کہا موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے
 يَقَوْمِ اے میری قوم! اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بے شک تم نے ظلم کیا
 اپنی جانوں پر بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بوجہ بنالینے بچھڑے کو معبود فَتُوبُوا
 اِلَىٰ بَارِئِكُمْ پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فَاقْتُلُوا
 اَنْفُسَكُمْ پس قتل کرو تم اپنی جانوں کو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ یہ بہتر ہے
 تمہارے حق میں عِنْدَ بَارِئِكُمْ تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں
 فَتَابَ عَلَيَّكُمْ پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا اِنَّهُ هُوَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اار جب کہا تم نے اے موسیٰ! (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے حَتَّىٰ نَرَىٰ اللّٰهَ جَهْرَةً یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ پس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ بِهٖم زنده کیا مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہارے مرنے کے بعد لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلْوٰ اور نازل کی ہم نے تم پر کھیر اور بئیرے كَلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

وَإِذْ قُلْنَا اار جب کہا ہم نے اَدْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَادخل ہو جاؤ اس بستی میں فَكَلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو تم حِطَّةٌ یعنی ہمارے گناہ گرا دے نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ معاف کر دیں گے ہم تمہاری

خطائیں و سَنَزَيْدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا ۖ پس تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ عذاب آسمان کی طرف سے بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اس لئے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔

رَبِّهِمْ :

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر طور سے توراہ لے کر جب واپس تشریف لائے اور دیکھا کہ قوم نے پچھڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ اور اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراض ہوئے کہ تم نے ان کو اطلاع کیوں نہیں کی اور تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیوں گمراہ ہوئے ہیں۔ جب پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی تو پھر قوم کی طرف متوجہ ہوئے اس کا ذکر ہے۔

پچھڑے کی پوجا، توبہ اور قتل :

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے يَقَوْمِ اے میری قوم! إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں

پر۔ کیونکہ اس کا روائی کا وبال تمہاری جانوں پر پڑے گا بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ جَو
تم نے پھڑے کو معبود بنا کر ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو
تو.....

فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ تُو، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف
فَاقتُلُوا أَنْفُسَكُمْ پس قتل کرو تم اپنی جانوں کو۔ (اس کی مختلف تفاسیر درج ذیل
ہیں).....

①..... اس کی ایک تفسیر تو اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ہر مجرم کو حکم تھا کہ وہ
اپنے آپ کو خود قتل کرے۔

②..... اور دوسری تفسیر یہ نقل کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے پھڑے کی پوجا
نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے پوجا کی اور طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ایک بھائی
نے پوجا کی ہے اور دوسرے نے نہیں کی تو جس نے پوجا نہیں کی وہ اس کو قتل کرے
جس نے پوجا کی ہے۔ اگر باپ نے پوجا کی ہے اور بیٹے نے نہیں کی تو بیٹے کو حکم تھا
کہ باپ کو قتل کر۔ اور اگر بیٹے نے پوجا کی ہے اور باپ نے نہیں کی تو باپ کو حکم تھا کہ
بیٹے کو قتل کر۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا۔

اس زمانے میں مرتد کی توبہ قتل کے بغیر قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو آنحضرت
ﷺ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سہولت دی، نرمی فرمائی کہ مرتد کو تین
دن کی مہلت ہے اگر توبہ کرے تو فیہا چھوڑ دیا جائے گا اگر توبہ نہیں کرتا اور کفر پر مُصر
رہتا ہے تو تین دن کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ فرمایا اس طرح توبہ کرنا.....

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ يَهْتَرُ هَيْ تَمَّارَ عِ قِ حَقِّ مِ فِي عِنْدَ بَارِئِكُمْ تَمَّارَ

پیدا کرنے والے کے ہاں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا کہ انہوں نے گردنیں کٹوا کر اپنی آخرت بنالی۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

بنی اسرائیل کا توراہ پر رد عمل :

آگے ایک اور واقعہ کا بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام توراہ لے کر قوم کے پاس آئے۔ اور بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں کو اکٹھا کیا تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے بڑا مجمع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ ضابطہ حیات عطا کیا ہے قوم نے کہا کہ ہمیں پڑھ کر سنائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری توراہ پڑھ کر ان کو سنا دی۔ تو قوم نے کہا کہ یہ کتاب بہت سخت ہے اور اس کے احکام بہت مشکل ہیں۔ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کو تم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤ اور اس کے بدلے کوئی آسان کتاب لاؤ۔ یا اس میں تراجم کرادو۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شریعت سے آزاد زندگی گزاری ہے۔ اور آزاد زندگی گزارنے والے پر جب کچھ پابندیاں لگتی ہیں تو اس کو خاصی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو۔ ان احکامات پر جب عمل شروع کرو گے تو آسان ہو جائیں گے۔ مشکل اس لئے نظر آ رہے ہیں کہ پہلے تم نے یہ کئے نہیں ہیں۔

اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ جو حضرات نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اور جو بے نماز ہیں ان کے لئے نماز پڑھنا پہاڑ اٹھانے کے برابر ہے۔ کیونکہ انہوں نے کبھی پڑھی نہیں ہے۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر

وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے؟۔

اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ واقعی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ یا آپ خود بنا کر لائے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب فرمائے۔ جو کہ سردار تھے کہ تم میرے ساتھ کوہ طور پر چلو تا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور میں تمہارے سامنے درخواست کروں گا کہ اے پروردگار! میری قوم کہتی ہے کہ یہ کتاب بہت مشکل ہے لہذا اس میں ان کی خواہش کے مطابق ترمیم کر دیں۔

بنی اسرائیل کے نمائندے طور پر :

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر آدمی ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے پروردگار! تو قادرِ مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے مشکل حکم بھی دے سکتا ہے اور آسان حکم بھی دے سکتا ہے۔ میری قوم کا مطالبہ ہے کہ اس کتاب کے بدلے ہمیں کوئی آسان کتاب مل جائے یا اس میں کچھ ترمیم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو۔ لہذا اس پر عمل کرو اور اگر بمقتضائے بشریت تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔

اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ :

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے جو سردار گئے تھے یہ باتیں سننے کے بعد کہنے لگے کہ آواز تو آرہی ہے مگر ہمیں کیا معلوم کہ رب بول رہا ہے یا جن بول رہا ہے یا کوئی فرشتہ بول رہا ہے۔ لہذا ہم تو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جب تک

رب تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ اس کا ذکر ہے فرمایا.....

وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُوسَىٰ أَرِجِبْ كَمَا تَمَّ نَعَىٰ مَوْسَىٰ! (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ
ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے حَتَّىٰ نَرَىٰ اللّٰهَ جَهْرَةً یہاں تک کہ ہم
دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر فَأَخَذْتُمْ الصِّعْقَةَ بِسِوَاكُمْ لِيَا تَمَّ نَعَىٰ مَوْسَىٰ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ ان کی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان
پر بجلی گرا دی۔ ستر کے ستر مارے گئے۔ نویں پارے میں آتا ہے مَوْسَىٰ نے کہا
پروردگار!.....

أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا كَمَا هُمْ يَهْتَكِرُونَ
کی وجہ سے جو کیا ہمارے احمقوں نے، یا اللہ یہ سب تو بے وقوف تھے ان کو تو میں لایا
تھا اپنی تائید کیلئے اب جب میں اکیلا واپس جاؤں گا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟۔
إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ يَا رَبِّ أَرْمَأْسُ هِيَ۔ یا اللہ! تو مارنے پر بھی قادر ہے اور
زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ ستر کے ستر باوجود اس گستاخی کے
زندہ فرمادئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

موت اور پھر زندگی :

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ
مرنے کے بعد لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ لوگ جب واپس آئے
قوم کے پاس تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عمل ہو سکے تو کر لینا اور نہ ہو سکے
تو نہ کرنا میں معاف کر دوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ اگر بتقاضائے
بشریت کوئی غلطی ہوئی تو میں معاف کر دوں گا۔

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ كَاذِرَاتٍ هـ۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے تھے وہ اس طرح بدلتے تھے مگر ان کی تمام تر گستاخیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا۔ آگے ان انعامات کا ذکر ہے، فرمایا.....

بادلوں کا سایہ :

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ بنی اسرائیل جب بحر قلزم عبور کر کے وادی تہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل! تم قابض قوم عمالقہ جو عملیق نامی ایک شخص کی نسل سے تھے بڑے قد آور موٹے تازے صحت مند اور جنگجو تھے ان سے جہاد کرو تا کہ شام اور فلسطین کی زمین تمہارے قبضے میں دے دی جائے۔ بڑا طویل قصہ ہے چھٹے پارے میں اس کی تفصیل آئے گی ان لوگوں نے موسیٰ ﷺ سے کہا.....

انکارِ جہاد اور اس کا انجام :

إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ بے شک اس سرزمین میں ایک زبردست، جبار قوم ہے وَإِنَّا لَن نَّذْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں جب تک کہ وہ یہاں سے نکل نہ جائیں فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم (فاتحانہ انداز میں) داخل ہوں گے۔ اور انہوں نے موسیٰ ﷺ کو یہ بھی کہا.....

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ تو جا اور تیرا رب پس تم دونوں جا کے لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چالیس سال تک اس میدان سے نکلنا ان پر حرام کر دیا اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے بوڑھے، بچے،

جوان، مرد، عورتیں سب ان میں شامل تھے۔ اور چالیس سال وہاں رہنا تھا۔
 میدان ایسا تھا کہ اس میں کوئی قابل ذکر سایہ دار درخت نہیں تھا کوئی معمولی
 قسم کا درخت ہو تو ہو۔ اور دھوپ وہاں شدید پڑتی تھی۔ مکان بھی وہاں نہیں بنا سکتے
 تھے اور باہر سے کوئی چیز لا کر سائے کا انتظام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ وہاں سے
 باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہی مدد شامل حال ہوئی۔ اور بادلوں کے
 ذریعے ان کے لئے سائے کا انتظام فرمایا جو نہی سورج چڑھتا سایہ ہو جاتا سورج
 غروب ہوتا سایہ ختم ہو جاتا قوم کے جرم دیکھو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو۔ اسی لئے
 آتا ہے.....

إِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ بے شک میری رحمت ہر شئی پر وسیع ہے۔
 ایک دو دن کی بات نہیں پورے چالیس سال ان پر سایہ رہا۔ وہاں خوراک کی بھی
 ضرورت تھی کیونکہ انسان عالم اسباب میں اس کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ
 نے خوراک کا بھی انتظام کیا۔ اس کا ذکر ہے.....

من وسلویٰ کا نزول :

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوىٰ اور نازل کی ہم نے تم پر کھیر اور

بٹیرے۔ کیسے؟.....

①..... تفسیر کی کتابوں میں اس کی ایک شکل یہ لکھی ہے کہ عین موقع پر ان

کے سامنے ایک رکابی (پلیٹ) میں کھیر اور ایک رکابی (پلیٹ) میں بھنے ہوئے بٹیر
 آجاتے تھے۔ جتنا جی چاہے اتنا کھالیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شیء بعید
 نہیں ہے عموماً کھانے دو طرح کے ہوتے ہیں نمکین اور میٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم

کے کھانوں کا انتظام فرمایا۔

②..... اور بعض مفسرین کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ تیار ہو کے نہیں آتے تھے بلکہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں جن کے پتے چوڑے تھے رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز برستی تھی جس کی تہہ ان پتوں پر جم جاتی تھی یہ تھی وہ کھیر جو ان کو بطور خوراک کے ملتی تھی۔ یہ اعضاء کے لئے بڑی طاقت بخش تھی اس کو اس طرح سمجھو کہ جس طرح پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے تو اس کی تہہ جم جاتی ہے اور بشیر بھی انہیں جھاڑیوں میں ہوتے تھے۔ جن کو یہ آسانی سے پکڑ کر کھاتے تھے۔ اور پانی کا ذکر اگلے رکوع میں آرہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ”من وسلوئی“ نازل کیا اور فرمایا.....

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ كَمَا وَانْ پاكيزه چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی وَلَكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کہ انہوں نے ”من سلوئی“ کے بدلے پیاز، لہسن اور دالیں مانگیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بدلتے ہو عمدہ چیزوں کے بدلے لگھٹیا کہنے لگے ہمیں گھٹیا ہی چاہیے۔

حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی وفات اور جائے مدفن :

آگے بنی اسرائیل کے ایک اور واقعہ کا ذکر ہے اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد پیش آیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین سال پہلے فوت ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ اے پروردگار! مجھے وادی تہ (وادی سینائی) سے

بیت المقدس کی طرف جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میری موت بیت المقدس کے قریب آئے۔ اور میں ان مجرموں میں نہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور یہ بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا جب وہاں پہنچے تو روح قبض کی گئی۔ اور وہیں ان کی قبر بنی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بنی بنایا۔ یہ یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے اور تفسیروں میں مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور پھلی انہی کے پاس تھی جو بھول کر راستے میں چھوڑ گئے تھے۔ وادی تیبہ میں چالیس سال کا عرصہ ختم ہوا، نئی پود (نیوجزیشن) جوان ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعہ ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر بیت المقدس اور اس کو ایلیاء بھی کہتے ہیں۔ پہلے یہ بیت المقدس وادی تیبہ سے کچھ مسافت پر تھا۔ مگر اب ساتھ مل گیا ہے۔ جیسا کہ گوجرانوالہ اور راہوالی تقریباً آپس میں مل ہی گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا ذکر ہے فرمایا.....

بنی اسرائیل کو بستی میں داخل ہونے کے احکام :

وَإِذْ قُلْنَا أورد جب کہا ہم نے اَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَادخل ہو جاؤ اس بستی میں یعنی بیت المقدس بالیلیاء میں فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو کشادہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ پہلے زمانے میں شہر کے ارد گرد ایک دیوار

ہوتی تھی اس کو سُورُ الْبَلَدُ کہتے تھے۔

اس میں مختلف دروازے ہوتے تھے لوگ ان دروازوں کے ذریعے شہر میں داخل ہوتے تھے جس طرح شہر گوجرانوالہ میں بھی مختلف دروازے ہیں، لاہوری، سیالکوٹی، کھیالی، گر جاکھی۔ اسی طرح اس شہر کے بھی دروازے تھے تو اس شہر کا جو اہم مقام تھا فرمایا اس دروازے سے تم داخل ہو جاؤ۔ اور داخل ہوتے وقت تم نے دو کام کرنے ہیں ایک یہ کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ تو نے ہمیں طاقتور قوم پر غلبہ عطا فرمایا ہے اور دوسرا کام.....

وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو تم حِطَّةٌ یعنی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ حِطَّةٌ يَحِطُّ کا معنی ہے گرانہ اور حِطَّةٌ کا مکمل جملہ بنے گا مَسَلْنَا حِطَّةً ہمارا سوال یہ ہے کہ اے پروردگار! ہمارے گناہ معاف فرما دے۔

تَنفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ معاف کر دیں گے ہم تمہاری خطائیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا پس تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی۔

بنی اسرائیل کی حیلہ سازی :

ان کو تو کہا گیا تھا حِطَّةٌ کہنا مگر انہوں نے حِطَّةٌ کی بجائے حِطَّةٌ کہنا شروع کر دیا۔ کہ ہمیں گندم چاہیے۔

اور یہ الفاظ بھی مفسرین نے لکھے ہیں کہ انہوں نے کہا حِطَّةٌ فِي شَعْرَةٍ ہمیں وہ دانے چاہئیں جو خوشوں میں ہوں اور پہلے حکم کی مخالفت اس طرح کی کہ

بجائے سجدہ کرنے کے چوڑا گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ جس طرح چھوٹے بچے گھسیٹیاں کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے قول بھی بدل دیا اور فعل بھی بدل دیا پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا لَيْسَ نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ عذاب آسمان کی طرف سے۔ وہ عذاب طاعون کی شکل میں نازل ہوا تین چار گھنٹوں میں ستر ہزار کے قریب آدمی مر گئے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات نازل کئے مگر انہوں نے نافرمانیاں بہت کیں۔

یہودی ”من حیث القوم“ سب سے زیادہ ذہین :

دنیا میں جتنی قومیں ہیں افراد کے لحاظ سے نہیں بلکہ مِنْ حَيْثُ الْقَوْمِ یہودی سب سے زیادہ ذہین ہیں۔ ہائیڈروجن بم اور کلاشنکوف کے موجد یہی ہیں۔ قوموں کی تباہی کے اسباب انہوں نے ہی پیدا کئے ہیں۔ اور جتنے ذہین ہیں اتنے ہی ضدی ہیں۔ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں اس کے مقابلے میں صحیح بات بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ آنحضرت ﷺ کو يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ضد پر اڑے رہے، قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے عذاب نازل فرمایا۔

بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اس لئے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ
 بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
 عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا
 وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ
 عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
 تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآئِهَا وَفُومِهَا
 وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبِدُّونَ النَّاسَ هُوَ
 أَذْنَىٰ بِاللَّيْلِ هُوَ خَيْرٌ ۗ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ
 مِمَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ
 وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَاءَ وَبِغَضِبِ مِنَ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ
 بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
 النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا

كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧١﴾

لفظی ترجمہ :

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ وَأَوْجَسَ وَقْتُ يَأْتِي بِطَلْبِهَا
 موسى (علیہ السلام) نے اپنی قوم کے لئے فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
 پس کہا ہم نے مار اپنی لاٹھی پتھر پر فَانفَجَرَتْ مِنْهُ ۖ فَمَا يَأْتِي بِطَلْبِهَا
 سے اثنًا عشرًا عَيْنًا بَارَهَ جَسْمًا۔

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ تَحْقِيقَ جَانِ لِيَا هَرُورَهُ نَعْمَ مَشْرَبَهُمْ
 اپنے پینے کی جگہ کو كَلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ كَمَا وَابِعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَرِزْقِ
 سے وَلَا تَفْسُقُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ ۚ وَنَهَىٰ بِطَلْبِهَا فِي مَفْسَدِ
 مچاتے ہوئے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ ۖ وَابِعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَرِزْقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ
 نَصْرِي عَلَيَّ طَعَامٍ وَوَاحِدٍ ۖ هَمَّ هَرُورَهُ نَعْمَ مَشْرَبَهُمْ
 لَنَا رَبِّكَ ۖ فَمَا يَأْتِي بِطَلْبِهَا ۖ فَمَا يَأْتِي بِطَلْبِهَا ۖ فَمَا يَأْتِي بِطَلْبِهَا
 ہمارے لئے مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ۖ اس چیز سے جواگاتی ہے زمین مِنْ
 بِقُلُوبِهَا ۖ فَمَا يَأْتِي بِطَلْبِهَا ۖ فَمَا يَأْتِي بِطَلْبِهَا ۖ فَمَا يَأْتِي بِطَلْبِهَا
 وَفُؤْمِهَا ۖ فَمَا يَأْتِي بِطَلْبِهَا ۖ فَمَا يَأْتِي بِطَلْبِهَا ۖ فَمَا يَأْتِي بِطَلْبِهَا
 وَبَصَلِهَا ۖ فَمَا يَأْتِي بِطَلْبِهَا ۖ فَمَا يَأْتِي بِطَلْبِهَا ۖ فَمَا يَأْتِي بِطَلْبِهَا

قَالَ اتَّسَبِدْلُونَ فرمایا کیا تم بدلے میں لیتے ہو الَّذِي هُوَ اَذْنِي
 اس چیز کو جو گھٹیا ہے بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے
 اِهْبَطُوا مِصْرًا اتر جاؤ کسی شہر میں فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ پس بے شک
 تمہارے لئے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ
 وَالْمَسْكَنَةُ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی وَ بَاءٌ وَ بَغْضَبٍ
 مِّنَ اللَّهِ اور لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بے شک گَانُوا يَكْفُرُونَ
 بآیتِ اللہ تھے انکار کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ اور
 قتل کرتے تھے پیغمبروں کو بِغَيْرِ الْحَقِّ ناحق ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا یہ اس
 لئے انہوں نے نافرمانی کی وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے آگے نکل
 جاتے تھے۔

رَبِّكَ :

اس سے پہلے رکوع میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ ﷺ جب اپنی
 قوم کو لے کر وادی تیار میں پہنچے جس کو آج کل کے جغرافیہ میں وادی سینائی کہتے ہیں
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کرو۔ جو اس وقت شام،
 کنعان، فلسطین میں آباد تھی۔ اس زمانے میں شام، کنعان، فلسطین ایک علاقہ تھا اور
 لبنان، اردن اس میں شامل تھے۔ اور اس علاقے کو شام بھی کہتے تھے۔ کنعان بھی
 اور فلسطین بھی کہتے تھے اور وادی تیار وغیرہ سب اس میں شامل تھے۔

عربوں کے خلاف فرنگی سازش :

خبیث انگریز نے ۱۹۱۷ء میں اپنے مفاد کی خاطر اس علاقے کو مختلف ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ اور مسلمان حکمرانوں کے ایک دوسرے کے خلاف ایسے ذہن بنا دیئے کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شام اسرائیل کے ساتھ تو مل سکتا ہے مگر مصر وغیرہ کے ساتھ نہیں۔ لبنان کا بھی یہی حال ہے کہ یہود کے ساتھ تو مل سکتا ہے مگر شام کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے۔ سعودیہ امریکہ کے ساتھ تو مل سکتا ہے مگر عراق کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تمام خباثیں انگریز اور اس کے بین الاقوامی حواریوں کی ہیں۔

بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جہاد کا حکم سنایا تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر چالیس سال کے لئے اس میدان سے نکلنا حرام کر دیا اور بنی اسرائیلی خاصی تعداد میں تھے ان کے لئے سائے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا کیونکہ جاندار مخلوق اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بلکہ پانی کے بغیر تو نباتات بھی نہیں رہ سکتیں۔ تو پہلے سائے اور کھانے کے انتظام کا ذکر تھا اب اس آیت کریمہ میں پانی کا ذکر ہے۔ فرمایا.....

پانی کے چشمے :

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے۔ سَقَىٰ کے معنی ہیں پانی اسْتَسْقَىٰ باب استفعال ہے اس کی خاصیت ہے ”طلب ماخذ“ یعنی اس میں مصدر کے طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔

تو وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ مِائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ لِيُشْرِيَ بِنُحُوتِهَا فَتَذَكَّرَ أَن يَحْمِلُ حِمْلَهُ فَأَذْرَأَهُ لِقَوْمِهِ إِذْ يُؤْتِي السَّمَاءَ دُخَانًا مُّطْمَئِنًّا فَقَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي أَنذَرْتُكُمْ قَوْمًا يَمُوتُونَ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَالسَّيْلَ طُوفًا فَجَاءَهُم بِغِيَابٍ مِّمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَأَنزَلْنَا لَهُمُ الْغَمَامَ وَالسَّيْلَ لِيَذُكَّرُوا عَنِ آلِ عَادَ فَوَاقَا سَيْلَهُمْ فَصَلَ آلُ عَادَ فِي ذَلِكَ يَوْمٍ بَيْنَ يَدَيْ سَيْلِهِمْ فَأَجْرَدَ آلُ عَادَ أَيَّامًا قَلِيلًا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ أَخْرَجَهُ مِن بَيْنِ يَدَيْ آلِ فِرْعَوْنَ وَكَرَّمَهَا أَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَرًّا بِمَنْ كَفَرَ وَلَكِن يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَطَبَخُوا لِقَوْمِهِمْ إِبْرِيمًا لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
لاٹھی پتھر پر۔ اب سوال یہ ہے کہ جس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی وہ کوئی خاص پتھر تھا یا عام پتھر تھا۔ دونوں باتیں تفسیروں میں منقول ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں.....

- (۱)..... یہ عام پتھر تھا جو وہیں پڑا ہوا تھا اس پر لاٹھی ماری۔
- (۲)..... یہ کہ عام پتھر نہیں تھا بلکہ وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔

وہ قصہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ.....

موسیٰ علیہ السلام کا تنہا غسل اور پتھر کا کپڑوں سمیت بھاگ جانا :

”موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرتے تھے کہ ان پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اور دوسرے لوگ اکٹھے نہاتے تھے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام علیحدگی میں نہاتے ہیں۔ لگتا ہے ان کے بدن میں کوئی بیماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ الحمد للہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ”اُذْرَه“ کی بیماری ہے۔ یعنی ان کے خصیتیں پھولے ہوئے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ بری بات بڑی جلدی مشہور ہو جاتی ہے تو عام لوگ یہ باتیں کرنے لگ گئے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفائی منظور ہوئی۔

ایک دن موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کر تنہائی میں غسل کرنے لگے۔ فارغ ہو کر جب کپڑوں کی طرف آئے تو پتھر جس پر کپڑے رکھے تھے بھاگ پڑا۔ پتھر آگے، آگے اور موسیٰ علیہ السلام ثُوْبِي حَجْرٌ کی آواز لگاتے ہوئے پتھر کے پیچھے پیچھے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے۔ مگر پتھر کو تو رب تعالیٰ کا حکم تھا وہ وہاں جا کر رکا جہاں لوگوں کا مجمع تھا سب نے موسیٰ علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بدن میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔“

بہر حال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر اپنی لاشی مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاشی ماری.....

فَاَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اِثْنَا عَشْرَةَ عَيْنًا پس پھوٹ پڑے اس سے بارہ چشمے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے بارہ خاندان تھے اور ان کی آپس میں نوک جھونک ہوتی رہتی تھی اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ گھر میں چند افراد ہوتے ہیں ان میں بھی بات ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو بارہ خاندان تھے اور تھے بھی سخت مزاج۔ تو ان میں جھگڑے کا ہو جانا قدرتی امر تھا تو انتظامی امور کی وجہ سے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کیا تھا۔ لہذا ہر ایک کے لئے الگ چشمہ جاری کیا گیا۔ کہ مثلاً یہ یوسفیوں کا ہے، یہ روبیلیوں کا ہے، یہ بن لادویوں کا ہے یہ بن یامینیوں کا ہے۔ تاکہ آپس میں لڑیں نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کُلُّوْا وَاَشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ مَنْ سَلُوْا كِهَادٍ اور پانی پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے وَلَا تَعْشَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ اور نہ پھروز میں

کھجوریں ملا کر کھائیں۔ تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے۔

”فُوم“ کی تحقیق :

وَفُومِهَا اور اپنے لہسن یعنی تھوم سے۔ ”فُوم“ گندم کو بھی کہتے ہیں اور لہسن کو بھی۔ ”فوم“ کے دونوں معنی ہیں۔ تو کہا کہ ہمارے لئے لہسن پیدا فرما۔ پہلے حکیم بھی کہتے تھے اور آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ تھوم ”لہسن“ دل کی بیماریوں کے لئے بہت مفید ہے۔ حکیم تھوم کا سیرابنا کر دل کی بیماریوں کے لئے استعمال کراتے تھے۔ تھوم کچا بھی کھایا جاتا ہے اور پکا کر بھی۔ لیکن کچا تھوم کھا کر فوراً مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح کچی مولیٰ اور دیگر بو والی چیزیں کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔

آنحضرت ﷺ کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ اس کے ساتھ سلاد بھی۔ آج کل کی طرح پہلے بھی کھانے کے ساتھ سلاد رکھتے تھے۔ سلاد میں تھوم تھا۔ آپ ﷺ نے سلاد نہ کھایا۔ دوسرے حضرات نے بھی نہ کھایا۔ (ثوم عربی میں تھوم کو کہتے ہیں) آپ ﷺ سے پوچھا گیا حضرت! کیا تھوم حرام ہے۔ فرمایا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ حضرت پھر آپ نے کھایا کیوں نہیں؟۔

فرمایا میں نے اس لئے نہیں کھایا کہ اس سے بو آتی ہے اِنْسِيْ اُنَا جِيْ مَنْ لَا تَنَاجُوْنَ میں ان (فرشتوں) کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں جن کے ساتھ تم ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ البتہ فرشتے جب جان نکالنے کے لئے آتے ہیں تو اس وقت ہر آدمی سے جس کی جان نکالتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں۔ نیک آدمی کو کہتے ہیں اُخْرُجِيْ طَيِّبَةً اے پاکیزہ روح! نکل آ۔ وہ آسانی سے نکل آتی ہے۔ اور برے سے کہتے ہیں يَاْ أَيُّهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ اے ناپاک روح! جلدی نکل رب تجھ سے ناراض

ہے۔ اب تیری مرمت ہوگی۔

تو بہر حال تھوم سے چونکہ بو آتی ہے اس لئے آپ ﷺ نے نہ کھایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسَاجِدَنَا جس نے تھوم کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ کیونکہ عام جگہوں کی نسبت مسجد میں فرشتے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں کو پیاز، تھوم اور مولیٰ وغیرہ کی بو سے سخت نفرت آتی ہے۔ اور اس سے سگریٹ اور حقے کی بو کا اندازہ خود لگا لو جو کافی دور سے آجاتی ہے کہ وہ پی کر مسجد میں آنا کیسا ہے؟۔

حقہ پینے کی وجہ سے حضور ﷺ کا خواب میں پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا :

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نیک آدمی تھا اس کو بخیر کی بیماری لگ گئی معدے میں گیس پیدا ہو جاتا تھا۔ حکیم کے پاس گیا اس نے کہا کہ تم حقہ پیا کرو۔ اس نے حقہ پینا شروع کر دیا۔ آنحضرت ﷺ خواب میں تشریف لائے اور اس بزرگ کی پیٹھ کے پیچھے تشریف فرما ہوئے۔ وہ جب آپ ﷺ کی طرف منہ کرتا آپ ﷺ پیٹھ کے پیچھے ہو جاتے۔ بڑا پریشان ہوا۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے صبح کو ان کے پاس گیا اور اپنا خواب سنایا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تو حقہ پیتا ہوگا؟۔ کہنے لگا جی ہاں! حقہ تو پیتا ہوں۔ فرمایا آنحضرت ﷺ کو حقے سے نفرت ہے۔ اس لئے سامنے نہیں بیٹھے۔

”عَدَسٌ“ کی تحقیق :

وَعَدَسِهَا اور اپنے مسور سے۔ عَدَسٌ کا لفظ اصل تو مسور کی دال پر بولا

جاتا ہے مگر آج کل تمام کے تمام عربی ہر قسم کی دال کو عَدَسُ کہتے ہیں۔ چاہے پنے کی ہو یا مونگ، ماش کی۔

وَبَصَلِهَا اور اپنے پیاز سے۔ یعنی ہمیں پیاز چاہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سارے آرائیں اکٹھے تھے۔

ناقدری کی سزا :

قَالَ اتَّسَبِدُونَ فرمایا کیا تم بدلے میں لیتے ہو الَّذِي هُوَ اَذْنِي اس چیز کو جو گھٹیا ہے بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے۔ کہاں کھیر اور بٹیر اور کہاں لہسن، پیاز اور دال اور پھر وہ بغیر مشقت کے اور یہ چیزیں تمہیں خود بیجی پڑیں گی۔ اور نکالنی پڑیں گی۔ ہاں اگر تم لینا ہی چاہتے ہو تو.....

اِهْبِطُوا مِصْرًا اتر جاؤ کسی شہر میں۔ وادی تہ چونکہ بلندی پر تھی اور باقی شہر نیچے تھے۔ اس لئے فرمایا کہ اتر جاؤ کسی شہر میں وہاں سے ان چیزوں کے بیج لاؤ اور کاشت کرو اور جس دن تم نے بیج ہاتھ میں پکڑا تمہارا آسمانی راشن بند ہو جائے گا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”قنسرین“ نامی شہر ان کے قریب تھا۔ وہاں سے جا کر یہ تمام چیزوں کے بیج لائے۔ فرمایا.....

فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ پس بے شک تمہارے لئے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی۔ پہلے من سلوی کھاتے تھے اب جاؤ گرد و غبار کھاؤ۔

اَوْبَاءٌ وَبِغْضٍ مِّنَ اللَّهِ اور لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر۔ اپنا نقصان بھی کیا اور رب تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لی۔ یہ غضب کیوں ہوا؟۔

فرمایا.....

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ يٰۤاَسْرٰٓءَٓلَ كُنٰنِ
شک تھے انکار کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے انکار کر
دیتے اللہ تعالیٰ کے دو جلیل القدر پیغمبر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کے پاس آئے مگر
انہوں نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ اگرچہ ماننے والے بھی تھے مگر اکثر نافرمان
تھے۔ اور حکم اکثریت پر لگتا ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے لِلاَ كَثْرِ حُكْمِ الْكُلِّ
اکثریت پر کل کا حکم ہوتا ہے۔

بنی اسرائیل کے ہاتھ سے قتل انبیاء :

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَغِيْرِ الْحَقِّۙ اُوْرَقِل كرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ اسی
مضمون کی آیت تیسرے پارے میں آتی ہے وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَغِيْرِ حَقِّ وَّ
يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِۙ مِّنَ النَّاسِۙ اوروہ قتل کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کو
ناحق اور ان کو بھی قتل کرتے تھے جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔

اس آیت کی تشریح میں مفسرین کرام علیہم السلام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی
روایت نقل کرتے ہیں کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علاقے میں مختلف قومیں
آباد تھیں۔ جن کی تعداد تینتالیس تھی۔ اور ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے الگ الگ
پیغمبر بھیجا تھا۔ ان قوموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ پیغمبر ہمیں ہر وقت تنگ کرتے
رہتے ہیں لہذا ان پیغمبروں کا صفایا کر دینا چاہیے۔

چنانچہ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً گیارہ بجے تک انہوں نے تینتالیس
پیغمبر اور ایک سوستران کے صحابیوں اور حواریوں کو شہید کیا۔ یہ تو صرف ایک دن کی

کارروائی تھی ان کے علاوہ حضرت سحی علیہ السلام کو شہید کیا۔ حضرت شعبا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا۔

حضرت سحی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ :

حضرت سحی علیہ السلام کو اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ اس علاقہ کا جو حاکم تھا اس کی ایک بھانجی تھی بڑی خوبصورت اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا۔ باوجودیکہ اس کے نکاح میں اور عورتیں اور لونڈیاں بھی تھیں۔ اور بھانجی کے ساتھ نکاح ان کی شریعت میں بھی ناجائز تھا۔

اس بات کا جب حضرت سحی علیہ السلام کو علم ہوا تو اپنا فریضہ ادا کرنے کے لئے اس کے پاس گئے۔ اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تجھے مسئلہ بتانے کے لئے آیا ہوں۔ تاکہ اتمامِ حجت ہو جائے۔ وہ یہ کہ بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ پیرے پاس اور عورتوں کے علاوہ لونڈیاں بھی ہیں۔ اور تو بادشاہ ہے ان کے علاوہ اور عورتوں کے ساتھ بھی جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے۔

لہذا یہ ناجائز کام نہ کر۔ وہ کہنے لگا کہ بادشاہی تیری ہے یا میری؟ فرمایا ظاہر بات ہے کہ بادشاہی تو تیری ہی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا حکم سنانا میرا فریضہ ہے۔ میں تو اپنا فرض ادا کرنے کے لئے آیا ہوں۔ کہنے لگا یہ کون ہوتا ہے میری مجلس میں آ کر مجھے یہ کہنے والا کہ تو اس طرح کر اور اس طرح نہ کر۔ ظالم نے حضرت سحی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ قتل ناحق تھا۔ اور قتل حق کی تین صورتیں ہیں.....

قتل حق کی تین صورتیں :

(۱)..... یہ کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے دین سے پھر جائے تو اس کو تین دن کی

مہلت دے دی جائے گی کہ توبہ کر لے اگر اس نے تین دن تک توبہ نہ کی تو اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں ان کے مرتد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(۲)..... دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا جس کو انگریزی تعلیم یافتہ ظالم حکمران وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل ہیں۔

آنحضرت ﷺ کا فرمان مبارک ہے إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِيُمْلِي الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ بَشَرٌ شَكَ اللَّهُ تَعَالَى ظالِم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو حرکت نہیں کرنے دیتا۔ اب یہ کہنے والے ظالم حکمران تڑپ رہے ہیں۔ او ظالمو! اپنے دور میں جو تم نے ظلم کئے تھے وہ تو یاد کرو۔

(۳)..... تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے اور اس کو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے۔

اسلام میں ان تین صورتوں کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پیغمبروں کے متعلق ان تینوں باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ان ظالموں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ فرمایا.....

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس لئے کہ انہوں نے نافرمانی کی

اور وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جاتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دیں۔ جن کا ذکر آگے آئے گا۔
(ان شاء اللہ تعالیٰ)۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى
 وَالصَّبِيَّانَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ
 صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ^ح
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٣﴾ وَإِذْ
 أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
 خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٤﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ
 ذَلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
 لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ
 الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا
 لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٢٦﴾ فَجَعَلْنَاهَا
 نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
 وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

لفظی ترجمہ :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بَشَكَّ وَهَ لَوْ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يَعْلَمُونَ
أَنَّهُمْ قُلُوبُهُمْ غَائِبَةٌ عَنِ رَبِّهِمْ لَنُبَايِعَنَّكُمْ
وَأَن تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمْرًا يُنَزَّلُ
عَلَيْكُمْ لَمَّا نُنزِلُ إِلَيْكُمْ مِنَّا سُلُوكًا مِّنَ
السَّمَاءِ فَتُكْفَرُ بِهِ فَاعْتَدِ لِلْكَافِرِينَ
الْعَذَابَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِي حَرْبِ يَوْمِ
تَبُوكَ وَمَا كُنْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَأَن يَكْفُرُوا
بِهِمْ لَنَنْزِلَنَّ إِلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ
سُلُوكًا مِّنَ الْغَاقِقِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ

وَاذْأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَأَرْسَلْنَا
مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْقَضْنَا بَيْعَتَكُمْ
فَلَنَنْزِلَنَّ إِلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ
سُلُوكًا مِّنَ الْغَاقِقِ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ

تَمَّ تَسْوَلْتُمْ بِحَرْبِكُمْ لَكُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ
ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے فِي السَّبْتِ ہفتے کے دن
فَقُلْنَا لَهُمْ پس کہا ہم نے ان کو كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہو جاؤ بندر
ذلیل۔

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا پس بنایا ہم نے اس واقعہ کو عبرت لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهَا ان لوگوں کے لئے جو اس سے پہلے تھے وَمَا خَلْفَهَا اور جو پیچھے
آنے والے ہیں وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحت پر ہیزگاروں کے
لئے۔

و پت :

اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے
تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا مگر انہوں نے بے قدری کی آگے
وہ فرقتے جو حضور ﷺ کے زمانے میں تھے ان میں سے بعض کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں.....

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بَشَكٍ وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مشرکین عرب
اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے اپنے آپ کو مؤمن کہتے تھے کہ ہم ابراہیم ہی ہیں
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مؤمن تھے۔ لہذا ہم بھی مؤمن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
مؤمن ہونے میں تو شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے مگر ان کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ تھا۔

یہودی کی وجہ تسمیہ :

وَالَّذِينَ هَادُوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟۔ مفسرین کرام رضی اللہ عنہم نے اس سلسلے میں مختلف باتیں بیان کی ہیں.....

①..... ایک یہ کہ هَادٍ، يَهُودٌ کے معنی ہیں رجوع کرنا تو وہ لوگ جو پھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے قتل کر دیئے گئے وہ تو قتل ہو گئے جو بچ گئے انہوں نے کہا تھا اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ اے پروردگار! ہم نے تیری طرف رجوع کیا چونکہ ان کے بڑوں نے ”ہودا“ کا لفظ بولا تھا اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔

②..... دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت یعقوب عليه السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا تو اس کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔

③..... علامہ خازن رضی اللہ عنہ نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ یہ لوگ جب توراہ پڑھتے تھے تو حرکت کرتے تھے جس طرح قرآن کریم حفظ کرنے والے بچے آگے پیچھے ملتے اور حرکت کرتے ہیں۔ اور تَهَوَّدَ کا معنی حرکت کرنا بھی آتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ کہ وہ لوگ جو توراہ پڑھتے وقت حرکت کرتے ہیں، جھومتے ہیں۔

وَالنَّصْرَانِي اور جو نصرانی ہیں.....

نصرانی کی وجہ تسمیہ :

①..... نصرانی، نصران کی جمع ہے اور حضرت عیسیٰ عليه السلام جس محلے میں

پیدا ہوئے تھے اس کا نام تھا ”ناصرہ“ اس کی طرف نسبت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو ناصرہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے عیسیٰ (علیہ السلام) ناصرہ نے کہا۔ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور مدنی اس وجہ سے کہ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہے اور دس سال وہاں گزارنے کے بعد وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مدفون ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو محملہ ناصرہ کی طرف نسبت کی وجہ سے ناصرہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے ماننے والوں کو ”نصرانی“ کہا جاتا ہے۔

② اور نصاریٰ کہنے کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ پر چلنے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے میں بیان کرتا ہوں اور لوگ مجھے تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ كُونِ مِيرِي مِدْكَرِي كَا؟۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے۔ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے کہا ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے تمہاری مدد کرنے والے۔ نصرت کے معنی مدد کرنا ہے۔ چونکہ انصار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس وجہ سے ان کو نصاریٰ کہا جاتا ہے۔

”صابئین“ کا گروہ :

وَالصَّبَائِينَ اور جو صابی ہیں۔ ”صبا“ کا لفظی معنی ہے ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھر جانا۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ”صابی“ کہتے تھے۔ جس طرح آج کل حق والوں کو لوگ ”وہابی“ کہتے ہیں۔ کہ یہ لوگ آبائی دین سے پھر کر دوسرے دین کی طرف چلے گئے

ہیں۔ حالانکہ یہ صرف ان کا وہم تھا پیغمبر تو پیدائشی طور پر موحد ہوتا ہے۔ اور شرک کے قریب تک نہیں جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو تبلیغ کا حکم اس وقت ہوتا ہے۔ جب ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔

آنحضرت ﷺ کو چالیس سال کی عمر میں تاج نبوة پہنایا گیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے تبلیغ شروع کی مگر وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پہلے ہمارے ساتھ تھے اور اب پھر گئے ہیں۔ تو یہ ”صابی“ کون لوگ تھے تفسیروں میں ان کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے ان میں سے ایک وجہ یہاں لکھی جاتی ہے.....

①..... ”صابی“ ایک فرقہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور زبور پر ایمان رکھتے تھے نماز روزے کے قائل تھے اور قیامت کو بھی مانتے تھے اور بھی دین کی بہت ساری صحیح باتوں کو مانتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ یعنی شرک کی بیماری ان کو لگ گئی تھی۔ جس طرح عرب صدیوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سچے دین پر چلتے رہے۔ مگر بعد میں شرک میں مبتلاء ہو گئے۔

عرب میں شرک کی ابتدا :

پہلا بد بخت انسان جس نے عرب میں شرک پھیلا یا وہ ”عمر بن لحي بن قمعہ“ تھا۔ اس سے قبل سارے لوگ موحد ہوتے تھے۔ اور یہ شخص اخلاق میں اتنا گرا ہوا تھا کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران کسی کے کندھے پر عمدہ چادر دیکھتا تو کنڈی کے ذریعہ وہ اٹھا لیتا تھا جس طرح مچھلی پکڑنے کی کنڈی ہوتی ہے اس طرح اس نے کنڈی بنائی ہوئی تھی۔ اور کسی لکڑی کے

ساتھ جوڑی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے شوق میں طواف کرتے اور یہ آرام سے چادر اڑا لیتا تھا اور اپنے پیچھے ایک تھیلا رکھا ہوا تھا اس میں ڈال لیتا تھا۔

اس وقت منع کرنے والے آدمی تو بہت کم ہوتے تھے۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو معذرت کر لیتا کہ اتفاقاً کنڈی اڑ گئی ہے جو اتنا اخلاق سے گرا ہوا اور فاجر ہو کہ طواف کرتے وقت لوگوں کے کپڑے اتار لے اس پر اعتماد کرنے کا کیا معنی ہے؟۔ اور اس کے ایجاد کردہ دین کو کیا اختیار کرنا ہے۔ مگر لوگ تو انتہائی بد کردار کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں۔ اور وہ اس چیز کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اگر جھوٹے ہوتے تو اتنے لوگ ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟۔

جیسا کہ گوجرانوالہ میں ایک آدمی نے ”مہدی“ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے متعلق اخبارات میں بھی آیا تھا کچھ بے وقوف لوگ اس کے ارد گرد بھی جمع ہو گئے تو کیا یہ اس کے ”مہدی“ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کپڑے پہن کر بازار سے گزرو تو آپ کے آس پاس لوگ جمع نہیں ہوں گے اور اگر کپڑے اتار دو تو کتنا بڑا مجمع تمہارے ارد گرد جمع ہو جائے گا۔ اور نعرے مفت میں لگیں گے۔

تو ”صابیوں“ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے زبور پر ایمان رکھتے تھے، نماز روزے کے قائل تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان فرقوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

ایمان باللہ کی جامعیت :

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جَوْشَخْصٍ بِيْمَانِ لَا يَلِيَا اللّٰهَ تَعَالٰى پُرَاوْرَا اٰخِرَتِ
کے دن پر۔ رب تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے کہ اس کے پیغمبروں پر ایمان

لائے۔ اس کی کتابوں کو بھی مانے، فرشتوں کا قائل ہو۔ قیامت کو مانے، جنت، دوزخ کا قائل ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں مگر پیغمبروں اور کتابوں اور فرشتوں کا قائل نہیں ہوں۔ جنت دوزخ کو نہیں مانتا، حشر نثر کا قائل نہیں ہوں۔

تو یہ تو رب تعالیٰ کو ماننے والا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کا ماننا تو یہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے اس کو بھی مانے اور آخرت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو مانتے ہیں کہ وہ آنے والی ہے اور صرف بات ہی کافی نہیں ہے کہ ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر بلکہ.....

وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس نے عمل کیا اچھا۔ یعنی ایمان کے ساتھ، ساتھ اعمال بھی اچھے کرے۔ کیونکہ اچھے برے عمل کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کا دیکھنے والوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور لوگ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ آدمی خود محسوس کرے یا نہ کرے؟ خصوصاً وہ حضرات جو وعظ و تبلیغ کرتے ہیں حق بیان کرتے ہیں ان کو خاص خیال کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایک آدمی دوسروں کو حق بتاتا ہے، نیکی کی تبلیغ کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا تو.....

(۱)..... ایک تو اس کا روحانی طور پر اثر کم ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات سے متاثر نہیں ہوتے۔

(۲)..... اور دوسرا یہ کہ لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ لہذا ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ خصوصاً ”داعی الی اللہ“ جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ

پہلے وہ اپنی اصلاح کرے۔

ٹی، وی دیکھنے کے بارے میں سوال :

ایک جگہ کسی نے سوال کیا کہ ہمارے امام صاحب ٹی، وی دیکھتے ہیں اور گفتگو میں فحش گوئی سے بھی کام لیتے ہیں ایسے آدمی کی امامت کا کیا حکم ہے؟۔

جواب :

میں نے کہا ٹی، وی دیکھنے والے کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے اور فحش گوئی کرنے والے کے پیچھے بھی نماز مکروہ ہے۔ اور اگر ایسا آدمی سچے دل سے توبہ کرے تو اس کا گناہ بھی مٹ جائے گا اور کراہت بھی ختم ہو جائے گی ہر آدمی کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ خصوصاً درس دینے والوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ میں سنا سنا کے بوڑھا ہو گیا ہوں اور تم سن، سن کے بوڑھے ہو گئے ہو اگر اثر نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا.....

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ پس ان کے لئے اجر ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پہلے بھی بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر تھا آگے بھی انہی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ.....

بنی اسرائیل نے وادی سینائی میں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ پہلے ہم فرعون کے غلام تھے اور اب ہم آزاد قوم ہیں۔ ہمارے لئے کوئی قانون اور دستور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توراہ عطا فرمائی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کے احکام تو بہت مشکل ہیں ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے

عہد لیا اس کا ذکر ہے فرمایا.....

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَأَوْجِبْهُمْ نِيَامًا لَمْ يَلْمِزُوا أَحَدًا وَلَا حَسَبًا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، حکم ہوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے یعنی توراہ قوت کے ساتھ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو جو اس میں ہے اور اس پر عمل بھی کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ رب تعالیٰ کی گرفت سے اور آخرت کے عذاب

سے۔

سوال :

اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے کوئی مانتا ہے، مانے نہیں مانتا نہ مانے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ دین میں زبردستی نہیں ہے اور ان سے جبراً توراہ منوائی جا رہی ہے۔ طور پہاڑ کو اٹھا کوزان کے سروں پر رکھ کر سائبان کی طرح کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن میں ہے.....

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ اور ہم نے پہاڑ اٹھ کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گویا کہ سائبان ہے۔ اس طرح منوانا تو جبر ہے؟۔

جواب :

یہ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ کی مد میں نہیں آتا کیونکہ ان کو جبراً اسلام میں داخل نہیں کیا جا رہا بلکہ وہ اسلام لائے ہیں۔ اور حالت اسلام میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہمیں کتاب دو ہم اس پر عمل کریں گے۔ مگر اس عہد پر وہ قائم نہ

رہے۔ چنانچہ چھٹے پارے میں آتا ہے.....

فِيمَا نَقُضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ بِوَعْدِهِمْ ان کے عہد کو توڑنے کے ہم نے
ان پر لعنت کی چونکہ انہوں نے عہد کو توڑا اس لئے ان کے ساتھ یہ کارروائی کی
گئی۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ.....

مرتد کی سزا :

”کسی کافر کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس کو کہا جائے کہ تو اسلام
قبول کر، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ ہاں اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد
ہو جائے تو اس کو ضابطے کے مطابق قتل کیا جائے گا۔ اور اب اس کو قتل اس لئے کیا
جائے گا کہ اس نے اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عہد کیا
تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اس کو توڑ دیا ہے۔ تو ان پر جبر عہد توڑنے کی
وجہ سے ہوا۔“

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ اس کے بعد کہ توراہ پر تم نے
پورا عمل نہ کیا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ پس اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر
وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ البتہ تم ہو جاتے نقصان
اٹھانے والوں میں سے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت کا دامن
پھیلانے رکھا، تمہیں صحت دی، رزق دیا، اولاد دی، مال اور دولت سے نوازا۔

بنی اسرائیل پر ہفتے والے دن شکار پر پابندی :

آگے بنی اسرائیل کے ایک اور واقعہ کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا
بحر قلزم کے کنارے ”ایلیہ“ نامی ایک شہر آباد تھا جس کو آج کل ”ایلات“ کہتے ہیں۔

اور یہودیوں کی بندرگاہ ہے بحر قلزم میں مچھلیاں بہت تھیں۔ اور ان کا پیشہ مچھلیوں کی تجارت تھا۔ مچھلیاں پکڑ کر کھاتے بھی اور درواز تک سپلائی بھی کرتے۔ ان پر ہفتے والے دن شکار کھینے پر پابندی تھی کہ باقی چھ دن مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں اور ہفتے والے دن کے چوبیس گھنٹے۔۔۔ اس طرح سمجھو کہ جمعہ والے دن غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک مچھلیاں پکڑنی جائز نہیں تھیں۔۔۔ اسلامی تاریخ غروب آفتاب کے ساتھ بدلتی ہے اور انگریزی تاریخ رات بارہ بج کر ایک منٹ پر بدلتی ہے۔

بہر حال ان پر ہفتے والے دن شکار کرنے پر پابندی تھی جس طرح ہمارے لئے جمعہ والے دن پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک پابندی ہے کہ اس دوران ہر وہ کام جس کا تعلق نماز جمعہ سے نہ ہو حرام ہے جیسے سودا سلف خریدنا، بیچنا، لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا سب حرام ہے۔

سوال :

اب سوال یہ ہے کہ کہیں اذان پہلے ہو جاتی ہے اور کہیں بعد میں ہوتی ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟

جواب :

تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے محلے کی اذان مراد ہوگی۔ جس محلے میں وہ رہتے ہیں اور اس مسجد کی اذان مراد ہوگی جس میں وہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ.....

سوال :

نماز جمعہ کے ساتھ کن کاموں کا تعلق ہے؟۔

جواب :

اس کا جواب یہ ہے کہ اذان کے بعد وضوء کر سکتا ہے غسل کر سکتا ہے، مسواک کر سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، خطیب، امام نہ تو جمعہ کے متعلق عنوان کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ حوالے دیکھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ دیکھنی ہے یا حدیث پاک دیکھنی ہے تو دیکھ سکتا ہے کیونکہ ان سب کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے اور جن چیزوں کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ اذان اول سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک حرام ہیں۔

مگر اچھے بھلے لوگ خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں اور حلال کو حرام کر کے کھاتے ہیں۔ پھر ہمارے لئے تو ڈیڑھ دو گھنٹوں کا وقت ہے اور ان کے لئے چوبیس گھنٹے تھے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا اور کوئی کام جائز نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو گئے۔

شکار کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں تین گروہ :

(۱) ایک گروہ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔

(۲) دوسرا گروہ، وہ تھا جنہوں نے ان کو ایک آدھ مرتبہ منع کیا جب دیکھا

کہ یہ لوگ باز آنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔

(۳) تیسرا گروہ، وہ تھا جو آخر دم تک ان کو تاہی کرنے والوں کو سمجھاتا

رہا۔

پھر جو شکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مزید آزمائش کر دی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہوتی تھیں۔ یہ دیکھ کر برداشت نہیں کرتے تھے اور وہ حیلے بہانے کے ساتھ شکار کھیلتے تھے کہ بحر قلزم سے چھوٹے چھوٹے راجبہ نکالے اور ان کے ذریعہ پانی تالابوں کو لگاتے، جدھر پانی جاتا مچھلیاں بھی ساتھ جاتیں۔ پھر پیچھے سے پانی بند کر دیتے اور پھر پورا ہفتہ پکڑتے رہتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا حلیہ بگاڑ دیا۔

شکلوں کا مسخ ہو جانا :

جب ان سے کہا جاتا کہ یہ کام نہ کرو شریعت کی خلاف ورزی ہے تو کہتے کہ ہم ہفتے والے دن تو شکار نہیں کھیلتے۔ بھائی! شکار کسے کہتے ہیں؟۔ جب ایک چیز کی آزادی ختم ہوگئی تو وہ شکار ہوگئی۔ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں چالاکی کی تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا اور بوڑھوں کو خزیروں کی شکل میں بدل دیا کیونکہ وہ ان کو روکتے نہیں تھے۔ بندر اور خزیر بننے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟۔

یہ تین دن تک زندہ رہے۔ تین دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ جو آج بندر اور خزیر موجود ہیں یہ ان لوگوں کی نسل نہیں ہے۔ یہ مستقل حیوانوں کی نسل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اٰرَابِلْتُمْ تَحْتِيقًا تَمْ جَانْتُمْ هُوَ الَّذِيْنَ اَعْتَدُوْا مِنْكُمْ اِن لُّوْغُوْنَ كُوْجِنٰهٖوْنَ نِي تَجَاوَزْ كِيَا تَمْ مِيْنَ سِي فِي السَّبْتِ هِنْتِي كِي دِن فَقُلْنَا لِهْمُ

صرف نماز پڑھ کر خوش نہ ہوں۔ بلکہ ان کو بچانے کا بھی سوچیں۔ ان کو ضائع نہ کریں۔

اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹی، وی، آئی، سی، آرڈیکھنا حرام ہے اگر کوئی شخص ان کو حرام سمجھتے ہوئے دیکھتا ہے تو گنہگار ہے اور اگر ان کو حلال سمجھ کر دیکھے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا بڑا سخت گناہ ہے۔ مغربی قوموں نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔

حفاظت اعمال :

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں دیکھتے مگر اولاد کے مجبور کرنے پر ان کو لاکر دیا ہے۔ تو اس طرح تم معذور تو نہیں ہو سکتے۔ (حاشا وکلا)۔ کیونکہ تم گھر کے سربراہ ہو اور با اختیار ہو۔ کیوں لاکر دیا ہے؟۔ اکثر جاؤ، انکار کر دو۔ تم نے جب خود لاکر دیا ہے تم گناہ میں شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبانوں اور نگاہوں کی حفاظت فرمائے۔

وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور (یہ واقعہ) نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لئے۔ لیکن ایسے واقعات سے نصیحت اور عبرت وہی حاصل کرتا ہے کہ جس میں انسانیت کا مادہ ہو۔ رب تعالیٰ ہمیں انسان بنائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور خود بھی نماز، روزہ، حج، عمرہ، کلمہ کو بچاؤ اور ٹی، وی دیکھ کر سب کچھ برباد نہ کرو۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
 تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۗ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوعًا ۗ قَالَ
 أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٤﴾ قَالُوا
 ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ
 إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ ۗ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ
 ۗ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
 يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونُهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
 بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٢٦﴾
 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ إِنَّ
 الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۗ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ
 لَمُهْتَدُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا
 ذُلُّوْلٌ تُشِيرُ الْأَرْضَ وَ لَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۗ
 مُسَلَّمَةٌ لِأَشْيَاءَ فِيهَا ۗ قَالُوا لئن جئت بِالْحَقِّ

فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

لفظی ترجمہ :

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ارجب کہا موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِشَكِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ تمہیں حکم دیتا ہے اَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً
 کہ تم ایک گائے ذبح کرو قَالُوا اتَّخِذْنَا هُزُوءًا کہنے لگے کیا بنا تا ہے تو
 ہمیں ٹھٹھہ کیا ہوا قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ فرمایا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی
 اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں سے۔

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ کہنے لگے دعا کر اپنے پروردگار سے ہمارے
 لَئِي يُبَيِّنَ لَنَا مَا هِيَ بیان کرے وہ ہمارے لئے کہ وہ گائے کیسی ہو؟
 قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ فرمایا (موسیٰ علیہ السلام نے) بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِ
 نَّهَا بَقْرَةٌ بے شک وہ گائے لَا فَاْرِضُ وَلَا بِكْرٌ نہ بوڑھی ہو اور نہ
 بِالْكُلِّ نَوْعٍ ہو عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ اس کے درمیان میں ہو فَافْعَلُوا مَا
 تُؤْمَرُونَ پس کرو تم جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ کہنے لگے دعا کر ہمارے لئے اپنے پروردگار
 سے يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا بیان کرے ہمارے لئے اس گائے کا رنگ
 کیا ہے؟ قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ فرمایا بے شک وہ کہتا ہے اِنَّهَا بَقْرَةٌ
 صَفْرَاءُ بے شک وہ گائے ہے زرد رنگ کی فَاقْعُ لَوْنُهَا خالص ہے

رنگ اس کا تَسْرُ النَّظْرَيْنِ خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ کہنے لگے دعا کر ہمارے لئے اپنے پروردگار سے يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ بیان کرے ہمارے لئے کہ وہ گائے کیسی ہے؟ اِنَّ الْبَقْرَةَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا بے شک گائے مشتبہ ہوگئی ہے ہم پر وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اور بے شک ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو لَمُهْتَدُونَ ہدایت پانے والے ہوں گے۔

قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ فرمایا موسیٰ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) نے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَّا ذُلُولٌ بے شک وہ گائے ایسی ہو جو نہ تابع کی ہوئی ہو تُشِيرُ الْاَرْضَ کہ اس نے ہل چلایا ہوزمین میں وَاَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ اور نہ اہل نے پانی پلایا ہو کھیتی کو مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ان چیزوں سے محفوظ ہو اس میں داغ نہ ہو قَالُوا اَلَسْنَا جِنَّتْ بِالْحَقِّ کہنے لگے اب لایا ہے تو حق فَذَبْحُوْهَا پس انہوں نے گائے کو ذبح کیا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ اور وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے۔

وہی :

بنی اسرائیلیوں کی کوتاہیاں ان کے عیب اور ان کے جرائم کا ذکر اوپر چلا

آ رہا ہے۔

بنی اسرائیل میں واقعہ قتل :

یہ واقعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل بروزن قابیل۔ یہ بڑا مالدار آدمی تھا اور ایک روایت کے مطابق تھا بھی لا ولد یعنی بے اولاد تھا۔

ایک تفسیری روایت میں آتا ہے کہ اس کے چچا زاد بھائی بڑے غریب تھے انہوں نے اس کو کہا کہ ہم بھوکے رہتے ہیں اور تیرے بھائی ہیں تیرے پاس اتنا مال ہے اور کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہماری امداد کر لوگ کہتے ہیں اور عمو ماد کیہنے میں بھی ایسا ہی آیا ہے کہ لا ولد آدمی بڑا بخیل ہوتا ہے۔ کہنے لگا مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ کماؤ اور کھاؤ۔

انہوں نے کہا کہ ہم فارغ تو نہیں رہتے۔ مگر ہماری قسمت کہ کبھی کام مل جاتا ہے اور کبھی نہیں ملتا۔ اور جو ملتا ہے اس سے ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتیں اور تیرے پاس اتنی دولت ہے جو شمار میں بھی نہیں آتی۔ اس سے بھاری مدد کر مگر اس نے کوئی بات نہ سنی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے سوا اس کا کوئی اور وارث تو ہے نہیں ہم اس کے چچا زاد ہی وارث ہیں لہذا اس کو راستہ سے ہٹاؤ، اس سے جان چھڑاؤ اور مال پر قبضہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارے چچا زاد کو کسی نے قتل کر دیا ہے اس کی تحقیق کرو۔

اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ان کا چچا تھا۔ اور یہ اس کے بھتیجے تھے۔ بہر حال ان کا خیال تھا کہ موقع کا گواہ تو ہے کوئی نہیں کیونکہ ہمیں قتل کرتے ہوئے کسی نے

گائے ذبح کرو۔

قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی
 اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ کیوں
 محض مسخرہ اور مذاق جاہلوں کا کام ہے۔ ہاں اگر ظرافت کے طور پر ہو اور اس میں
 خلاف واقعہ بھی کوئی بات نہ ہو تو اس کا مسئلہ جدا ہے۔ یعنی ایسا مذاق جائز ہے۔ لیکن اگر
 خلاف واقعہ ہو اور دوسرے کی دل آزادی مقصود ہو تو گناہ ہے۔ بسا اوقات ایسا
 ہوتا ہے کہ ایسا مذاق جھگڑے کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور نوبت قتل تک جا پہنچتی ہے۔ تو
 موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ مذاق کروں۔
 لہذا تم اس گائے کو ذبح کرو اور اس کے بعض حصے کو میت کے بدن پر مارو بس
 وہ زندہ ہو کر تمہیں بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ گائے کا کون سا
 حصہ میت کے ساتھ لگایا گیا.....

☆..... بعض نے کہا ہے کہ ”زبان“ تھی۔

☆..... بعض نے کہا ہے کہ ”دل“ تھا۔

☆..... بعض نے کہا ہے کہ ”جگر“ تھا۔

☆..... اور بعض نے ”دُم“ لکھی ہے۔

بہر حال اس حصے کی تعیین کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ کیونکہ بِسْفِضِهَا
 کے لفظ ہیں۔ چونکہ ان کے دل صاف نہیں تھے کج بخشی میں پڑ گئے۔ ان کا خیال تھا
 کہ اس طرح معاملہ ٹل جائے گا۔

بلا ضرورت سوالات :

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ كَهْنَةَ لَكَ دَعَا كِرَاطِي پُرُورِدْ گَارِ سَ هَمَارِ لَئِ
يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ بِيَانِ كَرِ وَ هَمَارِ لَئِ كِه وَ هِ گَائِ كَيْسِي هُو؟ قَالَا اِنَّهُ
يَقُولُ فَرَمَايَا (مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ) بَ شَكِ اللّٰهُ تَعَالَى فَرَمَاتَا هِيَ اِنَّهَا بَقْرَةٌ بَ
شَكِ وَ هِ گَائِ لِأَفَارِضٍ وَ لَا بَكْرٍ نَه بُوڑ هِي هُو اُو رِنَه بِالْكَلِ نُو عَمْرُ هُو عَوَانُ مَبَيِّنَ
ذَلِكَ اس كِه دَر مِيَانِ مِثْلِ هُو۔

ادھیر عمر کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو
کفایت کر جاتی مگر فَلَمَّا شَدَّدُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ شَدَّدَ اللّٰهُ پَسِ اُنْهُوْنِ لَئِ
جَبِ اِنِّي جَانُوْنِ پَرِ نَحْتِي سَ كَامِ لِيَا تُو اللّٰهُ تَعَالَى لَئِ هِي اِنِ پَرِ سَخْتِ پَا بِنْدِي لَ گَادِي جِي سَا
كِه آگِ آ رِهَا هِيَ۔ حَكْمُ هُو۔

فَاعْمَلُوا مَا تُمَرُونُ پَسِ كَرُو تَمِ جِسْ كَا تَمْهِي سِ حَكْمِ دِيَا جَاتَا هِيَ قَالُوا اذْعُ
لَنَا رَبِّكَ كَهْنَةَ لَكَ دَعَا كِرَاطِي هَمَارِ لَئِ اِنِّي پُرُورِدْ گَارِ سَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا
لَوْنُهَا بِيَانِ كَرِ هَمَارِ لَئِ اس گَائِ كَارِنْگِ كِيَا هِيَ؟ تَا كِه هِم تَعْيِيْنِ كَرِ سِيْسِ قَالَا
اِنَّهُ يَقُولُ فَرَمَايَا بَ شَكِ وَ هِ كِه تَا هِيَ اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ بَ شَكِ وَ هِ گَائِ
هِيَ زَرْدِ رَنْگِ كِي فَانَعُ لَوْنُهَا خَالِصُ هِيَ رَنْگِ اس كَا تَسْرُّ النَّظْرِيْنِ خُوْشِ كَرْتِي
هِيَ وَ هِ گَائِ دِكْهِنِي وَ اَلُوْنِ كُو۔ بَرِي صَحْتِ مَنْدَا وَرِ خُوْبِ صُوْرَتِ هِيَ۔

نظر کا لگ جانا حق ہے :

جس طرح انسانوں میں خوبصورت ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں میں بھی
خوبصورت ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے نظر بھی لگ جاتی ہے نظر کا لگ جانا بھی حق ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ **الْعَيْنُ حَقٌّ** نظر کا لگ جانا حق ہے۔ نظر لگنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب کسی شے کی صحت اور خوبصورتی پر تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ اتنی صحت مند ہے، اتنی خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں۔ کہ اس کا کمال بھی میرے اختیار اور اس کا زوال بھی میرے اختیار میں ہے۔ اس میں بندے کا کوئی دخل اور اختیار نہیں ہے۔ سوائے تعجب کے اظہار کرنے کے۔

حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا دم ہے **مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** اگر کسی کو شبہ ہو کہ میری نظر لگ گئی ہے تو وہ پڑھے اور جس کو نظر لگ گئی ہے پڑھ کر اس کو دم کرے۔ باقی دم میں اثر اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے۔ اور عموماً بغیر محنت اور مشقت کے تعویذات اور دم کا اثر کم ہوتا ہے۔ ہاں آدمی نماز، روزے کا پابند ہو اور تین روزے نفل رکھے مسلسل پھر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دم میں اثر رکھے گا اور دم اس لئے کہ اس کا بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا بھی نیکی ہے۔ مگر کوئی عمل اور تعویذ اور اس کا طریقہ کار شرع کے خلاف نہ ہو۔ بہر حال جب ان کو رنگ بتایا گیا تو.....

قَالُوا اذْغُ لَنَا رَبَّكَ کہنے لگے دعا کر ہمارے لئے اپنے پروردگار سے **يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ** بیان کرے ہمارے لئے کہ وہ گائے کیسی ہے؟ **إِنَّ الْبَقْرَةَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا** بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر۔ کہ زرد رنگ کی بھی گائیں بہت ہیں اور ادھیڑ عمر کی بھی بہت ہیں اور وضاحت فرماویں.....

وَأَنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو

ہدایت پانے والے ہوں گے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ فرمایا موسیٰ (علیہ السلام) نے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَّا ذَلُولٌ بے شک وہ گائے ایسی ہو جو نہ تابع کی ہوئی ہو عمل میں تُشِيرُ الْأَرْضَ کہ اس نے ہل چلایا ہوزمین میں وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ اور نہ اس نے پانی پلایا ہو کھیتی کو۔ یعنی وہ کنویں پر نہ جوتی گئی ہو۔

گائے ذبح کرنے کا حکم :

ان دو لفظوں کی وجہ سے کہ اس نے نہ ہل چلایا ہو اور نہ اس کے ذریعے کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو۔ سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ”بقرة“ کا ترجمہ ”بیل“ سے کرتے ہیں۔ کہ عموماً یہ دونوں کام بیل سے لئے جاتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ ”بقرة“ کا اطلاق گائے، بیل دونوں پر کیا جاتا ہے۔

اور کیمیل پور (موجودہ انک) کے علاقہ میں بعض لوگ گائے کے ذریعہ بھی ہل چلاتے ہیں کہ ان کی تھوڑی تھوڑی زمینیں ہوتی ہیں۔ اور بیل بہت مہنگے ہیں اس لئے وہ لوگ گائے سے دودھ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور ہل بھی چلاتے ہیں اور بعض دفعہ کنویں پر بھی جوت لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ تو اس کے ذریعے ہل چلایا گیا ہو اور نہ کنویں پر جوتی گئی ہو۔

مُسَلَّمَةٌ لِأَشْيَاءَ فِيهَا ان چیزوں سے محفوظ ہو اس میں داغ نہ ہو۔

مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی گائے تلاش کی وہ ایک نوجوان کے پاس تھی۔ جو أَلْبَارُ بِأُمِّهِ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرنے والا تھا۔ اور اس کا باپ فوت ہو گیا تھا کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عموماً گائے بیل کی قیمت تین دینار ہوتی تھی۔ مگر اس نوجوان سے بات کی گئی کہ ہمیں اس گائے کی ضرورت ہے تو اس

نے کہا کہ میرے پاس صرف گائے ہی ہے میں یہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوں جب انہوں نے مجبور کیا تو نو جوان نے کہا کہ اس قیمت پر دیتا ہوں کہ اس کو ذبح کر کے چمڑا تار کر چمڑے میں جتنا سونا آئے مجھے دے دو اور یہ لے لو وہ مجبور تھے انہوں نے گائے لے لی اور اس کا چمڑا سونے سے بھر کر اس کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اخراجات کا انتظام کر دیا اور ان کا بھی کام چل گیا۔

چیز مہنگی بیچنے کا شرعی حکم :

اگر کوئی آدمی اپنی ذاتی چیز کو مہنگا بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے بشرطیکہ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ میرا کمبل ہے اس کی قیمت تو دو سو روپیہ ہے۔ اگر کوئی میرے سے خریدنا چاہے اور میں کہوں کہ دو سو کا نہیں دوں گا اڑھائی سو کا دوں گا اگر لینے والا راضی ہے تو لے، لے یہ جائز ہے۔

ہاں! یہ بات بھی ذہن میں بٹھالیں کہ ایک چیز کی جو قیمت منڈی میں ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ یعنی منڈی کی قیمت سے ملتی جلتی قیمت لیننی چاہیے۔ منڈی کے بھاؤ سے نکلنا بری بات ہے۔ یہ اصول ہے اگر حکومت نے ایک چیز کا بھاؤ مقرر کر دیا ہے۔ تو پھر بات جدا ہے۔ اور اسلامی حکومت کے احکامات سے اعراض کرنا منع ہے۔ آج کل کی حکومتوں کے حکم سے نکلنا اگرچہ حرام تو نہیں مگر قانون کی مخالفت کرنا بری بات ہے۔ اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔

قَالُوا الشَّنَّ جِنْتٌ بِالْحَقِّ کہنے لگے اب لایا تو اے موسیٰ (ﷺ) حق۔ ان کا اپنے پیغمبر کو طرز خطاب دیکھو کیا انہوں نے جو کچھ پہلے فرمایا تھا وہ حق نہیں تھا وہ بھی حق تھا اور اس وقت وہ جو بھی گائے ذبح کر دیتے کفایت ہو جاتی۔

مسئلہ :

آدمی عبادت میں اپنے اوپر تشدد نہ کرے فرض تو رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں ان میں تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور نقلی عبادت آسانی کے ساتھ جتنی ہو سکے اتنی کرے۔ مثلاً نفل ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت ہے اتنی کرے جتنا نفس برداشت کرتا۔ تھوڑی کرے روزانہ یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک دن بہت زیادہ کرے اور دوسرے دن بالکل نہ کرے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْوَمَهَا آنحضرت ﷺ کو وہ عمل زیادہ پسند تھا جو ہمیشہ ہوتا رہے بے شک تھوڑا ہو۔

فَذَبْحُوهَا پس انہوں نے گائے کو ذبح کیا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے۔ کیونکہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے اور قتل ہم پر نہ پڑے۔ چنانچہ گائے کا ایک حصہ جب مقتول کو مارا گیا اس نے اٹھ کر بتا دیا کہ میرے قاتل یہی ہیں۔ تو ان کو قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ اور وراثت سے محروم ہو گئے۔

قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے :

قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی آدمی نے باپ کو قتل کر دیا یا بھائی کو قتل کر دیا تو ان کو وراثت نہیں ملے گی۔ شریعت نے اس صورت میں قاتل کو وراثت

سے محروم رکھا ہے۔ آج کل تم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہو کہ زمین کی وجہ سے باپ کو قتل کر دیا یا بھائی کو قتل کر دیا۔ از روئے شرع یہ ان کے وارث نہیں بن سکتے۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ
 مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٤٢﴾ فَقُلْنَا
 اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۗ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى ۗ
 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ
 قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ
 كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۗ وَإِن مِّن
 الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۗ وَإِن
 مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۗ وَإِن
 مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا
 لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ
 كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا
 عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ

شک بعض پتھروں میں سے لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ البتہ وہ ہیں جن سے پھوٹی ہیں نہریں

وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَّقُّ اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں البتہ جو پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس نکلتا ہے اس پتھر سے پانی وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس کا رروائی سے جو تم کرتے ہو

أَفَتَطْمَعُونَ کیا تم طمع رکھتے ہو أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ اور تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ سنتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ بعد اس کے کہ اس کو انہوں نے سمجھ لیا تھا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی تھے

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے وَإِذَا خَلَا بِعُضُومِهِمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض بعض کے پاس قَالُوا اتَّحَدَّثُوا بَعْضُهُمْ کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے

بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَمَا كُنَّا بِمُعْظِمْ عُظْمٍ يَدْرِيهِمْ فَذَرْنُوهُمْ فِي مَقَالِهِمْ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ تَاكُوهُ جَهْلًا كَرِهْتُمُوهُ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُخْفِيهِمْ عَنْكُمْ وَعَلَّمَ الْغَايِبَ لِقَوْمٍ لَّا يَعْلَمُونَ
 تَعَالَىٰ جَانِتًا ۖ مَا يُرُونَ مَا يُلْفُونَ ۚ جَسَدًا كَانَتْ تَرَاهُمْ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
 تَعَالَىٰ جَانِتًا ۖ مَا يُرُونَ مَا يُلْفُونَ ۚ جَسَدًا كَانَتْ تَرَاهُمْ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
 اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔

رہنما :

گزشتہ رکوع میں آپ نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں کچھ لوگوں کو اپنے عزیز چچا یا چچا زاد بھائی کو قتل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے ہمیں معلوم نہیں کہ کس نے قتل کیا ہے؟۔ لہذا آپ تحقیق کریں کہ قاتل کون ہے؟۔ اور مقصد ان کا یہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے اسی لئے گائے کے متعلق کج بحثی میں پڑ گئے تھے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے.....

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا ۖ وَرَجِعْتُمْ إِلَىٰ آلِهَا ۚ لَقَدْ أَتَيْنَا لَكُمْ فِي هَٰذِهِ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 گناہوں میں سے ایک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.....

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُّؤْمِنٍ سَارِي
 دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں آسان ہے نسبت ایک مومن آدمی کے ناحق قتل ہونے سے جو اللہ اللہ کرتا تھا۔ اب تو قتل کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اور آدمی کسی جگہ

بھی محفوظ نہیں ہے۔ نہ گھر میں نہ سکول میں نہ کالج میں بلکہ ہسپتال میں قتل کر جاتے ہیں۔ اور جوں جوں قیامت قریب آئے گی یہی کچھ ہوگا۔ مسجدوں اور مدرسوں میں قتل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ مسجد سے بڑی امن والی جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور مسجد ایسی جگہ ہے کہ جہاں دشمن سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا۔

نجران کے عیسائی مدینۃ النبی ﷺ میں :

چنانچہ ۹ھ میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ ﷺ کی خدمت میں آیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہم غریب آدمی ہیں ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ساٹھ/۶۰ آدمیوں کو اکٹھا ٹھہرا سکیں۔ مختلف ساتھیوں پر دو، دو تین، تین آدمی تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان کے بڑوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اکٹھے رہیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان تبلیغ کرنے والی قوم ہے کہیں ہمارے ساتھیوں کو ورغلا کر مسلمان نہ بنا ڈالیں۔

لہذا یہ بھٹریں ہمارے ساتھ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا پھر اکٹھے تو مسجد میں رہ سکتے ہیں۔ اور تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ساٹھ آدمیوں کو اکٹھا ٹھہرا سکیں۔ کہنے لگے ہم مسجد میں ہی رہیں گے۔ مگر ہم نے اپنی طرز پر نمازیں بھی پڑھنی ہیں، فرمایا پڑھتے رہو۔

بعض صحابہ آئے جن کو حقیقت حال سے آگاہی نہیں تھی انہوں نے جب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ ان کے افعال پر اعتراض کیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کرنے دو جو کچھ کرتے ہیں۔ ان کا مذہب ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ عیسائیوں نے آنحضرت ﷺ کے

سامنے مسجد نبوی (زَادَ اللهُ تَعَالَى شَرَفًا وَكِرَامَةً) میں اپنے مذہب کے مطابق شمال کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ ﷺ نے کچھ نہیں فرمایا۔ کتنا حوصلہ اور بردبادی ہے مگر آج مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَأُوجِبْتُمْ قَتْلَ كَيْفِيَّةٍ نَفْسٍ كَوْنًا فَادْرَأْ تُمْ فِيهَا
پس اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ ایک نے کہا اس نے قتل کیا ہے دوسرے نے کہا اس نے قتل کیا ہے۔ اس کو عربی میں ”تدارء“ کہتے ہیں وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جس کو تم چھپاتے تھے۔ قاتلوں کا ارادہ تھا کہ قتل ظاہر نہ ہو اور ہم پکڑے نہ جائیں۔

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پس کہا ہم نے مارو اس مردہ کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ۔ یہ کون سا حصہ تھا؟۔ تفسیروں میں زبان، دل، جگر، اور دم کا ذکر بھی آتا ہے۔ بہر حال وہ حصہ ساتھ لگانے کے ساتھ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا جس طرح بٹن دبانے سے بلب جل جاتا ہے۔ مخلوق خدا جمع تھی اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟۔ اس نے بتایا کہ میرے قاتل فلاں، فلاں ہیں۔ چنانچہ ان قاتلوں کو قصاص میں قتل کیا گیا اور وراثت سے محروم ہو گئے۔

كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو جس طرح اس کو زندہ کیا ہے مرنے کے بعد۔ اور یہ ”احیاء“ موسیٰ ﷺ کا دوسرا واقعہ ہے۔ ستر آدمیوں کو موسیٰ ﷺ کو ہر طور پر لے گئے ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھ جاؤ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ پھر سخت ہو گئے
 دل تمہارے مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں
 دیکھ چکے تھے۔ مثلاً من، سلویٰ کا نازل ہونا، بادلوں کا سایہ، پتھر سے چشموں کا جاری
 ہونا، دریا میں (فرعونیوں کا) غرق ہو جانا اور مردوں کا زندہ ہونا اتنی نشانیاں دیکھنے
 کے باوجود ان کے دل نرم ہونے کی بجائے سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہوئے؟
 فرمایا.....

فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ پس وہ دل پتھروں کی طرح ہیں اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً یا ان
 سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ مثلاً پتھر سے لوہا زیادہ سخت ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو
 گھستی نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہیرا، کہ ٹوٹ جائے گا مگر گھسے گا نہیں۔ لوہا، تانبا، سونا، گھس
 جاتے ہیں۔ ہیرا چونکہ گھستا نہیں ہے۔ اس لئے بعض گھڑیوں کی جو لیس ہیرے کی
 ہوتی ہیں۔

سوال :

اب سوال یہ ہے کہ ہیرے کو آدمی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟۔

جواب :

ہیرے کو آدمی استعمال کر سکتا ہے اور مرد کے لئے چار ماشے چاندی کی انگوٹھی
 جائز ہے۔ زیور کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ زیور کے علاوہ چاندی کا استعمال جائز
 نہیں ہے۔ مثلاً گھڑی یا گھڑی کا چین یا جیبی گھڑی کی زنجیر یا بازو اور گلے کی زنجیر یہ
 سب ناجائز اور حرام ہیں۔ اور سونا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ سونے
 چاندی کا دانت لگوا سکتا ہے۔ اگر ناک کٹوا بیٹھے تو وہ بھی سونے چاندی کی لگوا

سکتا ہے۔

سونے کا دانت اور ناک :

چنانچہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں لڑائی کے دوران ایک شخص کی دشمنوں نے ناک کاٹ دی اب وہ بڑا برا لگتا تھا تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کر لگوائی۔ کہ چلو اصلی کی جگہ مصنوعی ہی سہی کچھ نظر تو آئے گا چند دنوں کے بعد اس سے بو آنی شروع ہو گئی۔ آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں نے چاندی کی ناک لگوائی تھی مگر اس سے بو آنے لگ گئی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ سونے کی لگوائے۔ اور سونے کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے بو نہیں آتی۔ اور عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ سونا چاندی زیور کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں۔ البتہ زیور کے علاوہ کسی اور شکل میں استعمال نہیں کر سکتیں۔

مثلاً سونے چاندی کا ”سر مچو“ استعمال نہیں کر سکتیں، سونے چاندی کے برتنوں میں عورت کھاپی بھی نہیں سکتی۔ ”کروشیا“ جس سے عورتیں کڑھائی کرتی ہیں وہ بھی سونے چاندی کا جائز نہیں ہے۔ صرف زیور کی حد تک اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر فرمائی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیونکہ.....

پتھر میں خشیت الہی :

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ أُولَئِكَ بَعْضُ پتھروں میں سے لَمَّا يَتَفَجَّرُ

مِنْهُ الْأَنْهَارُ البتہ وہ ہیں جن سے پھوٹی ہیں نہریں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے

مقامات ہیں جہاں پتھروں سے چشمے بہ رہے ہیں۔ اور اتنی مقدار میں کہ آگے ان

سے نہریں دریا بن جاتے ہیں۔ یہ بھی پڑھ چکے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لائٹھی ماری تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے۔

وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشْقُقُ اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں البتہ جو پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس نکلتا ہے اس پتھر سے پانی تھوڑی مقدار میں وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔

پہاڑوں میں کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پتھر خود بخود گر پڑتے ہیں بظاہر ان کو گرانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ رب تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا خوف ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے.....

ہر چیز کا حمد الہی بیان کرنا :

وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے درخت، ان کے پتے، ریت کے ذرات، پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں۔

حجر کا آنحضرت ﷺ کو سلام کرنا :

آنحضرت ﷺ تاج نبوت پہنائے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرے تھے وہ آپ ﷺ کو سلام کہتا تھا أَلْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں یہ شعور رکھا تھا کہ وہ آپ کو پہچانتا تھا کہ آپ ﷺ اللہ

تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے پتھر بیان فرمائے ہیں.....

☆..... ایک وہ ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔

☆..... دوسرے وہ ہیں کہ ان سے تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے۔

☆..... تیسرے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔

اسی طرح بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے احکامات کو دور دور تک پہنچاتا ہے اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں علم تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ لیکن جتنا بھی ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نافرمانی کے بلند مقام سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ یعنی ان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے اگرچہ دوسروں کو فائدہ نہ پہنچا سکیں۔ مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ نہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نافرمانی کی بلڈنگ سے نیچے گرتے ہیں۔

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس کارروائی سے جو تم کرتے ہو۔ تمہاری نیکی بدی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہاں تک یہودیوں کی خرابی کا ذکر تھا آگے اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب فرماتے ہیں اَلتَّطَمَعُونَ کیا تم طمع رکھتے ہو اَنْ يُّؤْمِنُوا لَكُمْ اس بات کا کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے۔ جبکہ ان کے بڑے اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی راہِ راست پر نہ آئے۔

حکم الہی میں تحریف :

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ سُنَّتَا تھو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو نَمَّ يَحَرِّفُونَ پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا

مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ بَعْدَ اس کے کہ اس کو انہوں نے سمجھ لیا تھا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی تھے۔ انہوں نے کس طرح بدلا؟۔ اس کی مختلف
تفسیریں ہیں.....

19

(۱)..... اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ توراہ ان کی زبان میں تھی اس کو پڑھا اور
سمجھا مگر اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے اور اپنی خواہشات کو توراہ سے ثابت کرتے
تھے۔ جس طرح آج کل اہل بدعت حضرات کرتے ہیں کہ قرآنی آیات کی غلط تشریح
کر کے ان سے اپنا عقیدہ اور عمل ثابت کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ تحریف کرتے
تھے۔

(۲)..... تحریف اور بدلنے کی دوسری تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
نے جب توراہ اپنی برادری کو لادی اور انہیں پڑھ کر سنائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت
مشکل کتاب ہے۔ ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب
اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا آپ خود لکھ کر لائے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی برادری
کے ستر آدمیوں کا انتخاب کیا کہ تم میرے ساتھ کوہ طور پر چلو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے
کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود آواز دے کر کہیں
گے کہ یہ میری کتاب ہے۔

جب یہ آدمی کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری کتاب ہے اور تمہیں
مشکل اس سے لئے نظر آرہی ہے کہ تم نے آزاد زندگی گزاری ہے اور اب پابندیاں
لگی ہیں جب تم اس پر عمل کرو گے مشکل نہیں رہے گی۔ اور اس کے باوجود اگر بشری
تقاضے سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ لوگ جب واپس قوم کے

پاس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب میری ہے اگر تم اس پر عمل نہیں بھی کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب دیکھو کتاب بڑا فرق ہے اس طرح کلام اللہ کو سن کر بدل ڈالا۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے وَإِذَا خَلَا بِعُضُوبِهِمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض بعض کے پاس۔ یعنی چھوٹے جاتے ہیں اپنے رئیسوں اور مذہبی سرداروں کے پاس اور وہ ان کی بے عزتی کرتے ہیں اور.....

قَالُوا اتَّخَذْتُنَّهِمْ کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وہ چیز جو ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے تم پر کہ اسلام سچا مذہب ہے اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ کیونکہ اس کی سچائی کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے تو یہ لوگ تمہارے اس اقرار کو قیامت والے دن تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے۔

لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں۔ اے نادانو! ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کہا کرو اور آمَنَّا بھی نہ کہا کرو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ کہ دشمن کے سامنے اقرار کرتے ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ کیا وہ نہیں جانتے کہ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِشَكِّ اللَّهِ تعالیٰ جانتا ہے مَا يُسْرُونَ جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں وَمَا يُعْلِنُونَ اور

جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں مگر اس ذات سے کس طرح چھپا سکتے ہیں جو ظاہر باطن کو جانتی ہے اور رب تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے آخری پیغمبر ﷺ کی صداقت اور اسلام کی صداقت ان کو بتائی ہے اور ان کی کتابوں میں ان کی صداقت کی نشانیاں ذکر کی ہیں۔ تو یہ اگر آج ان کو ظاہر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں.....

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۗ يَا آخِرَىٰ بِغَيْبِهَا كَمَا يَعْرِفُونَ طَرْحَ إِسْحَاقَ بْنِ يَاقَانَ
ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم آنحضرت ﷺ کو شکل و صورت اور نشانیوں سے اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں۔

ابو جہل اور نبی اکرم ﷺ کا معجزہ :

”خصائص الكُبرى“ امام سیوطی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے آنحضرت ﷺ کے معجزات احادیث اور تاریخ کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ.....

”ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام تھا اور بڑا سخت اور تلخ مزاج کا آدمی تھا اپنے ہاتھ میں موٹے موٹے کنکر پکڑ کر لایا۔ آنحضرت ﷺ اپنے ساتھیوں (رضی اللہ عنہم) کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہنے لگا کہ ان کو وعظ تبلیغ بعد میں کرنا پہلے میرے ساتھ بات کرو۔ وہ یہ کہہ کر جو نبی ہونے کا دعویٰ دار ہے اور آسمانوں کی خبریں دیتا ہے زمین کی

باتیں بیان کرتا ہے، جنت و دوزخ کے حالات بیان کرتا ہے۔ بتا میری مٹھی میں کیا چیز ہے؟۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ چچاچی اگر یہ مٹھی والی چیز خود بول کر بتا دے تو پھر ٹھیک ہے؟۔ کہنے لگا پھر تو بڑی بات ہے۔ چنانچہ ان کنکریوں نے پڑھنا شروع کیا.....

سُبْحَانَ اللَّهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کنکریوں نے پڑھنا شروع کیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ تو ابو جہل نے کنکر دور پھینک دیں اور کہنے لگا کہ تم بھی اس کی طرفدار ہو گئی ہو۔ تو اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

اسی طرح یہودی، عیسائی آنحضرت ﷺ کو جانتے، پہچانتے تھے کہ یہ وہی آخری پیغمبر (ﷺ) ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت ضد سے بچائے..... (امین)۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا
 وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٤٨﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ
 الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ
 اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا
 كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٤٩﴾
 وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۗ
 قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ
 عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ بَلَى
 مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥١﴾
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٢﴾

لفظی ترجمہ :

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ اور ان میں سے بعض اُن پڑھ ہیں
لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ جو نہیں جانتے کتاب کو إِلَّا آمَانِيٌّ مگر چند
جھوٹی آرزوئیں وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ پس خرابی ہے ان لوگوں کے لئے يَكْتُبُونَ
الْكِتَابَ جو لکھتے ہیں کتاب بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے ثُمَّ
يَقُولُونَ پھر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ خریدیں اس کے ذریعے قیمت
تھوڑی۔

فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا پس خرابی ہے ان کے لئے اس چیز سے كَتَبَتْ
أَيْدِيهِمْ جو لکھی ہے ان کے ہاتھوں نے وَوَيْلٌ لَهُمْ اور ہلاکت ہے
ان کے لئے مِمَّا يَكْتَسِبُونَ اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں وَقَالُوا
اور کہتے ہیں لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ إِلَّا أَيَّامًا
مَعْدُودَةً مگر گنتی کے چند دن۔

قُلْ آپ (ﷺ) فرمادیں اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا کیا تم
نے پکڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد فَلَنْ يُّخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ پس
ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ يَا

کہتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر مَا لَا تَعْلَمُونَ جو کچھ تم نہیں جانتے۔

بلی کیوں نہیں (چھوئے گی آگ) مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً جس نے
کمانی برائی وَّ أَحَاطَتْ بِهَا خَطِيئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہی لوگ دوزخ والے ہیں هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
اور عمل کئے اچھے أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وہی لوگ جنتی ہیں هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

و ربطك :

پہلے ان کا ذکر تھا جو تعلیم یافتہ تھے اور اب ان پڑھوں کا ذکر ہے کہ دین دشمنی
میں سب برابر ہیں۔ فرمایا.....

ان پڑھ یہودی :

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں لَا يَعْلَمُونَ
الْكِتَابَ جو نہیں جانتے کتاب کو إِلَّا آمَانِيٌّ مگر چند جھوٹی آرزوئیں وَإِنَّ هُمْ
إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے۔ جیسا کہ اکثر جاہل سینہ بہ سینہ نقل
ہونے والی عجیب، عجیب کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ کتاب کا علم کچھ بھی نہیں ہوتا۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ پس خرابی ہے ان لوگوں کے لئے يَكْتُبُونَ
الْكِتَابَ جو لکھتے ہیں کتاب بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے ثُمَّ يَقُولُونَ پھر

کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس دور میں پر لیس تو ہوتا نہیں تھا۔ ہاتھوں سے کچھ آیات تو، توراہ کی ہوتی تھی اور کچھ اپنی طرف سے لکھ کر کہتے یہ توراہ ہے۔ اور ہم تمہیں سستی دے رہے ہیں۔ لوگ خریدتے تھے۔ تیسرے پارے میں آئے گا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام پر جھوٹے قصے :

لِيشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ خریدیں اس کے ذریعے قیمت تھوڑی۔ چونکہ اس میں انہوں نے آسان مسئلے لکھے ہوتے تھے اس لئے لوگ شوق سے خریدتے تھے جس طرح آج کل کہانیوں والی کتابیں عام لوگ لیتے اور ٹھوس کتابیں جن میں عقائد اور اعمال کا بیان ہوتا ہے۔ وہ نہیں لیتے یا جس طرح روافض نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قصہ اور حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کا قصہ چھپوایا ہوا ہے اور رافضی عورتیں ان کو عورتوں میں تقسیم کرتی ہیں، پھیلاتی ہیں۔ اور اس طرح وہ عورتوں کی ذہن سازی کرتی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں پکاؤ اور کھاؤ اور کسی کو نہ بتاؤ۔ یہ سب خرافات ہیں اور بزرگوں کے ذمے لگائی ہوئی ہیں۔ اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بزرگوں کے ساتھ عقیدت بڑی بات ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے ذمے غلط باتیں لگاؤ۔

”ویل“ کی تعریف :

”ویل“ جہنم کے ایک نچلے طبقے کا نام بھی ہے۔ جب آدمی کو جہنم میں پھینکا

جائے گا تو سڑتا گلٹا ستر سال کے بعد نیچے گرے گا یہ حال ہوگا ایسے لوگوں کا۔

فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ پس خرابی ہے ان کے لئے اس چیز سے جو لکھی ہے ان کے ہاتھوں نے وَوَيْلٌ لَهُمْ اور ہلاکت ہے ان کے لئے مِّمَّا يَكْسِبُونَ اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں۔ توراہ میں تحریف کر کے اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں شامل کر کے لوگوں کے آگے فروخت کرتے اور رقم بنورتے اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی کہتے.....

دوزخ اور یہود و نصاریٰ :

وَقَالُوا اور کہتے ہیں لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَةً مگر کتنی کے چند دن۔ وہ کتنی کے چند دن کتنے ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں.....

①..... یہودیوں کا ایک اعتقاد یہ ہے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے کچھ حدیثیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے مگر محدثین کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ بَاطِلَةٌ لَا اَصْلَ لَهَا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے گویا کہ سات دن دوزخ میں رہیں گے۔ پھر جنت میں چلے جائیں گے۔

②..... دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جتنے دن موسیٰ عليه السلام کوہ طور پر اعتکاف بیٹھے تھے اور ہمارے بڑوں نے پچھڑے کی پوجا کی تھی یعنی چالیس دن، ہم بھی چالیس دن دوزخ میں رہیں گے۔ پھر دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔

بھائی! بڑی عجیب منطق ہے کہ پوجا تو کریں تمہارے بڑے اور دوزخ میں سزا تم بھگتو۔ یہ کیا نظریہ ہوا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نظریے کا

رد کرتے ہوئے فرمایا کہ.....

لَا تَسْرِدْ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى كَوْنِي كَمَنْ دُوزَخِ مِثْلِ مَا لَمْ يَكُنْ
جس طرح یہودی کہتے ہیں کہ ہم بڑوں کی وجہ سے چالیس دن دوزخ میں رہیں گے
اس کے برعکس عیسائیوں نے یہ نظریہ بنایا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے منجی ہیں۔
اس طرح کہ وہ سولی پر لٹک کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے ہیں۔

ارے بے ایمانو! گناہ کرو تم دو ہزار سال بعد اور وہ تمہارے گناہوں کی وجہ
سے سولی پر لٹکیں دو ہزار سال پہلے۔ بڑی عجیب منطق ہے؟۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ
کا بڑا واضح حکم موجود ہے۔ فرمایا.....

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا
کفایت کرے گا باپ بیٹے کی طرف سے اور نہ بیٹا باپ کی طرف سے۔ ہر ایک نے
اپنے کئے کا پھل کھانا ہے۔ انہیں غلط نظریات کی وجہ سے وہ کہتے تھے.....

وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى اور وہ کہتے
ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ یہودی
کہتے تھے جنت ہماری اور عیسائی کہتے تھے جنت ہماری جاگیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے
ہیں کہ.....

قُلْ أَنتُمْ نَسِيتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدَ الَّذِي لَقِيتُمْ لَمَّا قَالُوا يَا مَعْشَرَ الْفٰرِثِيّينَ
لِیَا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد، کہ سات دن یا چالیس دن دوزخ میں رہنے کے
بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے۔

فَلَنْ يُخَلِّفَ اللَّهُ عَهْدَهُمْ لِسِيْرِهِمْ هُمْ يَنْسِيْنَ
فَلَنْ يُخَلِّفَ اللَّهُ عَهْدَهُمْ لِسِيْرِهِمْ هُمْ يَنْسِيْنَ

أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ يَأْكُتُهُ هُوَ تَمَّ اللّٰهُ تَعَالَىٰ بِرَمَا لَا تَعْلَمُونَ جَو كَچھ تَم نَہیں جانتے بلی کیوں نہیں (چھوئے گی آگ) مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً جَس نے كَمَائِ برائی۔ اور اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے کہ.....

قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ يَهُودِيُونَ نے كہا عزیر اللہ تعالیٰ كے بیٹے ہیں وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ مَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ اور عيسائيوں نے كہا كہ عيسى اللہ تعالیٰ كے بیٹے ہیں۔ او ظالمو! اس سے بڑا گناہ اور كیا ہوگا كہ تم نے بندوں كو خدا كا بیٹا بنا دیا اور خدائی میں شريك بنا دیا۔

اور اے يہوديو! تم تو عيسى ﷺ كو حلال زادہ ماننے كے لئے تيار نہیں ہو على مَرِيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا حضرت مريم ﷺ پر بہتان عظيم بنا دھا۔ معاذ اللہ تعالیٰ۔ ان باتوں كے ہوتے ہوئے تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے كیوں نہیں چھوئے گی آگ تمہیں؟۔

مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً جَس نے كَمَائِ برائی وَ أَحَاطَتْ بِہِ خَطِيئَتُهُ اور گھیر لیا اس كو اس كی برائی نے، دل كو بھی اور ظاہر كو بھی فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہی لوگ دوزخ والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ بخلاف اس كے.....

اصحابِ جنت :

وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور خالی ایمان ہی نہیں لائے؟

بلکہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کے اچھے اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ وہی
 لوگ جنتی ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو
 جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ
 إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۗ
 أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
 قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا
 مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
 أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ
 تَسْهَدُونَ ﴿٨٣﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ
 أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ
 مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَإِن يَأْتِوكُمْ أَسْرَىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ
 عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ ۗ أَفْتُورٌ مِّنْكُمْ بِبَعْضِ
 الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۗ فَمَا جَزَاءُ مَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا
 اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ فَلَا يُخَفَّفُ
 عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾

لفظی ترجمہ :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ آدَمَ أَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ نَهْيًا
 اسرائیل سے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کہ نہیں عبادت کرنی تم نے سوائے
 اللہ تعالیٰ کے وَبِالنَّوَالِدِينَ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا
 وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ اور قریبیوں اور یتیموں
 کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وَالْمَسْكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ۔

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور کہو لوگوں کو اچھی بات وَاَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہو ثُمَّ
 تَوَلَّيْتُمْ پھر، پھر گئے تم إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ مگر تھوڑے تم میں سے
 وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ اور تم اعراض کرنے والے ہو۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ آدَمَ أَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ نَهْيًا

لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ نَهیں بہاؤ گے تم اپنے خون وَلَا تَخْرِجُونَ
 أَنْفُسَكُمْ اور نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو مِّنْ دِيَارِكُمْ اپنے گھروں
 سے ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اقرار کیا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم اس
 پر گواہی دیتے ہو۔

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ پھر تم یہی تو ہو تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ قتل
 کرتے ہو اپنی جانوں کو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ
 اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے تَطْهَرُونَ
 عَلَيْهِمْ چڑھائی کرتے ہو تم ان پر بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور
 زیادتی کے ساتھ۔

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر
 تُفْدُوهُمْ فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ
 حالانکہ حرام تھا تم پر إِخْرَاجُهُمْ ان کو گھروں سے نکالنا أَفْتَوْمُنُونَ
 بِبَعْضِ الْكِتَابِ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر
 وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا

فَمَا جَزَاءُ پس نہیں ہے بدلا مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ جو کرتا
 ہے یہ کارروائی تم میں سے إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مگر رسوائی
 دنیا کی زندگی میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اور قیامت کے دن لوٹائے

جائیں گے اِلٰی اَشَدِّ الْعَذَابِ سخت عذاب کی طرف وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے عَمَّا تَعْمَلُونَ اس کا ردوائی سے جو تم کرتے ہو۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ وَه، وہ لوگ ہیں اَشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ جنہوں نے خرید ادنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

وَيْسَ

پہلے سے بنی اسرائیل کی زیادتیوں اور خرابیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اس رکوع میں بھی ان کی زیادتیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے۔ نزول قرآن کے زمانے میں جو بنی اسرائیلی موجود تھے ان کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے بھی حق کو نہیں مانا تھا اور تم بھی نہیں مانتے۔ عہد یہ تھا.....

عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی :

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ کہ نہیں عبادت کرنی تم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔
عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اور جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں انہوں نے پہلا سبق یہی دیا.....

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ اے میری قوم! عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی فریادرس نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، نہ کوئی پیر نہ کوئی مولوی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بتوں کی نفی ہے یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ مولویوں اور پیروں کو بھی رب بنایا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے دسویں پارے میں ہے.....

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا وَالْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ اور حضرت عیسیٰ کو انہوں نے رب بنا لیا۔ یہ جو کچھ کہتے تھے مانتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے تھے تو کیا مولوی اور پیر بت تھے۔ اور کیا عیسیٰ بت تھے؟۔ معاذ اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، سجدے بھی کرتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ عبادت تو نہیں کرتے تو ایک تو یہ حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور دوسرا حکم تھا.....

والدین سے حسن سلوک :

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے یہ ایسے حکم ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر آنحضرت ﷺ کے مبارک زمانے تک یہی حکم رہے ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کی ہر وہ بات ماننی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو۔

چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق ایک فقہی ضابطہ بیان فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر ایسے حکم کو چھوڑنے کا حکم دیں جو فرض اور واجب ہے تو پھر ان کی بات نہیں مانتی؟۔ مثلاً کہیں کہ نماز نہ پڑھو، یا روزہ نہ رکھو، عورتوں کو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اور وہ کہیں کہ پردہ نہ کرو یا لڑکوں کو کہیں کہ ڈاڑھی منڈھو۔ یہ تمام چیزیں فرض یا واجب کے درجے میں آتی ہیں۔ مختصر یہ کہ والدین کسی فرض یا واجب کے چھوڑنے کا نہیں کہتے تو پھر ان کی بات مانتی ضروری ہے، ورنہ نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ رب تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِيْ وَأَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ اور اگر تجھے ماں باپ مجبور کریں میرے ساتھ شرک کرنے پر مائل نہ ہو، اے نبی! تو ان کی بات بالکل نہیں مانتی۔ البتہ وہ احکام جو سنت مؤکدہ ہیں جیسے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔

اور اگر کوئی آدمی تین نمازیں بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اور شریعت میں اس کی گواہی غیر مقبول ہے۔ اگر والدین ایسے حکم کے متعلق ایک ادھ مرتبہ کہیں نہ کر، تو مان لو۔ اور اگر عادت بنا لیں اور کہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھا کر تو پھر ان کی بات نہیں مانتی۔

اور وہ احکام جو مستحب ہیں اگر والدین ان کو چھوڑنے کا حکم دیں تو والدین کی بات پر عمل کرے اور ان کو چھوڑ دے۔ مثلاً کہیں کہ نفلی نماز نہ پڑھ، نفلی روزہ نہ رکھ، اور

ہماری خدمت کر، تو مستحب پر والدین کی خدمت مقدم ہے۔

بعض احکامِ الہی کا ماننا اور بعض کا انکار کرنا :

وَذِي الْقُرْبَىٰٰ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بول

چال میں لین دین میں ان کا پورا پورا خیال رکھنا۔

وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ تمہارے فرائض میں

داخل ہے کہ اپنے محلہ یا شہر یا قصبے میں یتیموں کو تلاش کرو اور ان کی ضرورتوں کا انتظام

کرو۔ اور ان کو پورا کرو۔ یتیموں کا تمہارے پاس آنا ضروری نہیں ہے۔

وَالْمَسْكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ان کا خیال رکھنا،

مسکین اسے کہتے ہیں جو صاحبِ نصاب نہیں ہوتا۔ تھوڑی بہت آمدن ہوتی ہے مگر

اخراجات آمدن سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اخراجات سے مراد جائز ضروریات ہیں

نہ کہ آج کل کی عیاشیاں اور آسانیاں۔

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور کہو لوگوں کو اچھی بات۔ کسی کو چھڑانے والی بات

نہ کرو، ٹیڑھی اور ضد کی بات نہ کرو، شرافت اور ادب کو ملحوظ رکھ کر بات کرو۔ کیونکہ

بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد غلط گفتگو ہوتی ہے۔ مثلاً کسی سے فحش مذاق کرتا ہے وہ

برداشت نہیں کرتا اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا زبان کو محتاط رکھنے کا بڑا حکم ہے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو۔ ان پر صرف دو نمازیں فرض تھیں۔

وَأَتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ان پر زکوٰۃ کا حکم بہ نسبت ہمارے سخت تھا۔ ہم

پر زکوٰۃ چالیسواں حصہ ہے اور ان پر چوتھا حصہ فرض تھا۔ یعنی چار سو میں سے ان کو

ایک سو دینا پڑتا تھا اور چار ہزار میں سے ایک ہزار دینا پڑتا تھا۔ اور ہمیں سو میں سے

اڑھائی روپے اور ہزار میں سے پچیس روپے دینے کا حکم ہے۔ بڑی سہولت ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کاموں کا پختہ عہد لیا تھا.....
 ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّمَّ، پھر گئے تم إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ مگر تھوڑے تم میں
 سے۔ جنہوں نے احکامات کی پابندی کی اکثریت بالکل ان سے غافل ہو گئی۔ جس
 طرح آج کل دیکھ لو کہ کتنے لوگ ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے اچھی بات کرنے والے
 یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھنے والے۔

عیابِ راجہ بیاب؟

جو چیز واضح ہو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟۔ اور اس زمانے کے
 بنی اسرائیلو! وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ اور تم بھی ان چیزوں سے اعراض کرنے والے
 ہو۔ آگے بھی بنی اسرائیلیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ تین
 وعدے بھی لئے تھے.....

①..... پہلا وعدہ :

پہلا وعدہ یہ لیا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، جس طرح آج کل چھوٹی چھوٹی اور
 معمولی باتوں پر قتل ہوتے ہیں۔ مثلاً ایکشن پر قتل، لین دین پر قتل، رشتے ناٹے پر قتل،
 اس وقت بھی اسی طرح ہوتے تھے۔ پہلا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ اے بنی
 اسرائیلو! لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ نہیں بہاؤ گے تم اپنے خون۔ برادری، رشتہ
 داروں کو قتل کرنا اپنا ہی خون بہانا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ قتل ناحق
 ہے۔ اسی لئے قیامت والے دن بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے قتل کا

مقدمہ دائر ہوگا۔ اور حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ لہذا اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کرو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ دنیا میں تو لوگ داؤ وغیرہ لگا کر جھوٹ بول کر، عدالتوں سے بچ جاتے ہیں۔ مگر اس سچی عدالت میں کوئی کسی کو نہ تو دھوکہ دے سکے گا اور نہ ہی وہاں جھوٹ چلے گا۔ اگر وہاں کوئی جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے.....

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ دِكْهُوا كَيْسَ اِپْنِي جَانُوں پَر جھوٹ بول رہے ہیں؟۔ اصل واقعہ اس طرح ہے کہ مشرک جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لائے جائیں گے اور رب تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جب میں نے تمہیں شرک سے منع کیا تھا پھر تم نے شرک کیوں کیا؟۔ تو وہ قسم اٹھا کر کہیں گے.....

وَاللّٰهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ اللّٰهُ تَعَالٰی كِي قَسْم جُو ہمارا رب ہے ہم نے تو كوئی شرک نہیں کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيَّ اَنْفُسِهِمْ دِكْهُوا ان كو كیسے جھوٹ بولتے ہیں اپنی جانوں پر۔

④..... دوسرا وعدہ :

وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اور نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے۔ وہ اس طرح کرتے تھے ان میں سے جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو ان کے بنے بنائے مکانوں سے نکال دیتے اور ان پر قبضہ کر کے خود داخل ہو جاتے۔

فلسطینیوں پر یہودیوں کے مظالم :

اور ان کا یہ طریقہ کار آج تک چلا آ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے

نکال دیا ہے اور یہودی ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ اور بیس ہزار سے زیادہ فلسطینی کیمپیوں میں گزارہ کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے وجود کو تسلیم کرو۔ ان کے وجود کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے مکانوں پر ان کے باغوں پر ان کی زمینوں پر جو قبضہ کیا ہے اس کو تم جائز قرار دو کہ انہوں نے صحیح کیا ہے۔

بھائی! ہم کس طرح تسلیم کریں؟ زمینیں ان کی ہیں، باغات ان کے ہیں، مکان فلسطینی بے چاروں نے محنت مشقت کر کے دکھ، سکھ برداشت کر کے بنائے ہیں اور یہودیو! تم ان کے مالک بن کہ بیٹھ گئے ہو۔ وہ بے چارے چیختے ہیں ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے ان کی چیخ و پکار کوئی سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے۔

بلکہ بعض بے غیرت حکومتوں نے اسرائیل کو اس ظلم کے باوجود تسلیم بھی کر لیا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ کتنا ظلم ہے ان پر۔ پھر ان بے چاروں کو ملازمتیں دینے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ تم مزدوری کرو، سڑکیں بناؤ، باغوں میں کام کرو، سب گھٹیا کام ان سے لیتے ہیں۔ اور معاوضہ بھی کم دیتے ہیں۔ آخر وہ بھی انسان ہیں ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ تو خیر! یہودیوں کو حکم تھا کہ تم اپنی برادری کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے فرمایا.....

ثُمَّ أَفْرَدْتُمْ پھر تم نے اقرار کیا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور (اس وقت کے اسرائیلیو!) تم اس پر گواہی دیتے ہو کہ ہاں ہمارے بڑوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا۔ اس کے باوجود.....

ثُمَّ أَنْتُمْ هَلُولَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ پھر تم یہی تو ہو قتل کرتے ہو

اپنی جانوں کو وِتْخِرِ جُودًا قَرِيبًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے۔ قتل نہ کرنے کا وعدہ بھی تم نے پورا نہ کیا اور گھروں سے نکالنے کا وعدہ بھی تم نے پورا نہ کیا۔

تَطْهَرُونَ عَلَيْهِمْ چڑھائی کرتے ہو تم ان پر بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ رب تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کو ”اِثْمٌ“ کہتے ہیں اور بندے کے حق کو ضائع کرنے کو ”عدوان“ کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم قتل نہ کرو، انہوں نے قتل کر کے رب تعالیٰ کا حکم توڑا۔ ”اِثْمٌ“ کا ارتکاب کیا۔ اور بندوں کو قتل کیا اور ان کو گھروں سے نکال کر ”عدوان“ کا ارتکاب کیا۔

③..... تیسرا وعدہ :

وَإِنْ يَأْتُوكُمُ اسْرٰى اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر نَفْدُوهُمْ فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ مدینہ طیبہ میں دو بڑے قبیلے ”اوس اور خزرج“ جو اکثر آپس میں دست و گریبان رہتے تھے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ اوس کا حامی تھا اور بنو نضیر قبیلہ خزرج کے طرفدار تھے۔ ان کی آپس میں اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ جب ایک قبیلہ دوسرے پر غالب آجاتا تو ان کو قتل بھی کرتے۔ گھروں سے بھی نکالتے اور قیدی بھی بنا لیتے۔ اب ان کی برادری کے لوگ جب قیدی بن جاتے وہ ان سے اپنی زمینوں اور باغوں میں کام کرواتے اور وقت پر صحیح معنی میں روٹی بھی نہیں دیتے تھے۔ تو پھر یہ چندہ اکٹھا کر کے ان کو رہا کراتے۔ کیونکہ ان کو حکم تھا کہ اگر تمہارے آدمی گرفتار ہو جائیں تو انہیں رہا کراؤ، ان کی مالی امداد کرو۔ تو اس حکم پر تو عمل کرتے ہو.....

وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ اَلَا لَئِن لَّمْ يَآئِسْ اَلرَّسُوْلُ مِنْ اَلَّذِي وَعَدَ اللّٰهُ لَهُ لَوْلَا اَنْ يَخْرُجَ مِنْ دُوْنِ اَلْمَدِيْنَةِ لَعَلَّ اَلَّذِي كَفَرَ يَخْرُجَ مِنْ دُوْنِهَا ۗ اَلَا لَئِن لَّمْ يَآئِسْ اَلرَّسُوْلُ مِنْ اَلَّذِي وَعَدَ اللّٰهُ لَهُ لَوْلَا اَنْ يَخْرُجَ مِنْ دُوْنِ اَلْمَدِيْنَةِ لَعَلَّ اَلَّذِي كَفَرَ يَخْرُجَ مِنْ دُوْنِهَا ۗ اَلَا لَئِن لَّمْ يَآئِسْ اَلرَّسُوْلُ مِنْ اَلَّذِي وَعَدَ اللّٰهُ لَهُ لَوْلَا اَنْ يَخْرُجَ مِنْ دُوْنِ اَلْمَدِيْنَةِ لَعَلَّ اَلَّذِي كَفَرَ يَخْرُجَ مِنْ دُوْنِهَا ۗ

نکالنا۔ اس حکم پر عمل نہیں کرتے پہلے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو۔ قیدی بنوادیتے ہو۔ اور پھر ان کو رہا کرانے کے لئے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہو۔

یہودی چندہ اکٹھا کرنے کے بارے میں بڑے مشہور تھے، چندہ اکٹھا کرتے کچھ قیدیوں پر خرچ کرتے، باقی خود ہڑپ کر جاتے۔ اور عموماً چندوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ چاہے جلسوں کے لئے ہو یا مجاہدوں کے لئے ہو یا اور کسی کام کے لئے ہو۔ بے شک سو میں سے دو چار دیانت دار بھی ہوتے ہیں۔ مگر بڑی مشکل سے۔ باقی سب نے کھانے، پینے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔

اور یاد رکھنا! تمہارے پاس جب تک مجاہدین کا کوئی بااعتماد آدمی نہ آئے کسی کو چندہ نہ دینا کئی لڑکوں نے اور جماعتوں نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ رسیدیں بھی چھپوائی ہوئی ہیں۔ اور ہزاروں، لاکھوں روپے اکٹھے کر کے کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو گھروں سے نکالنا۔

دنیا کی زندگی میں رسوائی :

اَفْتُوْمُنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ كَمَا تَمَّ اِيْمَانُ لَاتِے هُوَ كِتٰبُ كِبَعُ
حصے پر وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ اور انکار کرتے هُوَ بَعْضُ حصے كَمَا جَزَاءُ پس
نہیں ہے بَدَلًا مَن يَّفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ جو کرتا ہے یہ کارروائی تم میں سے اِلَّا
خِزْيٌ فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں

یہودیوں کے لئے رسوائی کی ایک صورت اس طرح ہوگی کہ تمہیں مسلمانوں کی حکمرانی ماننی پڑے گی اور جزیہ دینا پڑے گا۔

آخرت کا عذاب :

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ

لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ جہنم میں بھی طبقات ہیں۔

①..... سب سے کم درجے کا عذاب سب سے اوپر والے طبقے میں ہوگا۔

جس میں کلمہ پڑھنے والے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ لیکن اس کی آگ بھی دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہوگی اللہ تعالیٰ اس ہلکے عذاب سے بھی بچائے۔

②..... اور اس سے نیچے والے طبقے میں نصاریٰ ہوں گے

③..... اور اس سے نیچے والے طبقے میں یہودی ہوں گے۔

④..... اور منافقین سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ قرآن پاک

میں ہے اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ

النَّارِ (پارہ: ۵) بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے

درجے میں ہوں گے۔ کیونکہ منافقت کا فتنہ سب سے زیادہ ہے۔

وَمَا لِلّٰهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس کا رروائی

سے جو تم کرتے ہو اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ وَه، وہ لوگ ہیں اَشْتَرُوا الْحَيٰوةَ

الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ جنہوں نے خرید ادنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔

اخبارات میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں کہ جو وزیر اور افسر اور دوسرے لوگ گھپلے کرتے

ہیں یہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے ہیں۔ فرمایا.....

فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے

عذاب۔ بلکہ دن بدن عذاب میں اضافہ ہوگا۔ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا

عَذَابًا پس چکھو تم پس ہرگز نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لئے مگر عذاب کو۔

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ
 بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
 الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا
 جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ
 اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِيقًا
 تَقْتُلُونَ ﴿٨٤﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ
 لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٥﴾
 وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ
 لِمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ
 عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا
 عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ
 ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا
 بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبِأَنَّهُ وَبِغَضَبٍ
عَلَىٰ غَضَبٍ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۹۰﴾

لفظی ترجمہ :

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ
(علیہ السلام) کو کتاب وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور بھیجے ہم نے
لگا تار ان کے بعد کئی رسول وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور دیں ہم
نے مریم کے بیٹے عیسیٰ (علیہ السلام) کو الْبَيِّنَاتِ واضح دلیلیں وَأَيَّدْنَاهُ
بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے تائید کی اس کی پاکیزہ روح کے ساتھ۔

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ کیا جب بھی کوئی رسول لایا
تمہارے پاس وہ چیز لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ جسے تمہارے نفس نہیں
چاہتے تھے اسْتَكْبَرْتُمْ تو تم نے تکبر کیا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ پس
پیغمبروں کے ایک فریق کو تم نے جھٹلایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک فریق
کو تم نے قتل کیا۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور کہا انہوں نے ہمارے دل غلافوں
میں ہیں بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ بَلْ كُفِّرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ نے ان پر لعنت فرمائی
ان کے کفر کی وجہ سے فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ پس بہت تھوڑے ہیں

جو ایمان لاتے ہیں۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ أَوْ رَجَبٌ آتَىٰ إِيَّاهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَالْتَمَسُوا لَهَا وَاسْئَلُوا عَنَّا وَإِن تُبْطِلُوا كِتَابَ اللَّهِ فَلْيُتْلَ عَلَيْنَا عَسَىٰ يُؤْتِي الْأُمِّيَّةَ مِن دُونِ الْكَتَابِ وَعَسَىٰ أَن يَأْتِيكُمُ الْبَصِيرَاتُ الْيَتِيمَاتُ الَّتِي أُوتِينَ مَالًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَنَّ لَّهُنَّ الْوَصِيَّةَ وَالسَّوَابَ وَإِنَّ عَجَلًا لَّغِيظُ اللَّهِ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ پس جب آگئی ان کے پاس مَّا عَرَفُوا وہ ذات جس کو انہوں نے پہچان لیا كَفَرُوا بِهِ تو اس کا انکار کر گئے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ بَرِيءٌ مِّنْهُم مَّنْ هُوَ سَائِلٌ عَنَّا فِي الْبَصِيرَاتِ انہوں نے خریدی اپنی جانوں کے لئے اَنْ يَّكْفُرُوا یہ کفر کرتے ہیں بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں بَغِيًّا سرکشی کرتے ہوئے اَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل عَلَىٰ مَن يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔

فَبَسَاءٌ وَّ بَغْضٍ عَلَىٰ عَضْبٍ پس لوٹے وہ غضب پر غضب لے کر وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لئے عذاب

ہے رسوا کرنے والا۔

وَبَطَل :

اس سے پہلے بنی اسرائیلیوں کے جرائم اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو جھٹلایا قیامت کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ پیغمبروں کو شہید بھی کیا تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ان کو سمجھایا نہیں گیا؟۔ ان کی راہنمائی نہیں کی گئی کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے رہے؟۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اٰرَابِلْتَهٗ تَحْقِیْقِ دِی ہَم نَے مَوسٰی ؑ کُتَابِ۔ توراہ کا آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بہت بلند مقام ہے اور بڑی جامع مانع کتاب ہے۔

وَقَفَّيْنَا مِنْ مَّ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور بھیجے ہم نے لگاتار ان کے بعد کئی رسول۔ قَفَا کا لغوی معنی ”مگڈی“ ہے۔ اور پچھلی جانب جہاں سر ختم ہوتا ہے وہ گدی ہے جب آدمی پیچھے کھڑے ہوں تو پچھلے آدمی کی نگاہ اگلے آدمی کی گدی پر پڑتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ ؑ کے پیچھے لگاتار پیغمبر بھیجے ان کو کتاب بھی دی اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ ؑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور دیں ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ ؑ کو واضح دلیلیں۔

لفظ ”عیسیٰ اور مریم“ کا معنی :

”عیسیٰ“ عربی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں اس کی اصل ”آیشویا

يَسُوعَ“ تھا۔ جس کا معنی ”مبارک اور سردار“ ہے۔ اور مریم کا معنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ”عابدہ“ کرتے ہیں۔ عبادت کرنے والی۔ حضرت مریم علیہا السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم میں ان کے سوا کسی عورت کا نام نہیں آیا۔ نہ پہلی امتوں میں سے اور نہ اس امت میں سے اور ان کا نام تیس مرتبہ آیا ہے۔ گویا کہ اوسطانی پارہ ایک دفعہ ان کا نام آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی اور عیسیٰ بن مریم فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ان کا باپ ہوتا تو اس کی طرف نسبت ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ضابطہ بیان فرمایا ہے اذْعُواْ لِاٰبَاءِہُمْ باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔

مرزا قادیانی کی خرافات :

مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلیظ زبان استعمال کی تو علماء کرام نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو شیطان نے اپنی کتاب ”کشتی نوح“ میں پہلے تو مولویوں کو خاصی گالیاں دیں کہ یہ مولوی بڑے بد ذات ہیں یہ لوگوں کو میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرتا۔ میرے سے زیادہ تعظیم کرنے والا کون ہے؟۔

میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کرتا ہوں اور ان کے چہ بہن بھائیوں کی بھی تعظیم کرتا ہوں اور ان کے باپ یوسف نجاری کی بھی تعظیم کرتا ہوں یہ ہے اس کی تعظیم۔ معاذ اللہ تعالیٰ۔ اور اس نے اپنی کتاب ”تریاق القلوب“ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین نانیاں اور تین دادیاں زنا کار اور کسی عورتیں تھیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ یہ ہے اس کی تعظیم، بڑا خبیث آدمی تھا۔ بھائی! جب از روئے قرآن ان کا باپ ہی نہیں ہے تو دادیاں کہاں سے آگئیں؟۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ﷺ کو واضح دلیلیں دے کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

وَإَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے تائید کی اس کی پاکیزہ روح یعنی جبرائیل امین ﷺ کے ساتھ۔ تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ جبرائیل ﷺ کی تائید کی ضرورت اس لئے پڑی کہ حضرت عیسیٰ ﷺ نے جب بنی اسرائیل کی اصلاح کا کام شروع کیا اور ان کو بتایا کہ یہ، یہ چیزیں تم نے بگاڑ دی ہیں اور اس سے دین کا نقشہ بگڑ گیا ہے تو چھوٹے بڑے سب کے سب ان کے مخالف ہو گئے۔ کیا مولوی یا پیر یا عوام اور کیا خواص سب نے حضرت عیسیٰ ﷺ سے لڑنا شروع کر دیا۔

جس طرح آج کل اہل بدعت نے دین کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور عوام کا ایسا ذہن بنا دیا ہے کہ اگر بدعات کی تردید کرو تو لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہنوں کو بدلنا خاصا مشکل کام ہے۔ اور بدعات کی تردید سے زیادہ ان کو چھوڑنا مشکل ہے۔ تمہیں درس سنتے ہوئے پچپن سال ہو گئے ہیں مگر بدعات کو چھوڑنے کے لئے تم بھی تیار نہیں ہو۔ بدعات کو چھوڑنے والا بہت بڑا مجاہد ہے۔

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ فَجَاء بِكُمْ آيَاتٍ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَكُلَّمَا نَزَّلْنَا آيَاتًا فَسُئِلْتُمْ إِنَّا لَهُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ فَأَنْفُسُكُمْ أَكْفَرُ فَأَمْشُوا فإِنَّكُمْ تَقْتُلُونَ وَأَنْتُمْ كَارِفُونَ

پاس وہ چیز لاتے ہوئی انفسکم جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے استکبرتم تو تم نے تکبر کیا ففریقاً کذبتم پس پیغمبروں کے ایک فریق کو تم نے اے ظالمو جھٹلایا و فریقاً قتلون اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا۔ جیسے

شعیب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تھکی علیہ السلام اور ان کے علاوہ اور بہت سارے پیغمبروں کو تم نے شہید کیا۔ جب بھی کسی پیغمبر نے ان کی مرضی کے خلاف بات کی اس کو انہوں نے شہید کر ڈالا۔

21

حضرت تھکی علیہ السلام اور فریضہ رسالت :

حضرت تھکی علیہ السلام کے زمانے میں حاکم وقت اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تھکی علیہ السلام اپنا فریضہ ادا کرنے کے لئے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اور فرمایا کہ میرے پاس اس طرح کی بات پہنچی ہے۔ اس لئے میں تحقیق کرنے کے لئے آیا ہوں۔ کیا تم اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے والا۔ فرمایا.....

”میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور یہ بات میرے فریضہ میں داخل ہے کہ میں ناجائز کام کو روکوں میں اپنا فریضہ ادا کرنے کے لئے آیا ہوں لہذا اگر واقعی کوئی بات ہے تو باز آ جا، تیرے لئے اور عورتوں اور لونڈیوں کی کمی نہیں ہے۔“ اس نے حضرت تھکی علیہ السلام کے اس بیان کو اپنی توہین سمجھا اور انہیں قتل کر دیا۔ اور جب انہیں حق کی دعوت دی گئی تو.....

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور کہا انہوں نے ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔
 غُلْفٌ ، اَغْلُفٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ”غلاف“۔ جو قرآن شریف اور دیگر کتابوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ تاکہ ان پر گرد و غبار نہ پڑے مکھی نہ بیٹھے دھواں نہ لگے بے حرمتی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، علم ہے اور بڑی پاکیزہ چیزیں ہیں ان پر ہم نے غلاف چڑھائے ہوئے ہیں تاکہ تمہاری

گردوغبار اور دھویں کی مانند باتیں ہمارے دلوں تک نہ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ۖ يَهُودُ لَا يَرْضَىٰ لِسَانَهُمْ سَوَابِقًا ۚ لَوْ أَنَّهُمْ آذَنُوا بِحَقِّ اللَّهِ ۖ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِ فَهُمْ كَافِرُونَ ۚ
 ہیں اور ان کے عقیدے اور نظریات درست ہیں اور تمہاری باتیں گردوغبار والی ہیں۔
 بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ان کے کفر کی وجہ سے فَكَلِمَاتٍ يُوسِفُونَ ۚ پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ تقریباً
 سارے یہودی آنحضرت ﷺ کو جانتے تھے کہ واقعی یہ سچا پیغمبر ہے۔ يَعْرِفُونَ
 كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۖ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے
 ہیں۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قبولِ اسلام سے پہلے اور بعد میں
 یہودیوں کی نظر میں :

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو بڑا عجیب واقعہ ہوا۔
 بخاری شریف میں ہے کہ وہ جب کلمہ پڑھ کر بیٹھے تو دیکھا کہ اور یہودی بھی آرہے
 ہیں تو پردے کی اوٹ میں ہو گئے اور آنحضرت ﷺ سے درخواست کی کہ حضرت
 یہودی آرہے ہیں پہلے ان سے آپ ﷺ میرے متعلق پوچھیں کہ میں کون ہوں؟ پھر
 ان کو اسلام کی دعوت دیں۔

چنانچہ جب وہ آگئے تو آپ ﷺ نے فرمایا كَيْفَ فَيَكُمُ ابْنُ سَلَامٍ؟

عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟۔ کہنے لگے.....

○ خَيْرٌ نَا وَابْنُ خَيْرِنَا ۖ ہم میں سے بہتر ہے اور بہتر کا بیٹا ہے۔

○ اَعْلَمْنَا وَابْنُ اَعْلَمْنَا سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔

○ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے اَعَاذَةُ اللّٰهِ مِنَ الْاِسْلَامِ اللہ تعالیٰ اسے اسلام سے پناہ میں رکھے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پر دے سے باہر آگئے اور ڈٹ کر کہا.....

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُولُهٗ وہ یہودی جنہوں نے ان کی اتنی تعریف کی تھی کہنے لگے شَرِّنَا وَابْنُ شَرِّنَا ہم میں سے بڑا شرارتی ہے اور بڑے شرارتی کا بیٹا ہے اندازہ لگاؤ وہی آدمی ہیں، وہی زبانیں ہیں پہلے کیا کہا اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟۔ مگر ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جانتے پہچانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائے۔ سوائے عبداللہ بن سلام اور پانچ سات اور کے (رضی اللہ عنہم)۔

قرآن کریم اور پہلی کتابیں :

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی قرآن کریم مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ تو قرآن کریم کونہ ماننے سے ان کتابوں کا بھی انکار ہے جن کا یہ مصدق ہے۔ ہاں اگر قرآن کریم ان کتابوں کے

خلاف ہوتا تو پھر وہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتابوں میں کچھ اور ہے اور قرآن کریم کچھ اور کہتا ہے؟ لہذا ہم نہیں مانتے؟ مگر یہ تو ان کا مصدق ہے۔

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ اور تھے وہ اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فتح کے لئے تو سل حاصل کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں تمام تفسیروں میں نقل کی گئی ہیں.....

①..... ایک یہ کہ فتح کے معنی کھولنے کے ہیں تو اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کفار پر اس بات کو کھولتے تھے یعنی بیان کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔

②..... اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ فتح کا معنی ”کامیابی“ بھی ہے۔ تو یہودی آنحضرت ﷺ کی آمد سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح اور کامرانی کے لئے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے۔ ”اے پروردگار! نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح عطاء فرما“۔ اب وسیلہ تو اسی کا دیں گے جس کے ساتھ کچھ تعظیم کا تعلق ہوگا؟ آپ ﷺ کی تعظیم کرتے تھے۔ اور آپ ﷺ کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ پس جب آگئی ان کے پاس مَا عَرَفُوا وہ ذات جس کو انہوں نے پہچان لیا كَفَرُوا بہ تو اس کا انکار کر گئے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔

وسیلہ کا شرعی مفہوم اور حکم :

یہاں وسیلے کا مسئلہ بھی سمجھ لیں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ

اے پروردگار! آنحضرت ﷺ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے یا یوں کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طفیل سے میرا یہ کام کر دے یا یوں کہے کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے میرا یہ کام کر دے یا یوں کہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی حرمت سے میرا یہ کام کر دے۔ وسیلہ، طفیل، صدقہ، حرمت، جاہ اور حق سب کا ایک ہی معنی ہے۔ اپنی لغت، زبان اور عرف کے اعتبار سے الفاظ مختلف ہیں۔ تو اس میں تفصیل ہے.....

(۱)..... اگر تو سل کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس کا میں وسیلہ دے رہا ہوں وہ میرے پاس حاضر و ناظر ہے۔ اور عالم الغیب ہے اور تمام کاموں میں اس کو تصرف حاصل ہے اور وہ میرا کام کرا سکتا ہے۔ تو ایسے وسیلے کے کفر اور شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے؟۔ ایسا تو سل کرنے والا کافر اور مشرک ہے۔

(۲)..... اور اگر تو سل کرنے والا جس کا وسیلہ دے کر دعا کر رہا ہے اس کو عالم الغیب، حاضر و ناظر نہیں سمجھتا اور اس کو مُتَصَرِّفِ فِي الْأُمُورِ بھی نہیں سمجھتا، حاضر و ناظر، عالم الغیب، مختار کل صرف رب تعالیٰ کو سمجھتا ہے۔ اور اس کا یہ نظریہ بھی نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے جبراً کام کرا سکتا ہے۔ اور محض ان کے ساتھ اور تعلق کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو جائز ہے۔

مثلاً یوں کہتا ہے کہ اے پروردگار! میرا تیرے پیغمبر پر ایمان ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اولیاء کی محبت کا واسطہ دے کر میں تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرا ان سے محبت کرنا ایک نیک عمل ہے اور اس نیک عمل کی وجہ سے میں تو سل کرتا ہوں۔ اور آنحضرت ﷺ کے وسیلے سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ

چونکہ میں تیرے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں اس کی وجہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو یہ وسیلہ جائز ہے۔ اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ اور یہ وسیلہ اسی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

بِئْسَمَا اشْتَرُوا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْۙ بَرِيۙءٌۢ بِهٖۙ وَهٖۙ حِيۙزٌۭ لِّجۜوَانِهِۦۙمْۙ
 خریدی اپنی جانوں کے لئے۔ اپنی جانوں کے لئے انہوں نے کفر خرید کر براسودا کیا۔ کس چیز کا کفر کیا.....

اَنْ يَّكْفُرُوۡا۟ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُۙ يَٰۤاٰ۟مِنۡ كَافِرٰتٍۭۙ
 تعالیٰ نے نازل فرمائیں بغیاً سرکشی کرتے ہوئے اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْۢ
 فَضْلِهٖۙ يَٰۤاٰ۟مِنۡ كَافِرٰتٍۭۙ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌۭۙ قَدِيۡرٌۭۙ
 جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اس پر کسی کا زور اور اختیار نہیں چلتا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا.....

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖۙ مَنْ يَّشَآءُۙ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌۭۙ قَدِيۡرٌۭۙ
 کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ان کے کفر اور انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 فَبَآءٌۭ وَبِغَضَبٍۭ عَلٰى غَضَبٍۭۙ پَسِ لَوۡ تَۤا۟مَنۡتَۙ بِرَحْمَتِ اللّٰهِ لَفَسَدۡتَۙ
 ایک غضب پہلے پیغمبروں کی نافرمانی کا اور دوسرا غضب آخری پیغمبر ﷺ کے انکار
 کرنے کا۔ وَلِلۡكٰفِرِيۡنَ عَذَابٌۭ مُّهِۡنٌۙ اور کافروں کے لئے عذاب ہے
 رسوا کرنے والا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا
 نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا
 وَرَاءَهُ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ
 فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى
 بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ
 وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
 وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ ۗ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
 وَاسْمَعُوا ۗ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَأَشْرَبُوا
 فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۗ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُ
 كُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾
 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ
 خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا
 قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾
 وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ
 الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ
 سَنَةٍ ۗ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ
 يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ ۚ

لفظی ترجمہ :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اٰمِنُوْا ايمان لاؤ
 بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اس چيز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے قَالُوْا کہتے
 ہيں نُوْمِنُ ہم ايمان رکھتے ہيں بِمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا اس چيز پر جو
 ہماري طرف نازل کي گئی وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَّرَاۤءَہُ اور انکار کرتے ہيں
 اس کے علاوہ کا وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے مُصَدِّقًا لِّمَا
 مَعَهُمْ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔

قُلْ اَپ (صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِمْ) کہہ دیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ اَنْبِیَاءَ اللّٰہِ پس
 تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے

خالص مِّنْ دُونِ النَّاسِ دوسرے لوگوں کے سوا فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ
پس تم موت کی تمنا کرو اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اكر تم سچے ہو۔

وَلٰكِنْ يَّتَمَنُّوْهُ اَبَدًا اور وہ اس موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے
بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيْهِمْ اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔
وَلَيَتَجَدَّدَنَّ هُمْ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو
اَحْرَصَ النَّاسِ سب لوگوں سے زیادہ حریص علیٰ حَيٰوَةٍ زندگی پر
وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اور ان سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا
يَوْمَۃً اَحَدُهُمْ ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ
سَنَةٍ کاش کہ اس کو ہزار سال عمر دے دی جائے۔

وَمَا هُوَ اَحْوَا لَانْكَ نَهِيْسَ هٗ وَهٗ عَمْرٍ بِمُزْحٰزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ
دور کرنے والی اس کو عذاب سے اَنْ يُعَمَّرَ یہ کہ اگر اس کو عمر دے دی
جائے وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ
کرتے ہیں۔

رَبِّكَ :

بنی اسرائیل اور یہودیوں کی برائیوں اور تخریب کاریوں کا ذکر چلا آ رہا ہے اسی

سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

توراة وانجیل کی تصدیق :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان (یہودیوں) سے کہا جاتا ہے اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ اٰیْمَانٌ لَّاۤ اُوْا س چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ یعنی قرآن پاک پر اور آخری پیغمبر کا تشریف لانا بھی تمہارے علم میں ہے اور تم بخوبی جانتے ہو کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ وہی پیغمبر ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ اور تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوگا۔ لہذا جب تم ان تمام علامتوں اور نشانیوں سے واقف اور آگاہ ہو تو اب اس کتاب قرآن کریم پر ایمان لاؤ۔ اس کے جواب میں.....

قَالُوْا یٰہودِیُّوْنَ نَعْمَ اٰیْمَانٌ لَّاۤ اُوْا س چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی۔ ہم تو توراة پر ایمان لانے کے پابند ہیں۔ وَیَكْفُرُوْنَ بِمَاۤ وَّرَاۤءَہٗ اور انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا۔ کہ توراة کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے دو جواب دیئے ہیں

①..... ایک تحقیقی ②..... دوسرا الزامی۔

تحقیقی جواب یہ ہے۔ فرمایا.....

①..... وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ حق ہے

تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم حق ہے اور اس میں تمام مسائل حق پر مبنی ہیں۔ تو کیا حق پر ایمان لانا ان کے فریضہ میں داخل نہیں ہے؟۔

② اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ان کی کتابوں توراہ، انجیل، زبور کا مصدق ہے۔ ان کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں جو عقائد اور نظریات بیان کئے گئے ہیں، صحیح ہیں۔ اور مصدق کو ماننا اور تسلیم کرنا دراصل مصدق جس کی وہ تصدیق کر رہا ہے کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔ تو مصدق کا انکار کرنا مصدق کا انکار کرنا ہے۔

کیونکہ قرآن کریم اگر عقائد اور نظریات ان کتابوں سے مختلف بیان کرتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتابوں میں عقائد اور نظریات اور ہیں اور اس کتاب میں عقائد اور نظریات اور ہیں۔ اس لئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ بات تو ہے نہیں؟ لہذا ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ فقط زبانی دعویٰ ہی ہے۔ بلکہ ان کا توراہ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ آگے تین شقوں میں ان کو الزامی جواب دیا گیا ہے.....

پہلی شق :

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

قُلْ آي (صَلَّى عَلَيْهِ) کہہ دیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ پس تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے؟ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو۔

توراہ کو مانتے ہو تو کیا ظالمو! توراہ میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کرو۔ یہ موجودہ یہودیوں کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ قاتل تو ان کے بڑے تھے۔ اگر توراہ کو مانتے ہوتے تو پیغمبروں کو قتل

نہ کرتے۔ لہذا تمہارا توراہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا غلط ہے۔

دوسری شق :

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دریا کو پھاڑ کر راستے بنائے دشمن کو ان کے سامنے غرق کیا۔ وادی تیبہ میں بادلوں کے ذریعے سائے کا انتظام فرمایا۔ کھانے کے لئے کھیر اور بٹیرے نازل فرمائے۔ پینے کے لئے پتھر سے پانی کے بارہ چشمے جاری فرمائے۔ اور بے شمار نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْكُمْ بَعْدِهِ پھر تم نے بنا لیا کچھڑے کو معبودان کے جانے کے بعد۔ یہ ہے تمہارا ایمان کہ جو آڑ بنا کر قرآن مجید کو ماننے سے انکار کرتے ہو کہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں۔ جو ہماری طرف اتارا گیا ہے۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں غیر اللہ کی عبادت سے منع نہیں کیا تھا۔ اگر تم ان کی بات مانتے تو کچھڑے کی پوجا نہ کرتے۔

کچھڑے کے متعلق پہلے بھی بیان ہوا ہے اور اس کی تفصیل سولہویں پارے میں آئے گی۔ یہ بنی اسرائیلی جب مصر سے آئے تھے تو ان کی عورتیں قبطنی عورتوں سے (فرعونوں کی قوم قبطنی تھی) زیور مانگ کر لائی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان زیورات سے منع فرمادیا کہ ان کا استعمال کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ پہلی شریعتوں میں مالِ غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہماری شریعت میں مالِ غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

”سامری“ اور مکر و فریب :

تو انہوں نے وہ زیورات جنگل میں پھینک دیئے۔ بنو اسرائیل کی ایک شاخ تھی ”قبیلہ بنو سامرہ“ اس خاندان کا ایک آدمی تھا ”موسیٰ بن ظفر سامری“ اس نے وہ زیورات اٹھائے اور ان کو ڈھال کر پچھڑا بنا دیا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی بھی اس کے پاس تھی وہ اس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جب پاؤں اٹھاتا تو وہاں ہریالی ہو جاتی تھی اس نے محسوس کیا کہ اس میں کوئی کرشمہ ہے۔ تو اس نے وہ مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔

پچھڑا بنا کر وہ مٹی اس میں ڈالی تو پچھڑے سے ٹیس، ٹیس کی آواز آنے لگی۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ جو ٹیس، ٹیس کی آواز آرہی ہے یہی تمہارا رب ہے جو اس کے اندر بول رہا ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں دیر ہو گئی ہے کیونکہ رب تو یہاں ٹیس، ٹیس کر رہا ہے۔ اور وہ کوہ طور پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں ایسے بے وقوف بھی تھے جنہوں نے پچھڑے کو رب مان کر اس کی پوجا شروع کر دی کوئی اس کے رکوع میں ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے۔ کوئی عطر لگا رہا ہے کوئی اس پر چادر چڑھا رہا ہے۔ کوئی کچھ کر رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے (سب نے نہیں کچھ نے) پچھڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد فرمایا.....

وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ کہ پچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ پچھڑا ان زیورات سے بنایا گیا تھا۔ جن کا استعمال تمہارے لئے جائز نہیں تھا تو ان سے رب تیار کرنا کس طرح جائز ہو گیا۔

تیسری شق :

کہ بنی اسرائیلی جب وادی تیبہ (وادی سینائی) میں پہنچے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لئے کوئی قانون اور ضابطہ حیات ہونا چاہیے۔ کیونکہ کوئی قوم آئین کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پہلے ہم فرعون کے غلام تھے ان کا آئین ہم پر نافذ تھا۔ اب چونکہ ہم آزاد قوم ہیں لہذا اب ہمارے لئے اپنا قانون ہونا چاہیے۔ اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو توراہ عطا فرمائی اور یہ لوگ توراہ کو سن کر کہنے لگے کہ اس کے احکامات تو بہت سخت ہیں اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے۔ کس طرح درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

رفع طور :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اکھيڑ کر ان کے سروں پر اس طرح کھڑا کر دیا جس طرح یہ مسجد کی چھت ہمارے سروں پر ہے۔ اور کہا ہم نے.....

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ وَاسْمَعُوا اور سنو قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مانا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب ہم نے سن لی ہے مگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ سبق دیتا ہے کہ وعدہ کر کے بگڑ جاؤ؟۔

وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور پلادی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے

کی محبت بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ
 اِيْمَانُكُمْ آپ (ﷺ) فرمادیں بری ہے وہ چیز جس کے لئے حکم کرتا ہے
 تمہیں تمہارا ایمان اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو۔ کیا تمہارا ایمان تمہیں
 پھٹڑے کی پوجا کا حکم دیتا ہے۔ اور تمہارا ایمان یہ ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دو تم کس منہ
 سے کہتے ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے۔ پھر یہ سب کچھ
 کرنے کے باوجود کہتے تھے کہ آخرت کا گھر جنت تو صرف ہمارا ہے۔ چنانچہ اسی بارہ
 میں آگے آئے گا.....

قَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصْرِي يَهُودِيُوْنَ نے کہا
 کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں داخل ہو سکتا اور عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں
 ہمارے سوا کوئی نہیں داخل ہو سکتا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے.....
 قُلْ اٰپ (ﷺ) فرمادیں اِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ اِگر ہے
 تمہارے لئے آخرت کا گھر عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص تمہارے
 ہی لئے مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ دوسرے لوگوں کے سوا فَتَمَنُّوْا الْمَوْتَ پس تم
 موت کی تمنا کرو اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ تمہارے اور اللہ کے
 درمیان صرف موت ہی حائل ہے۔ لہذا جلدی موت کی تمنا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو
 کہ یا اللہ! ہمیں جلدی موت دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے
 ہیں.....

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا اور وہ اس موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ (کبھی
 بھی)۔ مِمَّا قَدْ مَرَّ اَيْدِيْهِمْ اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا

ہے۔ ان کو اپنے کرتوتوں کا علم ہے۔ لہذا یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی تھی ان کے متعلق اس مقام پر تفسیروں میں بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کئے گئے ہیں.....

22

﴿موت سے مومنین کی محبت کے واقعات﴾

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ :

①..... حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی نماز کا وقت ہو گیا با وضو تھے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور اپنی چادر بچھا کر نماز شروع کر دی ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا اباجی تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نے نماز شروع کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا.....

لَا يُبَالِي أَبُوكَ عَلَى الْمَوْتِ سَقَطَ أَمْ سَقَطَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ بِيَا
تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر گرے گا یا موت اس پر گرے۔ یہ حضرات تو موت کو تلاش کر رہے تھے موت اپنا کام کرے گی اور ہم اپنا کام کریں گے۔

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ :

②..... حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اس طرح زخمی ہوئے کہ نیزہ بدن کے ایک طرف سے لگا اور دوسری طرف نکل گیا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا فُزْتُ بِرَبِّ الْكُفَّةِ كَعَبَةِ رَبِّ كَيْسَمِ! میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ساتھیو! مجھے مبارک دو۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کے

بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں تو موت سے خوش ہو رہا ہوں اَلَا اِنَّ الْاٰقِبٰى
الْاٰجِبَةَ مُحَمَّدًا وَحَزْبَهُ اب میری ملاقات ہوگی آنحضرت ﷺ سے اور
دوسرے ساتھیوں سے۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی موت سے محبت :

③..... حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایران کے ایک محاذ پر ایرانیوں کے خلاف
لڑ رہے تھے رستم بن فرخ زار ایرانیوں کا بڑا قابل جرنیل تھا۔ اس نے دھمکی آمیز خط
لکھا کہ دیکھو انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ انسانی
ہمدردی کی وجہ سے تمہیں کہتا ہوں کہ تم واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ جو تمہارے
ساتھ جو شیلے نو جوان ہیں ان کو نہ مرواؤ۔ کسی کی ماں روئے گی کسی کی بیوی روئے گی،
کسی کے بچے یتیم ہوں گے، موت کے منہ میں نہ آؤ۔ اور اپنی بھینٹ، بکریاں، اونٹ جا
کے چراؤ۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا، فرمایا یاد رکھو! فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمٌ بے
شک میرے ساتھ ایسی قوم ہے يُحِبُّونَ الْمَوْتَ وہ موت کو اس طرح پسند کرتے
ہیں كَمَا يُحِبُّونَ الْاَعَاجِمَ الْخَمْرَ جس طرح (تم) عجمی (لوگ) شراب کو
پسند کرتے ہو۔ ان کو موت سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ موت سے
ڈرتے ہیں۔

فنا فی اللہ کی تہہ میں بقا کا راز مضمحل ہے

جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

شہادت کی موت کو یہ لوگ حیات سمجھتے ہیں۔ رستم دھمکی دے کر چلا گیا اس

کے بعد دوسرا جرنیل آیا ”بامان ارمنی“۔

☆..... اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے پاس کتنے فوجی ہیں؟۔

☆..... سچے لوگ تھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی فرمایا میرے ساتھ صرف سات سو فوجی ہیں۔

☆..... اس نے کہا میرے پاس تیرہ ہزار سے زائد فوجی ہیں۔ لہذا تم موت کے منہ میں نہ آؤ۔ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔

☆..... حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا أَوْاعِظُ أَنْتَ أُمَّ مُقَاتِلٍ تو ہمیں نصیحت کرنے کے لئے آیا ہے یا لڑنے کے لئے؟۔

☆..... کہنے لگا لڑنے کے لئے آیا ہوں۔ مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے لئے پیچھے سے کمک (مدد) کہاں سے آئے گی؟۔ کیونکہ میرے پاس تیرہ ہزار فوج ہے اور پیچھے سے مزید فوج بھی آسکتی ہے۔

☆..... حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا أَمَا فِي الْأَرْضِ قَلِيلًا زَمِينٍ سے تو ہمارے لئے کمک نہیں آئے گی۔ بلکہ آسمان سے مدد آئے گی۔

چنانچہ جنگ ہوئی سات سونے تیرہ ہزار کو شکست فاش دی۔ کافروں کا ہزار آدمی مارا گیا۔ اور ادھر صرف سات مسلمان شہید ہوئے۔ جو جنت کا طالب ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ تو فرمایا یہ یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ یہ موت کی تمنا تو کیا کریں گے بلکہ وَكَتَجِدْنَاهُمْ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے

ان لوگوں کو اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوةٍ سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اور ان سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا۔ اور مشرکوں میں سے ایسے بھی تھے جو قیامت کے منکر تھے۔ عیسائی اور یہودی قیامت کے قائل تھے مگر ان کو اپنے ایمان کا پتہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں وہاں جو کچھ ملنا ہے لہذا وہ کہتے تھے کہ اسی دنیا میں کھا، پی لو اور جو کچھ کرنا ہے یہیں کر لو۔ اس لئے کہ.....

يَوَدُّ اَحَدُهُمْ اَنْ يُّعَمَّرَ اَلْفَ سَنَةٍ كَاشَ كَاشَ كَاشَ کہ اس کو ہزار سال عمر دے دی جائے وَمَا هُوَ بِمُرْخِرِجِهٖ مِنَ الْعَذَابِ حالانکہ نہیں ہے وہ عمر دور کرنے والی اس کو عذاب سے اَنْ يُعَمَّرَ یہ کہ اگر اس کو عمر دے دی جائے۔ یعنی اگر ان کو ہزار سال عمر دے دی جائے تو کیا یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ ابلیس لعین کتنے ہزار سال سے زندہ ہے؟ تو کیا جب وہ مرے گا عذاب الہی سے بچ جائے گا۔ اور یہ بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے ان کی زبانیں حق کے خلاف بڑی تیز ہیں۔ اور ان کے اعمال بہت برے ہیں۔ لہذا ان کو ہزار سال عمر کامل جانا عذاب سے نہیں بچا سکتا۔

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس کے مطابق ان کو بدلا دے گا۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ
 قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٤﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا
 لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ
 اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا
 إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا
 الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَاهِدًا
 نَبَذَهُمْ فَرِيقًا مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ
 اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ
 كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

لفظی ترجمہ :

قُلْ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمادیں مَنْ كَانَ عَدُوًّا جو شخص دشمن ہے

لَجِبْرِيلَ جبرائیل (علیہ السلام) کا فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ پس بے شک اسی نے نازل کیا ہے اس قرآن کریم کو عَلٰی قَلْبِكَ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دل پر بِاِذْنِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مُصَدِّقًا قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لئے۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ اور جبرائیل اور میکائیل (علیہ السلام) کا فَاِنَّ اللّٰهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ دشمن ہے کافروں کا۔

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کیں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف آیتٍ مَّ بَيِّنَةٍ صَافٍ صَافٍ آیتیں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اور نہیں انکار کرتے ان آیتوں کا اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ مگر نافرمان لوگ۔

اَوْ كَلَّمَا عٰهَدُوْا اور جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے عٰهَدًا نَبَذُوْهُ وعدہ کرنا پھینک دیا اس کو فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک فریق نے بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ بلکہ ان میں سے اکثر ایمان

نہیں لاتے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ رَجَبِ آيَاتِ ان كے پاس رسول مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے اَوْتُوا الْكِتَابَ جن کو اللّٰه تعالیٰ کی کتاب دی گئی كِتَابَ اللّٰهِ اللّٰه تعالیٰ کی کتاب کو وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ اپنی پشتوں کے پیچھے كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔

شانِ نزول، فدک کا باغ :

ان آیات کا شانِ نزول اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے قریب تین دن کی مسافت پر ایک مقام تھا جس کا نام تھا ”فدک“ یہاں پر کھجوروں کے باغ بھی تھے۔ رافضیوں نے جس باغ فدک کی رٹ آج تک لگائی ہوئی ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے غصب کر کے اہل بیت کا حق مارا ہے۔ وہ باغ اسی علاقہ ”فدک“ میں تھا اسی وجہ سے اس کو ”باغ فدک“ کہتے ہیں۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک نہیں تھے بلکہ وہ مال وقف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متولی تھے۔ اس کی آمدنی سے آپ اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاتے تھے اور اصحاب صفہ (رضی اللہ عنہم) آپ کے مدرسہ کے جو طالب علم تھے ان پر بھی خرچ کرتے تھے اور مساکین اور ضرورتمندوں پر بھی

خرچ کرتے تھے۔ اور مہمانوں کی خدمت بھی اس سے کرتے تھے۔ تو وہ آنحضرت ﷺ کی ملکیت نہیں تھا کہ وراثت میں حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو ملتا۔ بلکہ آپ کی ملکیت بھی ہوتا تو ان کو نہیں مل سکتا تھا۔ کیونکہ پیغمبر ﷺ کے مال میں وراثت نہیں چلتی۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے.....

نَحْنُ مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ وَلَا نُورِثُ مَا تَرَكَهُ صَدَقَةٌ هُمْ
انبیاء ﷺ کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اور نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ، خیرات ہوتا ہے۔ بلا وجہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم پر اعتراض کرتے ہیں۔

پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان حضرات نے یہ باغ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نہ دے کر اہل بیت کا حق مارا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تو ان کو یہ حق نہیں دیا۔ کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور تقریباً چار سال خلیفہ رہے۔ ان کو اختیار تھا۔ اگرچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تو فوت ہو چکی تھیں مگر ان کی اولاد تو موجود تھی۔ یہ باغ ان کی اولاد کے حوالے کر دیتے۔ مگر انہوں نے اولاد کو نہ دیا۔ تو پھر جس طرح اصحاب ثلاثہ رضی اللہ عنہم نہ دے کر ظالم ٹھہرے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں (معاذ اللہ تعالیٰ)۔

لیکن اصل بات یہ ہے کہ رافضیوں کا نظریہ بالکل غلط اور بے سرو پا ہے تو خیر یہ فدک کا مقام بڑا مشہور تھا اور اس کی شہرت کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے علاقہ میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم جس کا نام عبداللہ بن صوریا تھا وہ اس علاقہ میں رہتا تھا۔ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ اور بڑا شریر قسم کا آدمی تھا۔ چونکہ اپنے مذہب کا بڑا پیشوا تھا

اور لوگ دور دراز سے اس کو ملنے کے لئے آتے تھے یہ لوگوں کو الٹنی سیدھی باتیں پڑھا سکھا کر بھیجتا کہ جا کر نبی سے یہ سوال کرو۔ اور ابو بکر (رضی اللہ عنہ) سے یہ سوال کرو۔ عمر (رضی اللہ عنہ) سے یہ سوال کرو۔

فدک میں یہودیوں کا ”بیت المدارس“ کے نام پر ایک کالج تھا۔ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کالج میں تشریف لے گئے کہ ان میں سے جو لوگ خود میرے پاس نہیں آتے اور میں بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں اپنا پروگرام پیش کروں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے علم میں نہیں تھا اتفاق کی بات ہے کہ جب آپ ﷺ تشریف لے گئے ابن صورتیا بھی کالج میں تھا سوال و جواب شروع ہوئے۔ ہر بات میں وہ لا جواب ہوا۔

آخر میں کہنے لگا اچھا بتاؤ کہ تمہاری طرف وحی کون سا فرشتہ لاتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”جبرائیل علیہ السلام“ کہنے لگا یہ تو ہمارا دشمن ہے کہ آپ (ﷺ) کے پاس ہماری چغلیاں کھاتا ہے۔ کہ ان کے بڑوں کے کئے ہوئے گرتوت بذریعہ وحی آنحضرت ﷺ کو بتا دیتا ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کی جگہ میکائیل علیہ السلام ہوتے جن کے ذمہ بارشوں کا نظام ہے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آتے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

قُلْ أَفْ جِبْرَائِيلَ (ﷺ) فَرَمَادِیْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیْلَ جَوْشَخْصِ دَشْمَنِ

ہے جبرائیل (علیہ السلام) کا۔

”جبرائیل“ کا معنی :

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”جبر“ جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ

سکتے ہیں۔ اور ”جبر“ جیم کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ”جبر“ کا معنی
عبرانی زبان میں ”بندہ“ ہے۔ اور ”ایسل“ کا معنی ”اللہ“ ہے۔ تو ”جبریل“ کا معنی
”عبداللہ“ ہوا۔ میکائیل کا معنی بھی عبداللہ ہے۔ کیونکہ ”میک“ کا معنی ”عبد“ اور
”ایسل“ کا معنی ”اللہ“ ہے۔ اسی طرح اسرافیل کا معنی بھی ”عبداللہ“ ہے۔ یہ تینوں
معانی امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کتاب التفسیر میں بیان فرمائے ہیں۔ اور عزرائیل (علیہ السلام)
کا نام کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا۔ قرآن کریم میں ”ملک الموت“ کا لفظ آیا
ہے۔

البتہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں انہوں نے فتح الباری میں
بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اور تابعین رضی اللہ عنہم سے عزرائیل نام نقل فرمایا ہے۔ تو تینوں کی
مناسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ ”عزرائیل“ کا معنی بھی ”عبداللہ“ ہی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دو دفعہ دیکھا ہے۔

(۱) ایک دفعہ زمین پر۔

(۲) اور دوسری مرتبہ معراج کی رات آسمانوں پر۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ان کے چہ سو پر تھے اور انہوں نے
سارے افق کو گھیرا ہوا تھا۔ ان دو مرتبہ کے علاوہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام
تشریف لائے ہیں یا تو حضرت ”دجیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ“ کی شکل میں یا پھر کسی
دیہاتی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

یہود کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی :

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ جو شخص دشمن ہے جبرائیل (علیہ السلام) کا فِائِنَةٌ
نَزَّلَتْهُ پس بے شک اسی نے نازل کیا ہے اس قرآن کریم کو عَلَي قَلْبِكَ آپ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے ساتھ کسی کی دشمنی کا
کیا جواز ہے؟۔ وہ تو کلامِ الہی آپ کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کرتا ہے۔
وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بجالاتا ہے۔ خواہ وہ حکم آپ کی موافقت میں جائے یا مخالفت
میں۔ اس میں اس کا کیا تصور ہے؟۔ وہ تو سفیرِ محض ہے۔ سفیر سے کیا دشمنی دنیا میں
بھی کسی کے قاصد اور سفیر کے ساتھ لڑنا نادانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی بین
الاقوامی قانون یہی تھا کہ سفیروں کو کچھ نہ کہا جائے۔ چنانچہ آنحضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پاس
”ثمائمہ بن اثال“ اور ”عبداللہ بن نواحہ“ آئے۔

..... ❁ آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ اور کہاں سے آئے
ہو؟۔

☆..... کہنے لگے ہم ”یمامہ“ سے آئے ہیں۔ ”یمامہ“ عرب کے ایک مشہور
قبیلہ کا نام ہے۔ وہاں کے ایک بڑے رئیس مسیلمہ کذاب خبیث نے نبوت کا دعویٰ کیا
تھا۔ تو کہنے لگے کہ ہم ”یمامہ“ سے آئے ہیں ہمیں ہمارے نبی ”مسیلمہ“ نے بھیجا
ہے۔ اس کا پیغام آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو پہنچانے کے لئے آئے ہیں۔

اس نے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ صلح کر لو اس طرح کہ شہری علاقے کے تم نبی
اور دیہاتی علاقوں کا میں نبی ہوں یا تم مجھے لکھ دو کہ تمہاری وفات کے بعد میں نبی ہوں
گا۔ اور تمہارا خلیفہ ہوں گا۔

..... ❁ آنحضرت ﷺ نے ان سے پوچھا کہ وہ حقیقتاً سچ، مچ نبوة کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور تم اس کے ماننے والے ہو؟۔

..... ☆ کہنے لگے: ہاں!

..... ❁ ابوداؤد شریف کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا كَوْلًا اَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَقَتَلْتُمْ كَمَا اِذَا بَيْنَ الْاَقْوَامِ طُورٍ بِرِيهٍ قَانُونَ نَهْ هَوْتَا كَه قاصدوں اور سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا میں تمہیں قتل کر دیتا اس قول کی وجہ سے کہ تم میلہ کو نبی مانتے ہو۔ کیونکہ ختم نبوة کا منکر قاعدے کے مطابق واجب القتل ہے۔

منکر ختم نبوة کی سزا :

وقت گزر گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کو فے کے گورنر مقرر ہوئے ایک دن کو فے کے چوک میں تشریف لائے۔ ایک آدمی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ کھڑے ہونے کا نہ ہی معمول تھا اور نہ ہی عادت تھی۔ اور نہ ہی اس طرح غور سے دیکھتے تھے۔ اچھی طرح قریب سے جا کر دیکھا اور فرمایا.....

..... ❁ بھائی جی! آپ کا نام کیا ہے؟۔

..... ☆ اس نے بتایا کہ میرا نام ”عبداللہ بن نواحہ“ ہے۔

..... ❁ فرمایا تم آنحضرت ﷺ کے دور میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے؟۔

..... ☆ کہنے لگا، ہاں! میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور سا تھی تھا ہم اپنے نبی

مسيلمہ (کذاب) کا پیغام لے کر آئے تھے۔

فرمایا: اب بھی تو مسيلمہ کو نبی مانتا ہے؟

کہنے لگا، ہاں! اب بھی اس کو نبی مانتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا خذوہ

اس کو پکڑو۔ چنانچہ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ فرمایا: اس وقت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ تو قاصد اور سفیر تھا۔

آج تو قاصد نہیں ہے۔ اپنے اس گندے عقیدے سے توبہ کر لے

ورنہ میں تیرا سر قلم کرادوں گا۔

اس نے کہا کہ عقیدہ تو کوئی نہیں چھوڑتا۔ (جس طرح آج کل

قادیانی ڈٹے ہوئے ہیں)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے کارندوں کو حکم دیا

کہ سولی گاڑھ دو۔ حالانکہ نہ تو اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور نہ ہی

اس نے بیڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ چوراہے پر اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔

کہ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کی یہ سزا ہے۔

لیکن نوجوانو یاد رکھنا! یہ سزا دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شریعت عوام کو

اجازت نہیں دیتی کہ جو کافر ہو، مرتد ہو اس کو قتل کر دو۔ اور چور کے ہاتھ کاٹ

دو۔ زانی (اگر شادی شدہ ہے تو اس کو) سنگسار کر دو۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو

کوڑے مارو۔ اور شرابی کو کوڑے مارو۔ عوام اس کی مجاز نہیں ہے اگر از خود کوئی ایسا

کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ تو جبرائیل علیہ السلام تو سفیر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کے دل پر قرآن اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور تمہری ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لئے۔ ماننے والوں کو رب تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ فرمایا.....

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا وَجِبْرِيْلَ وَمِيكَالَ اور جبرائیل اور میکائیل (علیہ السلام) کا۔ ان دونوں فرشتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا حالانکہ ملائکہ میں یہ بھی شامل ہیں کیونکہ ابن صوریانے ان کے نام لئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے فرشتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل (علیہ السلام) کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں.....

اولیاء اللہ کی توہین پر اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ :

مَنْ عَادَىٰ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَّاكَ بِالْحَرْبِ جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کو جنگ کا الٹی میٹم ہے۔ یاد رکھنا! کوئی آدمی اللہ والوں کے ساتھ عداوت کر کے سکون میں نہیں رہا۔

”بہاری“ اور مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ :

بہاریوں کی ذلت تمہارے سامنے ہے کہ در بدر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ نہ بنگلہ دیش ان کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے اور نہ پاکستان۔ ان بہاریوں نے اللہ تعالیٰ کے ولی ”مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ“ کی توہین کی تھی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ صوبہ بہار میں ایک مقام تھا ”بہاگل پور“ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرنے کے لئے وہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت لیگ اور کانگریس کا بڑا زور تھا۔ ان بہاریوں نے حضرت کو اسٹیشن پر روک لیا اور کہا کہ ہم تمہاری تقریر نہیں سنتے۔

حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے نہ سنو، مگر مجھے اپنے دوستوں کو تو ملنے دو۔ یہ لوگ بد تمیزی پر اتر آئے اور وہیں اسٹیشن پر حضرت کی ڈاڑھی میں شراب ڈالی تھی۔ اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے۔ رائے کے ساتھ اختلاف کرو۔ مگر توہین کا کیا مطلب ہے؟۔ اس اللہ والے کی ناقدری کا نتیجہ بھگت رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔

قیام پاکستان اور بزرگوں کی پیش گوئی، تجاویز :

دیکھو! بات آئی گئی ہوگی۔ تو یہ بھی سمجھ لو کہ اصولی طور پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ملک کی تقسیم کے قائل نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اور حقیقت ہے کہ دس سال بعد تمہیں اقرار کرنا پڑا کہ ان حضرات نے جن خرابیوں کی نشاندہی کی تھی وہ اسی طرح سچ ثابت ہوئی ہیں۔

بہر حال حضرت تقسیم ہند کے قائل نہیں تھے۔ مگر جب پاکستان بننے کا فیصلہ

ہو گیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ”رفیع قدوائی“ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ”محمد اسماعیل نواب آف چتاری“ کے پاس یہ اس وقت ہندوستان میں مسلم لیگ کا بہت بڑا لیڈر تھا۔ اور صوبے کا امیر تھا۔ پیغام یہ بھیجا تھا کہ بھائی! تم مقدمہ جیت گئے اور ہم ہار گئے۔ مگر ہماری ایک بات تم مان لو اور فیصلہ کرنے والوں تک یہ بات پہنچاؤ۔ کیونکہ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ آپ چونکہ صوبے کے امیر ہیں۔ لہذا ہماری یہ بات وہاں تک پہنچا دو وہ یہ کہ پاکستان کے لئے دہلی تک کا رقبہ لے لینا اور بنگال نہ لینا۔ یہ بنگالی تمہارے ساتھ تیس سال بھی نہیں رہیں گے۔ انہوں نے یہ بات سہارن پور میں خطبے کے دوران بھی کہی تھی میں خود اس خطبے میں موجود تھا ان کی تقریر کانوں سے سنی تھی۔

جو بزرگوں نے کہا تھا وہ حقیقت ثابت ہوا ان کا وہ خطبہ پاکستان میں طبع نہیں ہو سکتا یہاں پابندی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ”ہندوستان میں مسلمانوں کی خیر نہیں اور پاکستان میں اسلام کی خیر نہیں ہوگی“۔ خیر بات دور چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مَّبِينَاتٍ ۖ وَالرَّبُّ تَحْقِيقٌ ۖ هُمْ فِي نَازِلٍ كَيْسٍ
 آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف صاف صاف آیتیں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا
 الْفٰسِقُونَ اور نہیں انکار کرتے ان آیتوں کا مگر نافرمان لوگ اَوْ كَلَّمَا
 عٰهَدُوْا اور جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے عٰهَدًا نَبَذُوْهُ وَعَدُوْهُ لَمَّا كَرِهَتْ
 اس کو فَسِرْتُمْ مِنْهُمْ ان میں سے ایک فریق نے بَلْ اَكْثَرُهُمْ
 لَا يُؤْمِنُوْنَ بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے (یعنی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ) مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ توراہ، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے۔

نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے اُوْتُوا الْكِتَابَ جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب دی گئی كَتَبَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وَرَأَىٰ ظُهُورِهِمْ اپنی پشتوں کے پیچھے۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب توراہ سے روگردانی کی اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کسی درجے میں بھی تسلیم کرتے تو خاتم النبیین ﷺ پر ایمان لے آتے۔ کیونکہ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (پارہ : ۹)۔ جو رسول نبی امی ہے جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں توراہ اور انجیل میں۔ آج بھی آپ ﷺ کی آمد کی بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ باوجودیکہ پادریوں نے بڑی تحریفات کی ہیں بلکہ جن کتابوں میں آپ ﷺ کا ذکر مبارک صراحت کے ساتھ موجود ہے ان کو ماننے کے لئے ہی تیار نہیں ہیں کہ یہ ہماری کتابیں ہیں۔

”انجیل برنباس“ اور عیسائی :

چنانچہ انجیل ”برنباس“ جس کا اردو نسخہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ بھائی! یہ تمہاری کتاب کیوں نہیں ہے؟۔ ”برنباس“ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ ان کی مرتب کی ہوئی ہے اس

لئے اس کا نام ”انجیل برنباس“ ہے۔ اور ”متی، لوقا، مرقس اور یوحنا“ تو تابعی ہیں۔
تابعین کی جمع کی ہوئی اناجیل منظور اور صحابی کی منظور کی ہوئی انجیل نام منظور۔ یہ کیا
بات ہوئی؟۔

نام منظور کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں صاف اور صریح الفاظ میں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”لوگ مجھے رب کا بیٹا
اور شریک بنائیں گے اور مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ آ کہ میری صفائی دیں گے۔ بس ان
الفاظ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے عیسائیت پر
ضرب کاری لگتی ہے اور انجیل برنباس میں دو جگہوں پر صاف لفظ ہیں مُحَمَّدٌ
رَسُوْلُ اللّٰهِ تو فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔

كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور ان میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں۔

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ
 سُلَيْمٍ ۗ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ
 الشَّيْطِينِ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
 ۗ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَ
 مَارُوتَ ۗ وَمَا يَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا
 إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ
 مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ وَ
 مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ
 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ
 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
 مِنْ خَلْقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۗ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا
 وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ۗ لَّو كَانُوا

يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۳﴾ ۴

لفظی ترجمہ :

وَاتَّبَعُوا اور ان لوگوں نے پیروی کی مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ (عليه السلام) کے عہد حکومت میں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ اور نہیں کفر کیا سليمان (عليه السلام) نے وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا اور لیکن جنات اور شیطانوں نے کفر اختیار کیا يُعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔

وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اور وہ چیز جو اتاری گئی دو فرشتوں پر بِبَابِ بَابِلَ (شہر میں) هَارُوتَ وَمَارُوتَ ہاروت اور ماروت (عليه السلام پر) وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے حَتَّى يَقُولَا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ بے شک ہم آزمائش ہیں فَلَا تَكْفُرْ پس تو کفر اختیار نہ کر۔

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ تفریق کرتے تھے اس کے ذریعے بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ مرد اور عورت کے درمیان وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے مِنْ أَحَدٍ کسی کو إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر

اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔

وَيَتَعَلَّمُونَ اور سیکھتے ہیں مَا يَضُرُّهُمْ وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور ان کو نفع نہیں دیتی وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ نہیں ہے اس کے لئے آخرت میں مِنْ خَلْقٍ کچھ حصہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے وَاتَّقَوْا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے لَمْ شُوبَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ البتہ بدلا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ لوگ جانتے۔

جادو کی شرعی حیثیت :

دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں بعض کا تعلق تو اسباب کے ساتھ ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے معرض وجود میں آتی ہیں۔ مثلاً چھری کے ذریعہ گلا کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ سینے میں گولی لگنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ بعض دوائیں مفید ہوتی ہیں کہ ان کے کھانے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اور زہر کا کھانا موت کا سبب ہے۔ غرضیکہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے۔

جادو بھی اسی قسم سے ہے کہ جس کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسباب سے بالاتر ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر ان کا اسباب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صرف رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اور وہ ہو جاتی ہیں۔

معجزہ اور جادو میں فرق :

جیسے معجزہ اور کرامت۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ معجزہ پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ اور کرامت ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ اور اگر ذاتی فعل ہو تو جب چاہیں کر لیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

اسی طرح اگر ذاتی فعل ہے تو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوة عطا فرمائی تو ”ید بیضاء“ اور ”عصا مبارک“ والا معجزہ بھی عطا فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لٹھی پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ رات کا وقت تھا مگر وہاں اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی تھی۔ جب سانپ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، کیا؟.....

وَلَمَّا مَدَّ يَدَهُ وَأَوَّلَمَّ يَدَهُ بِرَأْسِهِ وَنَبَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَنَسَفَ قَرْنَهُ وَجِئَتْ السَّمَاءُ بِالسَّمَاءِ السَّامِيَةِ فَسَبَّحُوا بُحْبُوحًا
یہ سانپ ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ موزی چیز سے بچنا ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا.....

أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور ڈریں نہ، خوف نہ کریں۔ خذْهَا اس کو پکڑ لیں۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى

ہم اس کو پہلی حالت میں بدل دیں گے۔ یہ بھی بلاٹھی بن جائے گی اگر موسیٰ علیہ السلام کا اختیاری فعل ہوتا تو ڈر کر بھاگتے کیوں؟۔ تو جس طرح معجزہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا اسی طرح کرامت ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔

چنانچہ تیسرے پارے میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کی سچی تھیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے مکان پر چوبارہ تھا اس کو جالیاں لگی ہوئی تھیں۔ بڑا ہوا دار تھا۔ یہ اسی چوبارہ میں رہتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے تو تالا لگا کر جاتے تھے وہ اندر کھیلتی رہتی تھیں۔ اور جب واپس آئے.....

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ جَبَّ يَهُيُّ حَضْرَتُ زَكَرِيَّا (عليه السلام)
ان کے پاس واپس آتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے اور پوچھتے انسی لِكِ هَذَا؟ یہ تجھے کہاں سے ملے ہیں؟۔ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَهُوَ فَرَمَاتِي۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ ان کی کرامت تھی کیونکہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے مگر بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کا ذاتی فعل نہیں تھا۔ تو معجزے اور کرامت کا اسباب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور جادو کا اسباب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔

اس مقام پر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جادو کی تیرہ قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اور وہ تمام کی تمام ناجائز اور حرام ہیں۔ شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے جو کہ غیر اللہ سے استعانت ہے وغیرہ، وغیرہ سب حرام ہیں۔ بلکہ اگر کوئی جائز کام دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کے لئے ہو تو وہ بھی جادو کی قسم ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام :

یہودیوں اور عیسائیوں کے مولوی اور پیر جادو کرتے تھے اور اس کے ذریعے جب کرتب کرتے، عوام کو کہتے کہ یہ ہماری کرامت ہے۔ عوام بڑے سطحی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ ”پہنچے“ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بے حساب عوام کے ذہن بگاڑ دیئے تھے۔

پھر اس جادو کی لڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاتے کہ یہ ان سے نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ وہ تو معصوم پیغمبر تھے۔ وہ ایسا برا کام کب کر سکتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی ہے۔ ارشادِ باری ہے.....

وَاتَّبَعُوا اور ان لوگوں نے پیروی کی مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ اس چیز کی جو پڑھتے تھے جناتِ عَلٰی مُلْكِ سُلَيْمَانَ (علیہ السلام) کے عہد حکومت میں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں، جنوں، جانوروں اور پرندوں پر بادشاہی کا حق عطا فرمایا تھا اور وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ اور اس زمانے میں جنات، انسانوں کو نظر آتے تھے اور جادو کرتے تھے تو یہودیوں کے مولویوں اور پیروں نے اس جادو کی پیروی کی ہے۔ جو جنات پڑھتے تھے اور یہ تو کفر ہے۔

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ اور نہیں کفر کیا سلیمان (علیہ السلام) نے وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا اور لیکن جنات اور شیاطین نے کفر اختیار کیا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اور جادو کفر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہ سیکھا نہ سکھایا۔ یہ چیزیں جنات اور شیاطین سے نقل ہوتی آرہی ہیں۔

کرامت اور معجزے کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

اور جس آدمی سے کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہو اس کو ولی نہ سمجھ لینا اور اگر عجیب و غریب چیز کا ظاہر ہونا ولایت کی دلیل ہے تو پھر دجال تو رَئِيسُ الْاَوَّلِيَاءُ ہوگا۔ کہ اس جیسی عجیب و غریب کتیس کون کر سکتا ہے؟۔ وہ بارش برسنے کا حکم دے گا، بادل اکٹھے ہوں گے اور بارش برسانی شروع کر دیں گے۔ زمین پر پاؤں مارے گا زمین سونا، چاندی اگل دے گی۔ اور چیزوں کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرے گا ساری چیزیں اس کے پیچھے چل پڑیں گی۔

لہذا کسی سے عجیب و غریب چیزوں کا ظاہر ہونا اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیں گے کہ مومن ہے یا کافر؟۔ اگر مومن ہے تو پھر دیکھیں گے کہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں؟ اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو پھر ولی نہیں ہے اگر شریعت کا پابند ہے اور اس کے ہاتھ پر کوئی چیز خلافِ عادت ظاہر ہوئی ہے تو وہ کرامت ہوگی۔

ہاروت و ماروت عليہما السلام کا قصہ :

وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ اور وہ چیز جو اتاری گئی دو فرشتوں پر بابل (شہر میں) هَارُوتَ وَ مَارُوتَ ہاروت اور ماروت عليہما السلام پر۔ بابل ملک عراق کا ایک بہت بڑا شہر تھا اور اس کی خاصی آبادی تھی۔ بابل شہر میں جادو کا بڑا زور تھا جس طرح آج کل کراچی ٹھگلوں سے بھرا پڑا ہے۔ لوگوں سے فراڈ کر کے پیسے بنورتے ہیں اور لوگ بے وقوف ہیں دیتے ہیں، اور صرف کراچی ہی نہیں اور بہت سی جگہیں ہیں، گکھڑ بھی خالی نہیں ہے۔

یاد رکھنا! جادو کرنا اور کرانا قطعاً جائز نہیں ہے جائز طریقے سے جن میں شرعی قباحت نہ ہو دم اور تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے پاس بھی مرد، عورتیں تعویذ لینے کے لئے آتے ہیں۔ تعویذ لینے کے بعد عورتیں فیس پوچھتی ہیں میں کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ اگر کوئی خوشی کے ساتھ کچھ دے جائے تو رد بھی نہیں کرتا۔ بڑی حیران ہوتی ہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے تو ہم سے پانچ سو روپیہ مانگا ہے۔ اور فلاں نے تین سو مانگا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ الحمد للہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔

بہر حال بابل شہر میں جادو کا بڑا زور تھا یہودیوں کے مولوی اور پیر کرتے تھے اور اس کو اپنی کرامتوں کا نام دیتے تھے کہ یہ ہماری کرامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جادو اور کرامت میں فرق بتانے کے لئے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت علیہما السلام کو نازل فرمایا۔ وہ فرشتے مجمع لگا لیتے تھے اور لوگوں کو کہتے کہ بھائی یہ تمہارے مولوی اور پیر جو کام کر رہے ہیں یہ جادو ہے۔ ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ کرامتیں نہیں ہیں۔ لوگ کہتے کہ تم تو جادو جانتے نہیں ہو لہذا تم کس طرح کہتے ہو کہ یہ جادو ہے۔ وہ کہتے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جادو کا علم دیا ہے۔ اور بتا بھی سکتے ہیں مگر وہ کفر ہے۔ اس لئے تم جادو نہ سیکھو اور اگر تم اصرار کرو گے تو ہم تمہیں سکھا بھی دیں گے۔ مگر ہم آزمائش اور امتحان میں تمہاری آزمائش کے لئے بھیجے گئے ہیں۔

وَمَا يَعْلَمَنَّ مِنْ أَحَدٍ اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے حتیٰ
يَقُولَٰ یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ بَشَرٌ

آزمائش ہیں فَلَا تَكْفُرْ پس تو کفر اختیار نہ کر۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان سے سیکھتے تھے اور انہوں نے لوگوں کو کچھ چیزیں بتائیں جو منتقل ہوتی آرہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ تفریق کرتے تھے اس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر :

اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ”جادو کا یہ اثر ہے کہ بندے کا گدھا اور گدھے کا بندہ بن جائے“۔ اور ان فرشتوں کے متعلق عجیب قسم کی کہانیاں تفسیروں میں موجود ہیں۔ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

مثال کے طور پر ایک کہانی یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات رکھیں۔ ان فرشتوں کی نگاہ ایک عورت پر پڑ گئی یہ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس عورت سے نفسانی خواہش کی تکمیل کے لئے درخواست کی۔ اس عورت نے خواہش کی تکمیل کے لئے یہ شرط لگائی کہ مجھے اسمِ اعظم سکھا دو۔ جسے تم پڑھ کر آسمانوں پر چلے جاتے ہو اور واپس آجاتے ہو۔ فرشتوں نے اس عورت کو اسمِ اعظم سکھا دیا پھر اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ یہ لڑکا ہے اس کو قتل کر دو ورنہ یہ راز فاش کر دے گا۔

فرشتوں نے ایسا کرنے سے معذرت کی۔ تو عورت نے کہا اچھا یہ شراب پی لو، بڑی لذیذ ہے۔ فرشتوں نے شراب پی لی۔ اور نشے میں آکر انہوں نے لڑکے کو

قتل کر دیا اور زنا کے بھی مرتکب ہوئے۔ اور عورت اسم اعظم پڑھ کر اوپر چلی گئی اور زہرہ ستارہ بن گئی۔ اور ان کو سزا کے طور پر بابل شہر کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ تاکہ یہ سزا بھگتیں۔ حاشا وکلا۔ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں اور خرافات ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے اور آزمائش کے طور پر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لئے بھیجا تھا۔

اس کو تم اس طرح سمجھو کہ رشوت خوروں کو پکڑنے کے لئے ”انٹی کرپشن“ والے نوٹوں پر دستخط کر کے دیتے ہیں کہ یہ نوٹ تم رشوت کے طور پر دو جب وہ دے دیتے ہیں تو چھاپہ مار کر پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ رشوت جو دی گئی ہے یہ بدکاروں کو پکڑنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ان کی برائی کو واضح کرنے کے لئے فرشتے بھیجے گئے تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان بن گئے تھے اور ان میں انسانی خواہشات پیدا ہو گئی تھیں۔ اور پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ معاذ اللہ تعالیٰ۔

☆ فرشتوں کی صفت ہے.....

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ رَبُّ تَعَالَىٰ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرمایا.....

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے کسی کو إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو جادو بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ ہر چیز میں موثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

دیکھو! آگ کا کام ہے جلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے آلاؤ میں ڈالا گیا وہ آپ ﷺ کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا سکی۔ کیونکہ جلانے کا نہیں بلکہ گلے گزار

ہونے کا حکم تھا۔ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانے کا حکم تھا۔ اسی طرح ہو گئی۔

زہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مارنے کا اثر رکھا ہے۔ مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چلو بھر کر پھانک لیا ان کو کچھ بھی نہ ہوا۔ النان کا نزلہ، زکام ختم ہو گیا۔ اور وہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو گئے۔ حالانکہ وہ اتنی تیز تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس میں اثر رکھتے تو ایک ذرے سے مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

وَيَتَعَلَّمُونَ اور سیکھتے ہیں مَا يَضُرُّهُمْ وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسرے نقصان کے علاوہ جادو سیکھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کفر سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور ان کو نفع نہیں دیتی۔ چلو مالی طور پر کچھ نفع ہو بھی گیا تو اس کا کیا فائدہ؟ کافر بن کر حاصل کیا۔ فرمایا.....

وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ نہیں ہے اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ وَلَيَنْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے۔ کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے کافر بن گئے، ایمان ضائع ہو گیا، آخرت برباد ہو گئی۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے وَاتَّقَوْا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور کفر شرک سے بچتے لَمَشُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ البتہ بدلا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ لوگ

جانتے۔ اور آخرت کے نقصان سے بچتے۔

”فال“ نکلوانے کا حکم :

مسئلہ ایک دفعہ پھر سمجھ لیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لئے جتنے عمل کئے جاتے ہیں۔ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ ان کو جائز سمجھ کر کرانے والا بھی کافر اور کرنے والا بھی کافر اور اس کے ذریعے جو کمائی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور یہی حکم ہے ”فال“ والوں کا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے فال نکلوائی فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پس اس نے انکار کر دیا اس کا جو کچھ نازل کیا گیا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر۔

اسی طرح شریعت کی رو سے وہ کافر ہو گیا۔ اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کیا تو اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرامی ہوں گے۔ اور عموماً عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں آپ کا فرض ہے کہ ان کی اصلاح کریں۔ اللہ پاک ہمیں احکام شرعیہ پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ (امین)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾ مَا نُنسِخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ
نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَ
مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾ أَمْ
تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ
مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۰۸

لفظی ترجمہ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اءِوَهُ لَوِجُو اِيْمَانِ لَاءِ هُوَ لَا تَقُولُوا
رَاعِنَا تَم رَاعِنَا نَهْ كهُو وَقُولُوا اُنْظُرْنَا اُوْر اُنْظُرْنَا كهُو
وَاسْمَعُوا اُوْر سَمُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اُوْر كَافِرُوْا كهُو
لئے دردناك عذاب ہے۔

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا اَلَيْسَ اِيْمَانٌ كَرِيْمٌ اُوْر كُفْرٌ
مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَبْلِ كِتَابٍ مِيْنَ سِوَا الْاِسْلَامِ اُوْر اَنْ
مُشْرِكُوْنَ مِيْنَ سِوَا اَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّهْدِيْكُمْ
تَم بِرُكُوْنِيْ بَهْلَايَ مِّنْ رَّبِّكُمْ تَم اَبْرَارٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ اُوْر اَللّٰهُ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِيْهِ مَن يَّشَاءُ اُوْر اَللّٰهُ تَعَالٰى خَاصٌّ اُوْر اَللّٰهُ
رَحِيْمٌ اُوْر اَللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ اُوْر اَللّٰهُ
تَعَالٰى بَرُّهُ فَضْلٌ وَّالْوَالِيْنَ

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسَخُ مِنْهَا اَوْ نُنسَخُ مِنْهَا اَوْ نُنسَخُ مِنْهَا
نُنسَخُ مِنْهَا اَوْ نُنسَخُ مِنْهَا اَوْ نُنسَخُ مِنْهَا اَوْ نُنسَخُ مِنْهَا
بِهْتَرَلِيْ اَتِيْ هِيْ اَوْ مِثْلِيْهَا اِيْ اَسْ جِيْسِيْ اَلْمُ تَعْلَمُ كِيَا اِيْ نَبِيْ
جَانْتِيْ؟ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كهُو اَللّٰهُ تَعَالٰى هَرْ جِيْزِيْ

سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا پیدا نہیں فرمایا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کلام کے شروع ہوتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ متکلم کیا کہنا چاہتا ہے؟۔ اور بعضے کلام ختم ہونے کے بعد سمجھتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سارا بیان ختم ہونے کے بعد بھی ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔

یہودیوں کی لفظی تحریف :

چونکہ آپ ﷺ کی مجلس میں ہر طرح کے آدمی ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنحضرت ﷺ سے درخواست کی اور کہا رَاعِنَا حضرت ہماری رعایت فرمانا۔ کہ بیان ایسے طریقے سے ہو کہ دیہاتی بھی سمجھ لیں اور شہری بھی۔ پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی، ذہین بھی اور درمیانے ذہن کے بھی۔ لفظ بھی صحیح تھا رَاعِنَا اور مراد بھی صحیح تھی۔

مگر یہودی اس لفظ سے غلط مراد لیتے تھے کہ ان کی لغت میں رَاعِنَا، رَعُونَتْ سے احمق اور جاہل کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ وہ رَاعِنَا بولتے اور آپس میں ہنستے کہ ہم نے محمد ﷺ کو احمق اور جاہل کہا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ۔ اور اس طرح بھی شرارت کرتے تھے کہ رَاعِنَا کے لفظ کو ذرا کھینچ کر رَاعِنَا بولتے تھے یعنی ”ہمارا چرواہا“۔ معاذ اللہ تعالیٰ۔

صحیح الفاظ کی غلط تعبیر :

اسی طرح یہودی جب آپ ﷺ کے پاس آتے تو جلدی سے کہتے اَلْسَامُ عَلَيْكُمْ اس کا معنی ہے ”تم پر موت واقع ہو“۔ اور اَلْسَلَامُ عَلَيْكُمْ کا معنی ہے ”تم پر رب تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو“۔

شفقت فرماؤ۔ اس سے اتنی بات سمجھ آگئی کہ اگر جملہ صحیح ہو اور اس سے مراد غلط ہو تو اس کا بولنا صحیح نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص الصلوة والسلام عليك يارسول الله اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ پڑھتا ہے کہ آنحضرت ﷺ ”حاضر و ناظر“ ہیں تو ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی صحیح العقیدہ ہے آپ ﷺ کو ”حاضر و ناظر“ نہیں سمجھتا تو اس کے لئے یہ پڑھنا جائز اور درست ہے۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد :

قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت الصلوة والسلام عليك يارسول الله کے الفاظ کے ساتھ درود شریف پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ درود شریف کے مختصر الفاظ ہیں لیکن پڑھنے والا یہ سمجھے کہ میرے اس درود شریف کو فرشتے آنحضرت ﷺ تک پہنچاتے ہیں۔ اور اگر آپ ﷺ کو حاضر و ناظر سمجھ کر پڑھے گا تو کفر ہوگا۔

آج کل اکثریت کے ذہن چونکہ خراب ہیں اور وہ آنحضرت ﷺ کو حاضر و ناظر سمجھ کر الصلوة والسلام عليك يارسول الله پڑھتے ہیں لہذا صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود ان الفاظ سے گریز کرنا چاہیے۔ تاکہ کسی باطل فرقے کی تائید نہ ہو۔ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم راعنا نہ کہو بلکہ انظرونا کہو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ.....

وَأَسْمَعُوا اور آنحضرت ﷺ کی بات کو غور سے سنو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تمہارے ساتھ عداوت ہے وہ کسی خیر اور بھلائی کو تمہارے لئے

پسند نہیں کرتے۔ فرمایا.....

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يُسَلِّمُوا لِمَنْ يُكْفِرُونَ وَلَا الْمُشْرِكِينَ
اور نہ مشرکوں میں سے اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّهْدِيكُمْ سَبِيلَ
بھلائی مِّنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے۔

نبوة کسی نہیں :

وہ کہتے ہیں کہ ان کو نبوة ملی ہے ہمیں کیوں نہیں ملی؟۔ ان کو کتاب ملی ہے
ہمیں کیوں نہیں ملی؟۔ فرشتہ ان کے پاس کیوں آتا ہے ہمارے پاس کیوں نہیں
آتا؟۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر جواب دیا۔ فرمایا.....

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی
رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ اپنی مرضی سے نبوة کسی کو نہیں مل سکتی۔ وہ حکیم و خبیر
اور علیم ہے۔ وہ ہر شئی کو جانتا ہے۔ اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اپنی حکمت کے
مطابق کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام کو پیغمبر بنایا۔ اور آخری پیغمبر
حضرت محمد رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو بنایا۔ آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہر اعتبار سے ”خاتم النبیین“ ہیں۔
زمانے کے اعتبار سے، مرتبہ کے اعتبار سے آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ذات گرامی سے بڑا کوئی
نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے بعد کوئی پیغمبر بن کر آ سکتا ہے۔

قادیانیوں کا عقیدہ باطل اور غلط ہے جیسا کہ مرزا قادیانی کے لڑکے بشیر الدین
حمود نے لکھا ہے کہ..... ”اگر کوئی شخص چاہے تو آنحضرت صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے درجے کو پہنچ
سکتا ہے بلکہ آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے آگے بھی نکل سکتا ہے“ مَعَاذَ اللّٰهِ تَعَالَى ، ثُمَّ مَعَاذَ

اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ تَعَالَى -

اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوة ایسی چیز ہے کہ بندہ محنت کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے حالانکہ نبوة صرف رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ جس کو رب تعالیٰ نے چاہا اس کو عطا فرمائی۔ حضرت محمد ﷺ پر ختم فرمادی۔ آپ ﷺ کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

مسائل نسخ :

آگے اللہ تعالیٰ نے ”نسخ“ کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ ”نسخ“ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا پھر کچھ عرصہ کے بعد بندوں کی نسبت سے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرمادیا۔ اس پر یہود و نصاریٰ اور مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں یہ تبدیلی کیوں آتی ہے؟۔ ایسا تو وہ کرتا ہے جس کو علم نہ ہو۔

”نسخ“ پر دیا نند سرسوتی کا اعتراض :

نسخ کے مسئلہ پر ”آریہ سماج“ کے لیڈر ”دیانند سرسوتی“ نے بھی اعتراض کیا ہے۔ یہ بڑا منطقی، منہ پھٹ اور بے حیا قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو جی! تم مسلمان کہتے ہو کہ احکام میں نسخ بھی ہوتا ہے۔ کل رب تعالیٰ کا حکم وہ تھا اور آج یہ ہے تو کیا رب تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کل میں نے کیا کرنا ہے اور آج میں نے کیا کرنا ہے؟۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات :

اس زندیق کے سوالوں کے جوابات بانی دارالعلوم دیوبند، قاسم العلوم و الخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”انتصار الاسلام“ میں چند شقوں میں دیئے ہیں۔

پہلی شق :

①..... ”نسخ“ کے مسئلہ پر حضرت کے جواب کی ایک شق یہ ہے کہ جس طرح انسان کی جسمانی بیماریاں ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے معالج، ڈاکٹر اور ماہر حکیم مریض کے لئے پہلے ایک نسخہ تجویز کرتے ہیں، پھر کچھ مدت کے بعد بدل دیتے ہیں اس کی بیماری کے حساب سے نسخہ کا بدلنا حکمت کا تقاضا ہے نہ کہ ان کی نالائقی کی دلیل ہے۔

پہلے بیمار کے لئے وہ دوائی مفید تھی اور اب یہ ہے۔ اور جس طرح دوا بدلتے ہیں اسی طرح غذا بھی بدلتے ہیں۔ انتہائی کمزور مریض کو ہلکی پھلکی غذا کھچڑی، دلیہ، شوربا اور یخنی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور جوں جوں رو بصحت ہوتا ہے تو سخت غذا کھانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر پر اعتراض کرے کہ یہ بڑا نالائق اور بے وقوف ہے کہ کل ایک نسخہ تجویز کیا۔ آج دوسرا تجویز کر دیا ہے کل کہتا تھا یہ کھاؤ اور آج کہتا ہے یہ کھاؤ۔ تو یہ اعتراض کرنے والا بے وقوف اور نالائق سمجھا جائے گا۔

یہی حال روحانی بیماریوں کا ہے جن کا معالج پروردگار ہے۔ اس حکیم علی الاطلاق نے روحانی بیماریوں کے مطابق احکام میں تبدیلیاں فرمائیں۔ مثلاً پہلے

مسلمان کم تھے اور ظاہر بات ہے کہ جنسی خواہشات ان میں بھی تھیں نسل انسانی چلانے کے لئے۔ لہذا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کا کافر عورت کے ساتھ اور کافر مرد کا مسلمان عورت کے ساتھ نکاح جائز رکھا۔ بعد میں جب اسلام عامۃ الناس میں پھیل گیا اور طرفین سے مسلمان مرد، عورتوں کے رشتے ملنے لگے تو ہجرت کے تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بدل دیا۔ اور کافر و مشرک کے ساتھ رشتہ کرنے سے منع فرما دیا۔ فرمایا.....

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
دے سکتے۔ مکہ مکرمہ میں روزے نہیں تھے اور نہ ہی جہاد کرنے کا حکم تھا۔ کیونکہ مکی زندگی بڑی صبر آزما تھی۔ جن کو پہلے ہی کھانا نہیں ملتا اور بھوکے رہ کر گزارہ کرتے تھے۔ اس لئے جو مسلمان ہو جاتا تھا اس کو تو بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ گھر والے روٹی تک بند کر دیتے تھے۔ ان کو روزے کا کیا حکم دینا ہے وہ تو پہلے ہی بھوکے ہیں۔

حضرت عبداللہ اور استقامت دین :

حضرت عبداللہ ”ذو البجادین“ ایک نوجوان صحابی تھے اپنے چچا کے گھر پرورش پا رہے تھے جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو چچا نے سختی کی تاکہ کلمہ چھوڑ دے۔ جب اس نے کلمہ چھوڑنے سے انکار کیا تو اس کی روٹی پسند کر دی۔ اور اس کو تکلیفیں دیں، پھر بھی نہ مانا اور کلمہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تو اس کو کہا کہ ہمارے کپڑے اتار دے۔ چنانچہ اس کے کپڑے اتار لئے قریب ہی ایک گراہوا مکان تھا بیچارے ننگ

دھڑنگ اس کے اندر بیٹھ گئے۔

وِن چڑھا تو ایک آدمی بوری لے کر جا رہا تھا گھاس لینے کے لئے۔ اس کو آواز دی اور کہا اللہ کے بندے اندر نہ آنا کیونکہ میں ننگا ہوں اگر تیرے پاس تن پوشی کے لئے کوئی چیز ہے تو میری طرف پھینک دے۔ اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی جن بھوت بول رہا ہے، ڈر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خوف کم ہوا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو یہ بوری ہے۔ فرمایا بوری ہی پھینک دے۔ اس نے بوری پھینک دی۔ انہوں نے بوری کے اندر سوراخ کر کے پہنی۔ جس طرح مُردوں کو کفن پہناتے ہیں اسی وجہ سے ان کا نام ”ذو البجاد“ پڑ گیا۔ ”ذو البجاد“ کا معنی ”پرانہ کمبل“ ہے۔

دوسری شق :

② احکام بدلنے کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ موسم کے ساتھ لباس بدل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں آدمی کیسے گرم کپڑے پہنتا ہے اگر وہی کپڑے گرمیوں میں پہنے تو اس کا حشر ہو جائے۔ تو جس طرح جسمانی بیماریوں کے لئے دوا بدلتے ہیں موسم کے تغیر سے لباس بدلتے ہیں اسی طرح روحانی علاج بھی بدلتا ہے۔

تیسری شق :

پہلے ایک مسلمان کا دس کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری تھا کیونکہ مسلمان تھوڑے تھے جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو فرمایا اب ایک مسلمان دو کافروں کا مقابلہ کرے۔ تو مخالفوں نے چونکہ نسخ پر اعتراضات کئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ فرمایا.....
مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ جَوْسُورِ كَرْتِي هِي هَمْ كَسِي آيْتِ كُو۔ مثلاً پہلے کافر

کے ساتھ نکاح جائز تھا پھر منع کر دیا۔ پہلے ایک کا مقابلہ دس کے ساتھ تھا پھر دو کے ساتھ کر دیا پہلے شراب حلال تھی پھر حرام کر دی گئی۔ اسی طرح اور کئی مسائل ہیں.....

أَوْ نُنْسِيهَا يَا هُم اس کو بھلا دیں یہ بھی نسخ کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی حکم ختم کرنا ہے آپ ﷺ نہیں ختم کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسِي. ہم آپ کو پڑھائیں گے پس آپ بھولیں گے نہیں إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ جس حکم کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہے وہ آپ کے ذہن سے نکال دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم کسی حکم کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں.....

نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا تُوہم اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ جیسے دس کے ساتھ مقابلے کی بجائے دو کے ساتھ مقابلے کا حکم بہتر ہے۔

أَوْ مِثْلَهَا ”یا اس جیسی“۔ یعنی جو حکم منسوخ ہوا ہے اسی جیسا دوسرا حکم دے دیتے ہیں سولہ سترہ مہینے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس لئے تھا کہ پہلی کتابوں میں آپ ﷺ کی تعریف نبی الثقلین کے لقب کے ساتھ آئی ہے یعنی دو قبلوں والا نبی۔ کہ وہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے بھی نماز پڑھے گا اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی۔ تو پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا پھر کعبۃ اللہ کی طرف تو یہ دونوں حکم برابر ہیں۔

④..... ”نسخ“ کے مسئلہ پر اعتراض کا جواب حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ اس طرح دیتے ہیں کہ ”پنڈت جی! کچھ احکام تشریحی ہیں اور کچھ احکام تکوینی ہیں۔ تکوینی کا

مطلب ہے کلمہ کن سے ہو جانے والے کہ جن میں احکام شرع کا تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے یا بیٹی دیتا ہے پھر چند دنوں کے بعد واپس لے لیتا ہے یعنی مار دیتا ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اے پروردگار! جب لینا ہی تھا تو دیا کیوں؟۔

☆..... اسی طرح ایک آدمی کو مالدار بنانے کے بعد غریب بنا دیتا ہے، تندرست کو بیمار کر دیتا ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اے پروردگار! اگر غریب بنانا تھا تو مالدار ہی کیوں بنایا؟۔ بیمار کرنا تھا تو صحت کیوں دی؟۔ فرمایا: پنڈت جی! جس طرح اللہ تعالیٰ کے ان احکامات میں تغیر کے تم بھی قائل ہو اور اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے دانا ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تشریحی احکام میں بھی تبدیلی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟۔ جو چاہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے کسی کو امیر بنائے، غریب بنائے، بادشاہ بنائے، گدا بنائے، عزت دے، ذلت دے، سب کچھ کر سکتا ہے۔

امریکہ اور شاہ ایران :

جو بڑی عمر کے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ رضا شاہ پہلوی ایران کا بادشاہ تھا اور وہ ایشیا میں امریکہ کے مفادات کا چوکیدار تھا۔ امریکہ کے حقوق کی حفاظت اس کے ذمہ تھی۔ اور اس نے یہ ذمہ داری پوری طرح نبھائی اور

حفاظت کا حق ادا کیا جس طرح حفاظت کرنی چاہیے تھی مگر کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ امریکہ کی ناراضگی کا سبب بن گئے اور وہ اقتدار سے محروم ہو گیا۔ اس کو شہنشاہِ ایران کہا جاتا تھا۔ اس کے دورِ اقتدار میں ایک پاکستانی اخبار نے خبر شائع کی اور لکھا کہ ”شاہِ ایران نے یہ اعلان کیا ہے“۔ اس پر ایران کے سفارت کاروں نے اس اخبار کو نوٹس بھیجا کہ تم نے ہمارے بادشاہ کو شاہِ ایران لکھ کر اس کی توہین کی ہے۔ وہ شاہِ ایران نہیں ہے بلکہ شہنشاہِ ایران ہے۔ یا تو معذرت کرو یا پھر مقدمے کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ خیر! اخبارات نے معذرت کر لی۔

پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب جہاز میں بیٹھ کر ایران سے بھاگا تو کوئی ملک اس کے جہاز کو اترنے کی اجازت نہیں دیتا تھا جب وہ اترنے کی اجازت مانگتا تو یہ کہہ کر جواب دے دیتے کہ ہم بین الاقوامی طور پر مجبور ہیں۔ بالآخر مصحح نے دل مضبوط کیا کہ.....

ہر چہ باد آباد

کہا کہ جو ہوتا ہے ہو جائے تم آ جاؤ یہ رب تعالیٰ کے کام ہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور یاد رکھنا! ہمارے پاکستان میں دو سفارت خانے انتہائی اپنے ملک کا پرچار کرتے ہیں۔ اور اپنے مسلک کا تحفظ کرتے ہیں ایک ایران کا اور دوسرا امریکہ کا، یہ بہت تیز ہیں۔ پاکستان میں جتنی ان کی چلتی ہے اتنی اور کسی کی نہیں چلتی۔ بات وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جہاں امریکہ ختم کر دے اور یہ ان کی بات مانتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

اَلَمْ تَعْلَمَنَّ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كَيْفَا تَنْظُرْنَ

جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا وَمَا لَكُمْ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور نہیں ہے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی حمایتی کہ زبان سے حمایت کرے اور نہ کوئی مددگار ہے کہ رب تعالیٰ کی گرفت
سے بچانے کے لئے عملی طور پر میدان میں آئے۔

بے جا سوالات کا مرض :

أَمْ تُرِيدُونَ كَمَا تَمَّ ارَادَهُ كَرْتَهُ هُوَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا
سوال کرو تم اپنے رسول (ﷺ) سے كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ جس
طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے اور کہا کہ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ
نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں
اللہ تعالیٰ کو سامنے آنکھوں سے۔ اسی طرح کے لایعنی سوالات مشرکین نے بھی کئے
تھے کہ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ آپ
ہمارے مطالبے پورے کریں، پھر انہوں نے اپنے مطالبے پیش کئے ان میں سے
ایک مطالبہ یہ بھی تھا.....

أَنْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا کہ آپ ﷺ رب تعالیٰ کو ہمارے
سامنے لا کر کھڑا کریں اور اس کے پیچھے فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ کہے
کہ یہ میرا پیغمبر ہے اور فرشتے اس کی تائید کریں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو
پھر ہم مانیں گے تو فرمایا تم اس طرح لایعنی سوالات کرتے ہو جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام
سے کئے گئے تھے۔

وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو

ایمان کے ساتھ کہ ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِيلِ پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بھی اور
گمراہ کرنے والوں سے بھی بچائے اور محفوظ رکھے۔ آمین۔

وَذَكَرَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ
 مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۗ حَسَدًا مِّنْ
 عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
 الْحَقُّ ۗ فَاعْتَصِرُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ
 بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ
 الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا ۗ تِلْكَ
 أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ ۗ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
 مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

لفظی ترجمہ :

وَدَّ كَثِيرٌۢ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 اہل کتاب میں سے لَوِيْرُوْنَ كُمْ اس بات کو کہ وہ لوٹا دیں تمہیں
 مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا تہمارے مومن ہونے کے بعد کفر کی
 طرف حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ اپنے نفسوں میں حسد کرتے
 ہوئے مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ بَعْدَ اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے لَہُمْ
 الْحَقُّ ان کے لئے حق فَاَعْفُوا پس معاف کر دو وَاَصْفَحُوا اور
 درگزر کرو حَتّٰی يٰٓاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِہِ یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم اِنَّ
 اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز وَاَتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ
 دیتے رہو وَمَا تَقَدَّمُوا لَآنْفُسِكُمْ اور جو کچھ بھیجو گے تم آگے مِّنْ
 خَيْرٍ کوئی بھی نیکی تَجِدُوْہُ عِنْدَ اللّٰهِ پاؤ گے تم اس کو اللہ تعالیٰ کے
 پاس اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل
 کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔

وَقَالُوا اور کہا انہوں نے لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ہرگز نہیں داخل
 ہوگا جنت میں اِلَّا مَن كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصْرٰی مگر وہ جو یہودی ہو یا
 نصرانی تِلْكَ اٰمَانِيَّتُهُمْ یہ ان کی خواہشات ہیں قُلْ هَاتُوا

بُرْهَانَكُمْ آي (صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرمادیں لاؤ تم اپنی دلیل اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر ہو تم سچے۔

بلی کیوں نہیں؟ (داخل ہوگا جنت میں) مَنْ اَسْلَمَ جو مسلمان ہوا (اور جھکا دیا) وَجْهَهُ لِلَّهِ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیک کام کرنے والا ہو فَلَهُ اَجْرُهُ پس اس کے لئے اس کا اجر ہے عِنْدَ رَبِّهِ اس کے رب کے ہاں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور نہ خوف ہوگا ان پر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اہل کتاب کے مصداق :

اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں جیسے یہود توراہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نصاریٰ انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور صابی زبور کو ماننے کے مدعی ہیں اگرچہ محض ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اپنی کتابوں پر چلنے اور عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ اگر اپنی کتابوں پر عمل کریں تو آخری پیغمبر پر ایمان لے آئیں کہ ان کی کتابوں توراہ، انجیل، زبور میں آپ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی آمد کی بشارت موجود ہے۔

اور جس طرح یہود و نصاریٰ اور صابی آسمانی کتابوں کو ماننے کے دعویدار تھے اسی طرح مشرکین مکہ دین ابراہیمی پر چلنے کے دعویدار تھے۔ اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ آنحضرت صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے سر مبارک پر جب تاج نبوة رکھا گیا اور آپ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ان کو توحید کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم تو ابراہیمی ہیں۔ حالانکہ ان ظالموں نے وہ گھر

جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور عبادت کے لئے بنایا تھا اس کی بیرونی دیواروں پر تین سوساٹھ بت نصب کئے ہوئے تھے۔ جن میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہم السلام کا بت بھی نصب تھا۔

دیکھو اس وقت کے متولی بڑے رمز شناس تھے ان کو معلوم تھا کہ یہاں یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں لہذا ہر قوم کی نسبت سے الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے اور سال کے دن چونکہ تین سوساٹھ ہیں اس لئے بتوں کی تعداد بھی دنوں کے برابر تھی تاکہ کوئی دن چڑھاوے سے خالی نہ جائے۔ اور ہمارا کام چلتا رہے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے یہ تعلیم دی تھی؟۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے اور جو دین انہوں نے پیش کیا تھا وہ توحید والا تھا۔ اور اس کے برعکس تم شرک میں ڈوبے ہوئے ہو۔ اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو۔ بلکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسی لئے کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا مخالف ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ.....

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین :

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ
وَالَّذِينَ آمَنُوا (پارہ : ۳)۔ ابراہیم علیہ السلام سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں
جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغمبر ہے آخر الزمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو
یہ تمام کے تمام مدعی تھے اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ حالانکہ یہودیوں،
عیسائیوں اور مشرکین میں سے کوئی بھی حقیقتاً ابراہیمی نہیں تھا۔ اور اپنی کتابوں کو ماننے

ابو جہل بھی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا ورنہ آپ ﷺ کی نبوت کی نشانیاں اس پر بھی واضح تھیں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آنحضرت ﷺ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ اور آپ ﷺ کی مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ ابو جہل آیا اور اس نے کنکریوں کی مٹھی بھری ہوئی تھی کہنے لگا اگر آپ (ﷺ) نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا چچا جی! اگر مٹھی والی چیز خود بول پڑے تو کیا ہوگا؟۔ چنانچہ مٹھی میں پکڑی ہوئی کنکریوں نے سُبْحَانَ اللَّهِ پڑھنا شروع کر دیا اور ایک روایت میں ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے کنکریاں پھینک دیں اور ان سے کہا کہ تم بھی اس کی طرفدار ہو گئی ہو؟۔ اب بتاؤ ایسی ضد کا بھی دنیا میں کوئی علاج ہے؟۔

تو حق یہود و نصاریٰ پر واضح تھا بس ضد تھی اور حسد تھا کہ یہ نعمت ان کو کیوں ملی ہے؟۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہاں اور چیزوں سے پناہ مانگنے کا سبق دیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے.....

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ پروردگار! حسد کرنے والے کے حسد سے ہمیں بچا۔ ضد اتنی بری چیز ہے کہ اس سے بچنے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے۔

اور ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی مختلف شکلیں ہیں

جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔

①..... حسد کسے کہتے ہیں؟۔ حسد کہتے ہیں کسی کی خوبی اور کمال کو دیکھ کر گڑھنا کہ یہ خوبی اور کمال اس کو کیوں ملا ہے؟۔ مجھے کیوں نہیں ملا۔ مثلاً کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیا ہے، علم دیا ہے یا کوئی اور ہنر عطا فرمایا ہے تو حاسد آدمی دل میں کڑھتا ہے کہ یہ اس کو کیوں ملا ہے؟۔ حسد کا تعلق زبان سے نہیں بلکہ دل کے ساتھ ہے اور یہ بڑا گناہ ہے۔ بلکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہے جس کے ساتھ یہ حسد کر رہا ہے۔ اور اس کے گناہ حسد کرنے والے کو مل جاتے ہیں۔

②..... اور حسد کی دوسری شکل یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کی زوال کی تمنا کرے کہ مجھے نہیں ملی نہ سہی اللہ کرے اس کے پاس بھی نہ رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ وسوسے پر کوئی گرفت نہیں ہے۔

وسوسہ اور اس کی تعریف :

وسوسہ کہتے ہیں کسی چیز کا خیال خود بخود دل میں آجانا بغیر قصد اور ارادے کے اور نہ ہی اس خیال پر راضی ہے اور اگر وسوسہ نماز میں بھی آجائے تو نماز پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ البتہ اگر نماز میں آجائے تو اس کو فوراً نکالنے کی کوشش کرے اور وسوسہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی آدمی بھی خالی نہیں ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول مبارک :

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا قول بخاری شریف میں موجود ہے،

فرمایا.....

اِنِّى لَاجْهَظُّ جَبِيْشِيْ وَاَنَا فِى الصَّلٰوةِ بِسَاوِقَاتٍ مِّىْنَ اٰنْفِى لَشْكْرِى
تیاری میں رہتا ہوں کہ اس لشکر کو ادھر بھیجوں اور اس لشکر کو ادھر بھیجوں اور میں نماز میں
ہوتا ہوں۔ یعنی یہ خیال مجھے نماز میں آتا رہتا ہے۔

حضور ﷺ کو نماز میں سونے کے ٹکڑے کا یاد آنا :

ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی اور فوراً حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
میں تشریف لے گئے لوگ اپنی، اپنی جگہ بیٹھے رہے اور حیرانگی سے ایک دوسرے سے
پوچھنے لگے کہ معلوم ہے آپ ﷺ فوراً کیوں تشریف لے گئے ہیں؟۔ کیونکہ
آپ ﷺ کا معمول تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف
کر کے بیٹھتے اور تسبیحات پڑھتے۔ اور فرضوں کے بعد اجتماعی دعا بھی ثابت ہے۔
البتہ سنتوں اور نفلوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ نہ تراویح کے بعد ثابت
ہے۔ ہاں ختم قرآن کے وقت سنت ہے کہ سب مل کر دعا کریں۔ چونکہ آپ ﷺ کا
معمول نہیں تھا اس طرح جلدی سے تشریف لے جانے کا۔ اس لئے صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا۔ یہ حضرات ابھی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آپ ﷺ
واپس تشریف لائے اور مصلے پر بیٹھ گئے۔ اور فرمایا.....

”تم نے میرے جلدی جانے پر تعجب کیا ہے؟۔ فرمایا: تَذَكَّرْتُ وَاَنَا فِى
الصَّلٰوةِ مجھے نماز میں یاد آیا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہے جو غریبوں
میں تقسیم کرنا ہے اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے، یعنی سورج غروب ہونے والا ہے۔ اس
لئے میں فوراً گیا اور گھر والوں کو کہا کہ یہ فوراً فلاں، فلاں مسکین کو بھیج دو۔ ایسا نہ ہو کہ
یہ ٹکڑا رات کو ہمارے گھر پڑا رہے۔ اور رب تعالیٰ مجھ سے سوال کریں کہ غریبوں کو ان

کا حق آپ نے بروقت کیوں نہ دیا؟“۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے **اَلتَّفَكُّرُ فِي الصَّلَاةِ** مقصد یہ ہے کہ نماز میں ہر آدمی کو خیال آتا ہے خیال آجانے پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ البتہ قصداً خیال نہ لائے۔ اور کوشش یہی کرے کہ خیال نہ آئے۔ تو فرمایا کہ یہ حسد کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں۔

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا پس معاف کر دو اور درگزر کرو **فَاعْفُوا** کا معنی ہے کہ تم ان کو سزا نہ دو اور **اصْفَحُوا** کا معنی ہے ان کی ملامت نہ کرو۔ اس لئے کہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے دل میں ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے.....

كُلُّ اِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ پانی ہے تو پانی ہی نکلے گا۔ دودھ ہے تو دودھ ہی نکلے گا۔ اسی طرح ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض اور حسد بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہارے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ تم اپنا وقت ضائع نہ کرو.....

حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍ یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے خلاف لڑنے کا حکم دے **اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ** بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے اہم کاموں کی طرف متوجہ ہو۔

وَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز **وَآتُوا الزَّكَاةَ** اور زکوٰۃ دیتے رہو

وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ اور جو کچھ بھیجو گے تم آگے مِّنْ خَيْرٍ کوئی بھی نیکی تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ پاؤ گے تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر نیکی کا اجر عطا فرمائے گا مگر نیکی کی قبولیت کیلئے تین بنیادی شرائط ہیں.....

قبولیت اعمال کی شرائط :

①..... پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو کیونکہ ایمان کے بغیر کسی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

②..... دوسری شرط یہ ہے کہ نیکی ریاء اور دکھلاوے کے طور پر نہ ہو۔ اگر دکھاوے کے طور پر ہوگی تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو؟۔

③..... اور تیسری شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو گناہ ہوگا۔ ثواب نہیں ملے گا۔ چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً کوئی شخص سورج کے طلوع ہوتے وقت یا غروب کے وقت یا زوال کے وقت نماز پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، جزا نہیں ملے گی۔ حالانکہ اس نے نماز ہی پڑھی ہے۔ کیوں سزا ملے گی؟۔ اس لئے کہ خلاف سنت پڑھا ہے۔

اسی طرح بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.....

”مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) شَكَّ كَمَا كَانَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)“

شک کے دن جس نے روزہ رکھا اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔

یعنی رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے متعلق تردد ہے، یقین نہیں ہے کہ چاند نظر آگیا ہے تو اس دن روزہ رکھنے والا کتہہ گارہوگا۔

رمضان المبارک میں تلاوت کا ثواب :

اور عزیزو! یہ بات بھی سمجھ لو اور ذہن نشین کر لو کہ ہر نیکی کا اجر عام مہینوں میں دس گنا ملتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینہ میں ہر نیکی ستر گنا بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ”سبحان اللہ“ کہو تو دس نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح رمضان کے علاوہ میں اَللّٰم پڑھنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ہیں، پڑھنے کی بھی اور سننے کی بھی۔ اور رمضان شریف میں اَللّٰم پڑھنے اور سننے کی دو سو دس نیکیاں ملتی ہیں۔ اندازہ لگاؤ کتنا اجر و ثواب ہے۔

آٹھ تراویح کی بدعت :

پھر کچھ لوگ آٹھ تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ آٹھ تراویح قطعاً نہیں ہیں۔ تراویح بیس رکعت ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے لے کر آج تک امت کا معمول بیس رکعت تراویح ہی ہے۔ یہ آٹھ پر اصرار کی بدعت چند سالوں سے چلی ہے۔ لہذا تم بیس رکعات اہتمام کے ساتھ پڑھو اور نیکی ضائع نہ کرو۔ جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پاؤ گے۔

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یہود و نصاریٰ کا ایک اور بے بنیاد دعویٰ سنو.....

جنت میں کون جائے گا؟ :

وَقَالُوا اور کہا انہوں نے لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ
نَصْرًا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی۔ یہودیوں نے
کہا کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے اور نصاریٰ نے کہا کہ جنت میں صرف
نصاریٰ داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا.....

تِلْكَ اَمَانِيَّتُهُمْ یہ ان کی خواہشات ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی بعثت سے
پہلے یہودیت سچا مذہب تھا اس دور اور زمانے میں جو یہودی صحیح معنی میں اپنے
مذہب پر تھے وہ جنت کے حق دار تھے اسی طرح عیسائیت اپنے دور اور زمانے میں سچا
مذہب تھا جو عیسائی صحیح معنی میں اپنے مذہب پر تھے وہ جنت کے حقدار تھے اور جو
صابی اپنے دور میں داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے اور زبور پر عمل کرتے تھے وہ جنت کے
حقدار تھے۔ لیکن حضرت محمد ﷺ کو نبوت ملنے کے بعد آپ ﷺ سے پہلے کے جتنے بھی
دین تھے سب منسوخ ہو گئے اور قرآن کریم کے نزول کے بعد پہلی تمام کتابیں منسوخ
ہو گئیں۔

آپ ﷺ کے مبعوث ہونے اور نزول قرآن کے بعد نجات صرف آپ ﷺ
پر ایمان لانے اور آپ ﷺ کی اتباع کرنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں ہے۔
اب اگر کوئی یہودی یا عیسائی اپنے اصل عقیدہ پر ہی کیوں نہ ہو نجات نہیں ملے گی۔
اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا.....

مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اور جس شخص نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا پس وہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اس سے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں مفید صرف اسلام ہے۔ اب فائدہ صرف اسلام میں اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ میں ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی جائیں گے تو.....

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ آپ (ﷺ) فرمادیں لاؤ تم اپنی دلیل اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر ہو تم سچے۔ اے یہودیو! تم اس پر دلیل لاؤ کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور اے عیسائیو! تم اس پر دلیل لاؤ کہ جنت میں صرف عیسائی ہی جائیں گے فرمایا: تمہارے دعوے سے کیا بنتا ہے؟.....

بَلَىٰ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ جو مسلمان ہو اور اپنا چہرہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیک کام کرنے والا ہو۔ اب جو مسلمان نیکی کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور اس میں نہ کسی یہودی کا دخل ہوگا اور نہ کسی عیسائی کا۔

فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ پس اس کے لئے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور نہ خوف ہوگا ان پر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

خوف کہتے ہیں آئندہ کسی چیز کا خطرہ ہونا اور غم گزشتہ کسی شی پر افسوس ہو۔ تو یہ

جب جنت میں داخل ہوں گے تو آئندہ بیماری کا، قتل کا، ڈاکے کا، مرنے کا، جنت سے نکلنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں چونکہ صحیح اعمال کر کے آئے ہیں اس لئے یہ غم نہیں ہوگا کہ کاش! ہم فلاں نیکی کر لیتے۔ الحمد للہ! انہوں نے خوب نیکیاں کیں اور جنت میں داخل ہو گئے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ
 وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ
 وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ
 لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
 بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
 يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسْجِدَ
 اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي
 خَرَابِهَا ۗ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا
 إِلَّا خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ
 وَالْمَغْرِبُ ۗ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فِثْمَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا
 ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ لَبَّءُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

كُلُّ لَهَا قِنْتُونَ ﴿۱۱۲﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط
وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ﴿۱۱۳﴾

لفظی ترجمہ :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ اور کہا یہود نے لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ نہیں ہیں نصاریٰ کسی چیز پر وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ اور کہا نصاریٰ نے لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ نہیں ہیں یہودی کسی چیز پر وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔

كَمَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ اسی طرح کہا ان لوگوں نے لَا يَعْلَمُونَ جو علم نہیں رکھتے مِثْلَ قَوْلِهِمْ ان کی بات کی طرح قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن فِيمَا ان چیزوں میں كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کے نام کا وَسَعَىٰ

فِي خَرَابِهَا اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو برباد کرنے کی۔
 اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ وَه لَوْ هُمْ فِيهَا لَمْ يَدْخُلُوها یہ کہ داخل ہوتے (ان مسجدوں میں) إِلَّا خَائِفِينَ مگر
 خوف کرتے ہوئے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ان کے لئے دنیا میں
 رسوائی ہے وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لئے آخرت میں عَذَابٌ
 عَظِيمٌ عذاب ہے بڑا۔

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے
 مشرق اور مغرب فَأَيْنَمَا تُولُوا پس جس طرف تم چہرہ پھرو فَتَمَّ
 وَجْهُ اللَّهِ پس اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور کہا انہوں نے بنالی اللہ تعالیٰ نے اولاد
 سُبْحٰنَهُ پاک ہے اس کی ذات بَلْ لَّهٗ بَلٰكَةٌ اسی کے لئے ہے مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں كُلُّ لَهٗ
 قِنْتُوْنَ سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے
 آسمانوں کو اور زمین کو وَاِذَا قَضٰی اَمْرًا اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی
 معاملے کا فَاِنَّمَا پس پختہ بات ہے يَقُوْلُ لَهٗ کہتا ہے اس کو كُنْ

ہو جا فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتی ہے۔

رابطہ :

ان آیات کا پچھلی آیات سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیات میں تھا کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور نصاریٰ نے کہا تھا کہ جنت میں صرف نصاریٰ جائیں گے اور آج کی آیات میں ان کے ایک دوسرے پر مذہبی طعن کا ذکر ہے کہ انہوں نے ضد میں آکر ایک دوسرے کے مذہب کو کالعدم قرار دیا۔

جیسا کہ آج کل کے لیڈر ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ایک جماعت والے دوسروں کو جھوٹا کہتے ہیں اور وہ ان کو جھوٹا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں دونوں سچے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ضد میں آکر ایک دوسرے کے مذہب کو کالعدم قرار دیا۔ حالانکہ اصل کے اعتبار سے یہودیوں کا مذہب بھی سچا تھا اور عیسائیوں کا مذہب بھی سچا تھا۔

یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نصاریٰ کو نصاریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لہذا دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

یہود و نصاریٰ کی محاذ آرائی :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ اور کہا یہود نے نہیں ہیں نصاریٰ کسی چیز پر۔ یعنی ان کا مذہب بالکل جھوٹا ہے۔ اب نصاریٰ کی باری آئی۔ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ اور کہا نصاریٰ نے نہیں ہیں یہودی کسی چیز پر۔ یعنی ان کا مذہب بالکل جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں.....

وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حَالَانِكَ وَهِيَ كِتَابٌ يُرْتَلُّ فِيهَا تِلْكَ آيَاتُ الْكُرْآنِ الَّتِي نُنزِّلُهَا عَلَيْكَ لَعَلَّ لَكَ تَحْفَظُهَا وَتُذَكِّرُهَا لِقَوْمٍ عَصِيْبٍ
 وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حَالَانِكَ وَهِيَ كِتَابٌ يُرْتَلُّ فِيهَا تِلْكَ آيَاتُ الْكُرْآنِ الَّتِي نُنزِّلُهَا عَلَيْكَ لَعَلَّ لَكَ تَحْفَظُهَا وَتُذَكِّرُهَا لِقَوْمٍ عَصِيْبٍ
 انجیل کی تلاوت کرتے ہیں دونوں آسمانی کتابیں ہیں۔ توراہ بھی سچی کتاب تھی اور انجیل بھی سچی کتاب تھی۔ اور اس وقت انہی پر عمل کرنے میں کامیابی تھی۔ یہ مذہب اس وقت منسوخ ہوئے جب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔

اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ جب چاند اور ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں لوگ ان کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر نہ چاند کی ضرورت، نہ ستاروں کی۔ پہلے انبیاء کرام ﷺ چاند ستاروں کی مانند تھے اور آنحضرت ﷺ سورج کی مانند ہیں۔ جب آپ ﷺ تشریف لے آئے، سورج طلوع ہو گیا تو اب چاند ستاروں کی ضرورت نہیں رہی۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کے مذہب کو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جھوٹا کہا، فرمایا.....

جاہل مشرکین کا عقیدہ :

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِذَا طَرِحَ الْكُتُبَ الْاُولَىٰ وَطَرِحَ الْاٰخِرَىٰ
 كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِذَا طَرِحَ الْكُتُبَ الْاُولَىٰ وَطَرِحَ الْاٰخِرَىٰ
 نہیں رکھتے مِثْلَ قَوْلِهِمْ ان کی بات کی طرح۔ یہ ان پڑھ علم سے محروم عرب کے مشرک تھے انہوں نے کہا کہ ہم سچے ہیں ہمارے علاوہ سب جھوٹے ہیں۔ حالانکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ﷺ نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بنایا تھا اس کی بیرونی دیواروں پر انہوں نے تین سو ساٹھ بت نصب کئے ہوئے تھے۔ جن میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ﷺ کے بت بھی

شامل تھے۔

بدکار جوڑے کی پوجا :

اور بڑے غضب کی بات یہ تھی کہ ان بتوں میں ”اساف اور نائلہ“ کے بت بھی شامل تھے۔ ”اساف“ مرد تھا اور ”نائلہ“ عورت تھی۔ ان کے آپس میں برے تعلقات تھے ان کو خواہش پوری کرنے کے لئے اور کوئی جگہ نہ ملی۔ اس زمانے میں لوگ تھوڑے ہوتے تھے رات کو جب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بدکاری کی اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دیا۔ شکلیں تو وہی رہیں مگر پتھر میں تبدیل ہو گئے۔

لوگوں نے ان کو عبرت کے لئے وہیں کھڑا کر دیا کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ کعبۃ اللہ میں برائی کا یہ انجام ہے۔ مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی کہ اب یہ ان کے نزدیک محترم ہو گئے۔ اور مشرکین مکہ کے ہاں سب سے زیادہ محترم مجسمہ ”ہبل“ کا تھا یہ انہوں نے حضرت ہابیل علیہ السلام کے نام پر بنایا ہوا تھا۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے مظلوم شہید بیٹے تھے تو ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو شرک کے ساتھ بھرا ہوا تھا اور اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں اور باقی سب جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان
يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان
چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ فیصلہ عملی طور پر ہوگا کہ سچے جنت میں
اور جھوٹے دوزخ میں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ورنہ دلائل کے

انہوں نے عمرہ نہ کرنے دیا پھر اگلے سال کے ھ میں آپ ﷺ نے عمرۃ القضاء کیا تو ان مشرکین مکہ سے بڑا ظالم کون ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مسجد سے روک دیا چونکہ اوپر مشرکین کا ذکر تھا اس لئے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔

شاہِ روم کا مسجد اقصیٰ پر حملہ اور نمازیوں کا قتل عام :

② اور یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت سے پہلے روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ”طیطس“ بھی لکھتے ہیں اور ”طیطاؤس“ بھی لکھتے ہیں عیسائیوں نے اس کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا اور جتنے یہودی نمازی تھے ان سب کو قتل کر دیا اور مسجد اقصیٰ کے آس پاس کے علاقوں میں بھی اس نے بڑا طوفان کھڑا کیا۔ اور اتنی قتل و غارت کی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ گلیوں میں اتنا خون تھا کہ گھوڑوں کے گھٹنے اس میں ڈوبے ہوئے تھے تو اس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں ذکر کرنے سے روکا اور قتل کیا۔ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے۔ چونکہ اوپر نصاریٰ کا بھی ذکر ہے، لہذا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکنے والے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکے۔ حالانکہ روکنے کی بجائے ان کو توجا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ڈرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے داخل ہوتے۔ الثابہ روکتے ہیں۔

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ اِنْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا حِزْبًا وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اور ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اور ان کے لئے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔

مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا :

یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ بعض اہل بدعت نے يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ مسجدوں میں بلند آواز سے ذکر کیا جائے۔ لہذا اس سے روکنے والے ظالم ہیں۔ بھائی! آیت کریمہ میں تو صرف ذکر اللہ کا بیان ہے، یہ بلند آواز سے ذکر کرنا کس لفظ کا ترجمہ ہے۔

ایک ہے نفس ذکر اور ایک ہے شور ڈالنا۔ دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نفس ذکر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور بلند آواز سے ذکر کرنا کہ جس سے نمازی کو یا تلاوت کرنے والے کو یا سوئے ہوئے کو تکلیف پہنچے۔ یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں خلل واقع ہو تو حرام ہے۔ مسجدوں میں بلند آواز سے ذکر کرنے کے متعلق فقہاء کرام رضی اللہ عنہم نے تصریح فرمائی ہے.....

رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَوْنُ بِالذِّكْرِ حَرَامٌ مسجدوں میں آواز بلند کرنا اگرچہ ذکر کے لئے ہو حرام ہے۔ گیارہویں صدی کے مجدد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَوْنُ بِالذِّكْرِ حَرَامٌ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا حرام ہے۔ نفس ذکر سے کوئی نہیں منع کرتا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت اس طرح کرو کہ دیکھنے والے کہیں دیوانہ ہو گیا ہے۔ بات تو ہے بلند آواز سے ذکر کرنے کے بارے میں۔

چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ مسجد میں اگر ایک بھی نمازی ہو تو بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا لَا يَجُوزُ جائز نہیں ہے۔ اور مسجد میں شور ڈالنا مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ مسجد کے ادب کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔

مسجد کے چند آداب :

ایک موقع پر آنحضرت ﷺ تشریف فرما تھے ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھنے کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا کی اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا اے اللہ! مجھ پر رحمت نازل کر اور محمد ﷺ پر اور کسی پر نازل نہ کرنا۔ آپ ﷺ نے اس کو بلایا اور فرمایا لَقَدْ تَحَجَّرَتْ وَ اِسْعَا تُوْنِے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ہر شے پر وسیع ہے۔

یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روکنے کے لئے دوڑے تو آپ ﷺ نے منع فرما دیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یا اس لئے منع فرمایا کہ تم روکو گے وہ دوڑے گا گندگی پھیلے گی ساری مسجد پلید ہوگی جب وہ فارغ ہو گیا تو آنحضرت ﷺ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ نماز کے لئے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کیلئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے ہیں۔ اس کا رروائی کے لئے نہیں ہیں جو تونے کی ہے۔ تو مسجد کا ادب و احترام بڑی چیز ہے۔

① مصنف عبدالرزاق میں حدیث آتی ہے جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِبِنَكُمْ مسجدوں میں پاگلوں کو نہ داخل ہونے دو کیونکہ وہ پیشاب کر دیں، تھوک دیں گے اور کوئی ایسی حرکت کر دیں گے جو خلاف ادب ہوگی۔ اسی طرح صَبِيَانَكُمْ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ کہ چھوٹے بچے جن کو تمیز نہیں ہے ان کو بھی مسجد میں نہ آنے دو کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں جس سے مسجد کی بے حرمتی ہو۔ اسی لئے

مسجد میں دوڑنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے اور کوئی شخص جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ.....

② لَا تَأْتَوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ دُوْرَ كَرْتَمِ نَمَازٍ فِي شَرِيكِ نَهْوَ
عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ آهْتَهْ جَلْ كَرَأَوْ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ
فَاقْضُوا جَوْرَ كَعْتِيں اِمَامِ كَسَا تَهْمَلْ جَائِيں وَهْ پڑھ لو اور جو تم سے رہ گئی ہیں ان كو بعد
میں پڑھ لو كيونكه تيز دوڑنے سے مسجد كى بے حرمتى ہوگی اور یہ بڑا گناہ ہے۔

قبلہ كى تبدیلی :

پہلے آپ مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ كى تفسیر میں پڑھ چكے ہیں كه كچھ احكام منسوخ
بھی ہیں، انہی احكام میں سے تحویل قبلہ كا مسئلہ بھی ہے۔ آنحضرت ﷺ جب مدینہ
طیبہ تشریف لے گئے تو آپ ﷺ نے تقریباً سولہ سترہ مہینے مسجد اقصیٰ كى طرف چہرہ
كر كے نمازیں پڑھیں۔ مسجد نبوی سے تقریباً كیل دور قبلہ بنو سلمہ جو مشہور قبلہ تھا
كى مسجد میں آپ ﷺ ظہر كى نماز پڑھا رہے تھے جس كو آج كل مسجد قبلتین كہا
جاتا ہے۔ عین نماز كى حالت میں تحویل قبلہ كا حكم نازل ہو اور كعتیں آپ ﷺ پڑھا
چكے تھے دوسرى دور كعتیں آپ ﷺ نے كعبۃ اللہ كى طرف چہرہ مبارك كر كے
پڑھائیں۔ یہودیوں كو اعتراض كا موقع مل گیا كہنے لگے اس كا بھی كوئى اعتبار ہے
جس كا قبلہ بدلتا رہتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا.....

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ تعالیٰ ہی كے لئے ہے مشرق اور
مغرب۔ ہم تو رب تعالیٰ كے حكم كے پابند ہیں۔ فَاَيُنَمَّاءُ تَوَلُّوْا بِسْ جَس
طرف تم چہرہ پھيرو فْتَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ بِسْ اسی طرف اللہ تعالیٰ كى رضا ہے اِنَّ اللّٰهَ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ پہلے تین فرقوں کا ذکر ہوا ہے یہود، نصاریٰ اور مشرکین کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور کہا انہوں نے بنالی اللہ تعالیٰ نے اولاد۔
وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ اور کہا یہود نے عزیر عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔
وَقَالَتِ النَّصْرَى مَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور مشرکوں نے کہا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور بنائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

سُبْحٰنَہٗ پاک ہے اس کی ذات۔ بیٹوں سے اور بیٹیوں سے بیوی سے ماں سے اور ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بلکہ اسی کے لئے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں کُلُّ لَّهٗ قٰنِیٰنٌ سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ فرشتے بھی، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ اور اس کی صفت ہے.....

”بدعت“ اور ”ایجاد“ کا فرق :

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ بدعت کا لفظ بھی اسی باب سے ہے۔ بدعت کا معنی ہے ”نوا ایجاد“ اگر یہ دین میں ہو یعنی من گھڑت چیز کو دین سمجھا جائے تو اس کا بڑا گناہ ہے۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَحَدَتْ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز بنائی تو وہ مردود ہوگی۔ اس کا بڑا گناہ ہے۔ باقی رہا دنیاوی طور پر کسی چیز کا نوا ایجاد ہونا تو وہ شرعی

بدعت نہیں ہے۔ وہ لغوی طور پر بدعت ہوگی۔ بعض جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی تم ہمیں بدعتی کہتے ہو؟ کیا تمہاری مسجدوں میں سچے نہیں لگے ہوئے۔ تم لاؤڈ سپیکر پر تقریر نہیں کرتے تم نے گھڑیاں نہیں پہن رکھیں۔ ٹوٹیوں سے وضو نہیں کرتے۔ تم گاڑیوں اور جہازوں پر سوار نہیں ہوتے۔ یہ تمام چیزیں ”نواہجاذ“ اور ”بدعت“ نہیں ہیں؟ یہ جاہلانہ اعتراض ہے۔ اس لئے کہ ان چیزوں کو دین کوئی بھی نہیں سمجھتا شرعی بدعت وہ ہے جس کو دین سمجھ کر کیا جائے۔ کیونکہ لفظ ہیں مَنَّ اَحَدَتْ فِيْ اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ جس نے کوئی نئی چیز گھڑی ہمارے اس دین کے معاملے میں یعنی اس کو دین سمجھا جائے اور اسے ثواب کی امید پر کیا جائے ان چیزوں کو کوئی بھی دین سمجھ کر استعمال نہیں کرتا۔ بلکہ یہ چیزیں وقتی ضرورت ہیں ہاں اگر کوئی شخص دین سمجھ کر گھڑی پہنتا ہے یا دین سمجھ کر عینک پہنتا ہے تو یہ بدعت ہوگی۔ بدعت لغوی اور بدعت شرعی کا فرق اچھی طرح سمجھ لو۔

اور یاد رکھنا! ایک شرعی بدعت کا گناہ سو کبیرہ گناہوں سے زیادہ ہے اس کو تم اس طرح سمجھو کہ مسجد کے محراب میں سو بوتلیں شراب پینے کا اتنا گناہ نہیں جتنا دین میں ایک بدعت کا گناہ ہے۔ اس لئے کہ گناہ کبیرہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا اس کو کرنے والا گناہ ہی سمجھتا ہے۔ اور بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے اور نقشوں پر حکومتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ یہ حصہ میرا ہے اور یہ حصہ تیرا ہے۔ بدعت کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شرک کے بعد بدعت بہت بری چیز ہے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَلٰى كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ كُوَاللّٰه تَعَالٰى كى طرف سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔

بدعت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لہذا بدعت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ.....

وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا أَوْ جَبَّ وَهُوَ فِيصْلُهُ كَرْتَا هِيَ كَسَىٰ مَعَالِي كَا فَيَانَّمَا پِس
پختہ بات ہے يَقُولُ لَهُ كُنْ کہتا ہے اس کو ہو جَا فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتی
ہے۔ وہ کسی چیز کے بنانے میں بیٹی بیٹے کا محتاج نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کو ساز و
سامان کی ضرورت ہے۔ کلمہ کن سے اس کے ارادے کے مطابق چیز ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گندے عقیدوں سے محفوظ رکھے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ
 أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ
 قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّا
 أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا
 تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾ وَلَنْ تَرْضَى
 عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ
 مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ وَلَئِنْ
 اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ
 الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾
 الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
 أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾

لفظی ترجمہ :

وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے لَا يَعْلَمُونَ جو نہیں جانتے
لَسَوْا لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اَوْ
تَأْتِينَا آيَةً یا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی كَذَلِكَ قَالَ
اسی طرح کہا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے
مِثْلَ قَوْلِهِمْ ان کی بات کی طرح۔

تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں
فَقَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ تحقیق ہم نے بیان کر دیں نشانیاں لِقَوْمٍ
يُوقِنُونَ اس قوم کے لئے جو یقین رکھتی ہے اِنَّا ارْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ
بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا خوشخبری
دینے والا اور ڈرانے والا۔

وَلَا تُسْئَلُ اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا عَنْ اَصْحَابِ
الْجَحِيمِ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں
وَلَكِنْ تَرْضَى عَنْكَ اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے الْيَهُودُ
وَلَا النَّصْرَى یہودی اور نہ عیسائی حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک
کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی۔

قُلْ اِنَّ اَبَا (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ) کہہ دیں بے شک هُدَى اللہ هُوَ

الْهُدَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ كِي هِدَايَتِ هِي هِدَايَتٌ هِيَ وَلٰكِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوَ آءِ
 هُمْ اَوْرَابَتِهٖ اَكْرَآپ (صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نِي پِي رُوِي كِي اِن كِي خَوَاهِشَات كِي بَعْدَ
 اَلَّذِي جَاَءَ كَ مِنْ الْعِلْمِ بَعْدَ اَس كِي كِه اَچْكَآ اَپ كِي پَاسِ عِلْمِ مَا
 لَكَ مِنَ اللّٰهِ نِهِيَسِ هُوْكَآ اَپ كِي لِي اللّٰهُ تَعَالَىٰ كِي طَرَفِ سِي مِنْ وَّلِيٍّ وَّ
 لَا نَصِيْرٍ كُوِي حِمَايَتِي اَوْرِنِهٖ كُوِي مَدَدْكَارِ۔

اَلَّذِيْنَ اَتَيْنٰهُمْ الْكِتٰبَ وَهِي لُوْكَ جِن كُوِي هِي نِي كِتَابِ
 يَتْلُوْنَهٗ وَهِي اَس كِي تَلَاوَتِ كِرْتِي هِي حَقٌّ تِلَاوَتِهٖ جِيَسَا كِه اَس كِي
 تَلَاوَتِ كِرْنِي كَا حَقُّ هِي اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهِي لُوْكَ اَس پَرَا اِيْمَانِ
 لَاتِي هِي وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ اَوْر جُو لُوْكَ اَس كَا اِنْكَارِ كِرْتِي هِي فَاُولٰٓئِكَ
 هُمُ الْخٰسِرُوْنَ پَسِ وَهِي لُوْكَ نَقْصَانِ اِثْمَانِي دَالِي هِي۔

وَيْتٌ :

اِن آيَات كَا بَچْچِي آيَات كِي سَاتِهٖ رِبْطِ يِهِي هِي كِه پَهْلِي آيَات مِيَسِ بَهِي اَپ (صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
 پَرِي هُوْدُو نَصَارِي اَوْر مَشْرِكِيَسِ كِي بِي جَا عِتْرَاضَات كَا ذَكْرْتِهٖ اَوْر اِن آيَات مِيَسِ بَهِي بِي
 جَا عِتْرَاضِ كَا ذَكْرِي۔

كِفَارِ كَا بِي جَامِطَالِهٖ :

حَضْرَتِ اِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كِي قَوْلِ كِي مَطَابِقِ رَافِعِ نَامِي يَهُودِي اَپ (صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كِي
 پَاسِ آيَا اَوْر كِهْنِي رُكَآ كِه اَكْرَآپ (صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اللّٰهُ تَعَالَىٰ كِي رَسُوْلِ هِيَسِ تُو اللّٰهُ تَعَالَىٰ سِي كِهِيَسِ كِه وَهِي
 هِمَارِي سَاتِهٖ كَلَامِ كِرِي اَوْر هِيَسِ كِهِي كِه مِيَسِ نِي مُحَمَّدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كُو رَسُوْلِ بِنَا كِرِي بَهِي جَا

ہے۔ یا کوئی کھلی نشانی ظاہر کرے جو آپ کی نبوة پر دلالت کرے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔

اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے آپ ﷺ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کر کے یا کوئی نشانی ظاہر کر کے بتائے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات عرب کے بعض لوگوں نے کی تھی۔ بہر حال ان میں سے کسی نے بھی کی ہو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بے علم اور جاہل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں اور رسالت کی حقیقت کا علم نہیں رکھتے اور بصیرت سے محروم کر دیئے گئے ہیں، کیا کہا؟.....

لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ؟ اَوْ تَأْتِينَا آيَةً یا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی؟۔ جس کے بعد ہمیں آپ ﷺ کی رسالت میں کوئی شک و شبہ نہ رہے اور آپ ﷺ کی نبوة ہم پر واضح ہو جائے یہ ان کا مطالبہ انتہائی لاعلمی اور جہالت کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہو کر کہنا کہ یہ میرا پیغمبر ہے۔ اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔

کیونکہ اس طرح پیغمبر کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات اور کمالات رکھے ہیں ان کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو خوبیاں اور کمال پیغمبر کی ذات میں رکھے ہیں ان کو دیکھو اور پیغمبر کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس پر

ایمان لاؤ۔ اور اس کی اتباع کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ خود آواز دے کر کہہ دیں تو یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اَوْ تَسْأَلُنَا آيَةً اور انہوں نے یہ بھی کہا ”یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟“۔

آیت کا ایک معنی حسی ہے اور ایک معنی معنوی ہے۔ آیت کا حسی معنی معجزہ ہے کہ خرق عادت کے طور پر اطلاق قرآن کریم یا دیگر آسمانی کتابوں پر ہوتا ہے۔ اگر حسی معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب لیا جائے تو یہ مفہوم ہوگا کہ ہمارے سامنے ہماری مرضی کے مطابق کوئی معجزہ ظاہر کیوں نہیں کرتے؟۔ جیسا کہ پندرہویں پارے میں آئے گا کہ مشرکین نے کہا تھا.....

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا هَمَّ
 آپ (ﷺ) پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ (ﷺ) ہمارے
 لئے زمین سے چشمے جاری کریں۔ یا آپ (ﷺ) کے لئے سونے کا محل ہونا
 چاہیے۔ یا آپ (ﷺ) ہمارے سامنے آسمانوں پر چڑھ جائیں اور وہاں سے ایسی
 کتاب لے کر آئیں نَفْرًا ؕ جس کو ہم پڑھیں۔ اس قسم کے لایعنی سوالات
 اور مطالبات کرتے تھے ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صداقت کو ظاہر کرنے کیلئے
 بیشمار معجزات ان کے ہاتھ مبارک پر ظاہر فرمائے اور اگر آیت کا مطلب معنوی لحاظ
 سے لیا جائے تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ آپ (ﷺ) پر کتاب نازل ہو سکتی ہے۔ تو ہم پر
 آیت یعنی کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی؟۔ اور ایسا کہنا بھی انتہائی جہالت ہے۔
 کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے نزول کے لئے اپنے بندوں میں سے نبیوں او
 زر رسولوں کا انتخاب خود کرتا ہے کہ کون اس کے لائق ہے.....

وہی حاصل کرتے ہیں جو یقین کرنے والے ہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لئے قرآن پاک ہدایت تو سب کے لئے ہے مگر اس سے فائدہ متقین نے اٹھایا، فرمایا.....

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ جو ایمان لائیں اور عمل اچھے کریں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے اور نافرمانوں اور فاسقوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم سے ڈرادے۔

ہدایت دینا صرف خدا کا کام ہے :

وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں؟۔ یہ سوال تو تب ہوتا کہ آپ ﷺ نے تبلیغ نہ کی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے احکام ان تک نہ پہنچائے ہوتے۔ آپ ﷺ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور آپ ﷺ کے ذمہ اتنا ہی تھا۔ ہدایت دینا آپ ﷺ کے اختیار میں نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا کہ میں نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا تھا جس نے تمہیں میرا پیغام دیا تھا؟۔ میرا پیغام سن کر تم نے کیا جواب دیا تھا؟۔ پیغمبر ﷺ حق تبلیغ ادا کر کے اپنے عہدہ سے بری ہو گئے۔ ہدایت دینا ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہدایت دینا نبی کے اختیار میں ہوتا تو حضرت آدم ﷺ اپنے بیٹے قابیل کو اور حضرت نوح ﷺ اپنے بیٹے کنعان کو اور حضرت ابراہیم ﷺ اپنے باپ آذر کو ہدایت سے

نوازتے اور آنحضرت ﷺ طبعی محبت کے باوجود اپنے چچا ابوطالب کو گمراہی میں نہ رہنے دیتے بلکہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے، فرمایا.....

یہود و نصاریٰ کی پیروی :

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ ۖ وَكُلٌّ مِنْهُمْ جَاهِلُونَ ۚ
 گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی۔ یعنی یہود و نصاریٰ جو آپ ﷺ سے معجزات کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس سے ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات دیکھ کر ایمان لے آئیں گے بلکہ وہ صرف آپ ﷺ کو پریشان کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں وہ آپ پر کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہوں گے مگر یہ کہ آپ ﷺ ان کے دین کی پیروی کریں۔
 قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَأَنْ تَلْبَسُوا الْحُلُمَ عَلَيْكُمْ ۚ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے وَلَكِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور البتہ اگر آپ (ﷺ) نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم مَّا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ نہیں ہوگا آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔

دیکھو! وَلَكِنْ اتَّبَعْتَ ”اور اگر آپ نے اتباع کی“ اس میں خطاب تو آنحضرت ﷺ کو کیا گیا ہے مگر سمجھانا امت کو مقصود ہے۔ کیونکہ پیغمبر کے متعلق تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرے گا البتہ امت کے افراد سے اس کا امکان اور خوف ہے۔ اس لئے امت کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم علم ہو جانے کے بعد یہود و نصاریٰ کی خواہشات پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی اور تمہارا حمایتی اور مدد

گار بھی کوئی نہیں ہوگا۔

یہود و نصاریٰ کی نقالی پر آنحضرت ﷺ کا فرمان مبارک :

اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”ایک وقت آئے گا کہ تم یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلو گے حتیٰ کہ وہ اگر کسی سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔“ آج کے معاشرے پر نظر کی جائے تو آنحضرت ﷺ کا فرمان دکھائی دے رہا ہے۔ یہود و نصاریٰ جو فیشن ایجاد کرتے ہیں مسلمان اس کی نقالی کو فخر سمجھتے ہیں۔ اور تہذیب جدید کا نام دے کر اس کو اپناتے ہیں۔ حالانکہ ان کا مقصود مسلمانوں کو اپنی تہذیب اور اخلاق سے دور کرنا ہے۔ لہذا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جاؤ۔ فرمایا.....

تلاوت کلام پاک کے آداب :

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقًّا تِلَاوَتِهِ وَهُوَ لَوْ كَانَتْ جَنُّونَ
دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے اور اس کی منع کردہ باتوں سے بچا جائے۔ اگر اس کے احکامات کو ماننا ہی نہیں ہے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز ہی نہیں آتا تو اس کی تلاوت کا کیا فائدہ؟۔

جیسا کہ بعض عیسائی اور یہودی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور بعض جگہوں میں عیسائی ٹیچر قرآن کریم پڑھاتے ہیں۔ مگر نہ مانتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟۔ اسی طرح اہل کتاب توراہ، انجیل اور

زبور کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اور اپنی کتابوں میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نشانیاں بھی پڑھتے ہیں اور اس کا علم ہونے کے باوجود آپ ﷺ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسے لوگوں نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔

تلاوت کا حق ادا کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ، حضرت عدی بن حاتم، حضرت تمیم داری اور حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہم ہیں جو آنحضرت ﷺ پر ایمان لائے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوگا جب اس کا مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے گا۔

آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے رَبِّ قَارِيٍّ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ بہت سے قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتا ہے اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اور نماز نہیں پڑھتا اتُوا الزَّكٰوةَ پڑھتا ہے اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ سے بھاگتا ہے۔ تو یہ تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کریم اس پر لعنت کر رہا ہے۔ کیونکہ جو پڑھ رہا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کردہ احکام کو حلال اور حرام کردہ احکام کو حرام سمجھا جائے۔“ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طرح پڑھے کلمات کو ان کی جگہ سے نہ بدلے اور خواہ مخواہ ان کی تاویل بھی نہ کرے، فرمایا.....

اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهِيَ لَوْكَ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس کی

تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی
 اہل کتاب میں سے جس نے قرآن کریم کا انکار کیا اس نے اپنی کتاب کا بھی انکار کیا
 اور اس انکار کا وبال بھی انہیں پر، پڑے گا کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر یا
 اللہ تعالیٰ کے نبی پر اس کا کیا اثر ہے؟۔

يَبْنِي اسْرَاءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي
اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلٰى
الْعٰلَمِيْنَ ۝ (١٢٢) وَاَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ
عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا
تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ (١٢٣) وَاِذْ
اَبْتَلَىٰ اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۗ
قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ ۝ (١٢٤)
وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ۗ
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّٰى ۗ وَعَهْدِنَا
اِلَىٰ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمَعِيْلَ اَنْ طَهَّرَا بَيْتِي
لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُوْدِ ۝ (١٢٥)

لفظی ترجمہ :

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِيْلُ (ﷺ) کی اولاد اذْ كُرُوْا
نِعْمَتِيْ يٰاَكْرُوْمِيْرِ نِعْمَتُوْنَ كُوَالَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ جُوْمِيْنَ نِي
تم پر کیس وَاِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی عَلٰى
الْعٰلَمِيْنَ جہان والوں پر۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا اور ڈرو اس دن سے لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ نِهِيْ
کفایت کرے گا کوئی نفس عَنْ نَفْسٍ كِسِيْ نَفْسٍ كِيْ طَرَفٍ سِي شَيْئًا
کچھ بھی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے عَدْلٌ بَدَلِ
وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ اور نہ نفع دے گا اس کو سفارش کرنا وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهُ اور جب آزما یا ابراہیم (ﷺ) کو اس
کے رب نے بِكَلِمَاتٍ چن د باتوں کے ساتھ فَاتَمَّهِنَّ پَس
انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا قَالَ فرمایا (پروردگار نے) اِنِّيْ
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے
لئے پيشوا قَالَ کہا ابراہیم (ﷺ) نے وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ اور میری اولاد میں
سے بھی قَالَ لَا يَسْأَلُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ فرمایا (اللہ تعالیٰ نے)
نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو۔

وَاذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ اَوْرَجِبَ بِنَايَا هَمْ نِي بِيْتِ اللّٰهِ كُو
 مَثَابَةً لِّلنَّاسِ لُوْنِي كِي جِگَه وَ اَمْنًا اُوْر اَمْنِ كِي جِگَه وَ اَتَّخِذُوْا مِنْ
 مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلِّيْ اُوْر بِنَاؤْتُمْ اِبْرٰهِيْمَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) كِي كَهْرِي هُوْنِي كِي جِگَه
 كُو نَمَازِ كِي جِگَه وَ عَهْدِنَا اُوْر هَمْ نِي تَا كِيْدِي اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ
 وَ اَسْمِعِيْلَ اِبْرٰهِيْمَ اُوْر اَسْمَاعِيْلَ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) كُو اَنْ طَهَّرَا بَيْتِيْ كِي
 پَاك رِكْهُوْتُمْ دُوْنُوں مِيْرِي كَهْرِي كُو لِّلطَّائِفِيْنَ طَوَافِ كَرْنِي دَالُوں كِي
 لِيْ وَ اَلْعٰكِفِيْنَ اُوْر اَعْتَكٰفِ بِيْثْنِيْ دَالُوں كِي لِيْ وَ الرَّسَّعِ
 السُّجُوْدِ اُوْر رُكُوْعِ اُوْر سَجْدِه كَرْنِي دَالُوں كِي لِيْ۔

بنی اسرائیل کون تھے؟ :

اسرائیل حضرت یعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ کا لقب جس کا معنی ”عبداللہ“ ہے اور اس کی
 تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ تو.....

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِيْلُ كَا مَعْنٰى هُوْكَ ”يَعْقُوْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي اَوْلَادُ“۔ حضرت
 يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي بَارِه بِيْئِي تَهِي، بِيْئِي كُوْنِي نَهِيْس تَهِي اِنْ مِيْس سِي اِيْكَ حَضْرَتِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 بَهِي تَهِي جُو اَللّٰهُ تَعَالٰى كِي پِنْمَبْر تَهِي هَر بِيْئِي كِي آگِي نَسْلِ چَلِي اُوْر وَه مَسْتَقْل خَانْدَانِ بِنَا اُوْر
 اِنِيْ بَاپ كِي طَرَفِ نَسْبَتِ سِي مَشْهُور هُو اُوْر كُوْنِي يُوْسُفِيْ كِهْلَاِيْ كُوْنِي بِنِيَا مِيْنِي، كُوْنِي رُوْبِنِيْ اُوْر
 كُوْنِي يَهُودِيْ كِهْلَاِيْ۔ تُو يِه بِنِي اِسْرَآءِيْلِ فِرْعَوْنَ سِي نَجَاتِ حَاصِلِ كَرْنِي كِي بَعْدِ جَب
 وَاْدِي تِيْ مِيْسِ پِنچِي (جِس كَا آجِ كَلِ نَامِ وَاْدِي سِيْنَا يِ هِي۔ اُوْر اِس كَا وَه حَصِه جُو فُوْجِي
 اِهْمِيْتِ كَا حَآلِ هِي يَهُودِيُوں كِي قَبْضِه مِيْسِ هِي اُوْر بَاقِي مِصْرِ كِي پَاسِ هِي)۔

مثال بادشاہی عطا فرمائی۔ اور ان کی نسل میں اور کئی بادشاہ ہوئے اور باطنی اعتبار سے اس طرح کہ اس کو رسالت عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً چار ہزار پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ اگر ایک پیغمبر کسی قوم میں آجائے تو اس قوم کا سرفخر سے بلند ہو جاتا ہے، آسمان سے جا لگتا ہے چہ جائیکہ کسی قوم میں چار ہزار پیغمبر آئیں۔ پھر چار بڑی مشہور کتابوں میں سے تین کتابیں بھی رب تعالیٰ نے ان کو دیں۔ توراہ موسیٰ علیہ السلام کو، زبور داؤد علیہ السلام کو، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ فرمایا.....

روزِ قیامت کی نفسا نفسی :

وَاتَّقُوا يَوْمًا أُورِثُوا قِيَامَتِ كَدِّ دَنِّ سَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسًا
 كَفَايَتِ كَرَّ كَا كُوْنِي نَفْسٍ عَن نَّفْسٍ شَيْنًا كَسِي نَفْسٍ كِي طَرْفٍ سَ كَچھ بھی۔
 لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْنًا نَه بَاپ
 بیٹے کے کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اور تیسویں پارے میں آتا ہے۔
 يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اس دن
 آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنے ماں، باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں
 سے بھاگے گا اس سے اندازہ لگا لو کہ کوئی کسی کے کیا کام آئے گا؟۔ محشر والے دن یہ
 حال ہوگا کہ ایک آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ مثلاً نیکیاں بھی پچاس اور
 بدیاں بھی پچاس۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے! تیرا نیکی اور بدی والا پلہ
 برابر ہے۔ اس طرح کر کہ تو ایک نیکی تلاش کر کے لا۔ تاکہ تیرا نیکیوں والا پلہ بھاری

ہو جائے وہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ ایک نیکی کا لانا کون سا مشکل ہے؟۔ اپنے لنگوٹے یاروں کے پاس جائے گا جو ہر وقت اس کے ساتھ ٹہلتے اور چلتے پھرتے اور اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے وہ ایک نیکی دینے سے انکار کر دیں گے پھر اپنے بھائی کے پاس جائے گا کہ یہ دنیا میں میرا بازو تھا بھائی بھی انکار کر دے گا۔ پھر باپ کے پاس جائے گا وہ بھی انکار کر دے گا۔ غرضیکہ جب سارے عزیز واقارب انکار کر دیں گے تو پھر آخر میں ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا.....

اَتَّعِرْفِيْنِيْ كِيَا تُو مَجْهِيْ پِچَانْتِيْ هِيْ كِهْ مِيْسْ كُوْنْ هُوْنْ؟۔ وہ کہے گی کہ ہاں میں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا اور مشقت کے ساتھ تجھے جتنا پھر تیری پرورش کی تو میرا بیٹا ہے۔ وہ کہے گا اے میری ماں مجھے ایک نیکی دے، دے تاکہ میرا نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے وہ کہے گی اِلَيْكَ عَيْنِيْ مجھ سے دور ہو جا۔ میں نیکی تجھے دے کر خود کیا کروں گی؟۔ اس سے اندازہ لگا لو یوم محشر کا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ.....

لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ نِهَيْسْ كَفَايْتْ كَرِيْ كَا كُوْنِيْ نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا كِسِيْ نَفْسٌ كِيْ طَرْفٍ سِيْ كَجْجْ هِيْ وَيَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اُوْرْنَهْ قَبُوْلْ كِيَا جَائِيْ كَا اس سے بدلہ، جرمانہ اور فدیہ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ اُوْرْنَهْ نَفْعٌ دِيْ كَا اس کو سفارش کرنا۔ قیامت والے دن کافر، مشرک نفس کو شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی۔

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اُوْرْنَهْ اِنْ كِيْ مَدْدْ كِيْ جَائِيْ كِيْ۔ دیکھو! اگر کوئی آدمی جیل یا تھانے میں گرفتار ہو جائے تو اس کو رہا کرانے کے عقلی طور پر چار ہی طریقے ہیں.....

①..... ضمانت دے کر رہا کر لیا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو ہم اس کے ضامن ہیں کہ یہ عدالت کے طلب کرنے پر حاضر ہو جائے گا۔

②..... دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے تم جرمانہ لے کر اس کو چھوڑ دو۔

③..... تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بااثر آدمی سفارش کر کے رہا کر لیتا ہے۔

④..... چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ حملہ کر کے زبردستی رہا کر لیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن نہ تو کوئی کسی کی ضمانت دے گا اور نہ فد یہ اور جرمانہ وصول کیا جائے گا اور نہ ہی نافرمانوں کے لئے سفارش۔ اس کے متعلق یاد رکھنا کہ سفارش کی جو نفی کی گئی ہے یہ کافر اور مشرک سے سفارش کی نفی ہے۔ باقی گنہگار مومنوں کے لئے سفارش اپنی جگہ برحق ہے۔ اور مومنوں سے جو غلطیاں ہوئی ہوں گی تو ان کے لئے سفارش قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی سفارش کریں گے۔ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ حافظ قرآن بھی سفارش کریں گے۔

حفاظ، شہدا اور نابالغ بچوں کی سفارش :

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کی سفارش سے اس کی برادری کے دس مجرموں کو چھٹکارا ملے گا۔ گویا کہ حافظ قرآن صرف اپنے لئے نہیں پڑھ رہا بلکہ دوسروں کے لئے بھی پڑھ رہا ہے بشرطیکہ صحیح معنی میں حافظ قرآن ہو اسی طرح شہید بھی سفارش کریں گے۔ اور چھوٹے بچے جو نابالغی میں فوت ہو گئے ہیں۔ لڑکے

یا لڑکیاں وہ بھی سفارش کریں گے۔ بشرطیکہ ماں، باپ نے ان کی موت پر بین نہ کیا ہو۔ اگر بین کریں گے تو پھر ان کی سفارش سے محروم ہو جائیں گے۔ ہاں اگر بین کیا پھر سچے دل سے توبہ کر لی تو رب تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور نمازی اور روزے دار آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ بہر حال اہل توحید کی اہل توحید کے لئے سفارش برحق ہے۔ اور کافر اور مشرک کے لئے کوئی سفارش نہیں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت چونکہ بہت بڑی تھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا درجہ ہے یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اور اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑتا تھا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مسلک پر تھے نصاریٰ کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ اور عرب کے مشرک کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ معاذ اللہ تعالیٰ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے بیان کر کے بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اور انہوں نے کیا کام کئے تھے اور تم کیا کر رہے ہو اور ان کا تعلق کن کے ساتھ تھا؟ آگے دونوں رکوعوں تک یہی بیان چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُۥٓ وَأَرَادَ أَن يُسْقِطَٓهُۥٓ ۖ وَابْتَلَىٰٓهُ رَبُّهُۥٓ بِكَلِمَاتٍ مُّشْتَبِهَاتٍ ۖ وَقَالَ أَتَمَّ مِمَّنۢ بَدَّعُوا۟ٓ آيَاتِنَاۚ ۚ قَالَ لَا يَخَافُٓ أَسْفَاكُۙ ۚ وَمَا يَكْفُرُۙ بِمَعْبُودَاتِهِۦٓ ۖ إِنْ كُنَّا إِلَّا وَجْهًا لَّكَرِيمٍ ۚ

وہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان تو وہ لیتا ہے جسے کسی کی قابلیت اور

ایک اشکال :

اہلیت کا علم نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تو علیم کل ہے اس کے امتحان لینے کا کیا مطلب ہے؟

جواب :

اس کے دو جوابات ہیں.....

① ایک جواب یہ ہے کہ ایک امتحان تو ہوتا ہے کسی کی قابلیت اور اہلیت کو معلوم کرنے کے لئے جو عام طور پر لیا جاتا ہے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس طالب نے یہ پڑھا ہے یا نہیں فلاں کتاب اس کو یاد ہے یا نہیں؟ اور اس میں کتنی قابلیت رکھتا ہے؟۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے معلومات حاصل کرنے کے لئے۔ رب تعالیٰ کے امتحان لینے کا یہ معنی نہیں ہے کیونکہ اس کو تو سب کچھ معلوم ہے۔

② اور دوسرا معنی امتحان کا یہ ہے کہ امتحان لینے والے کو تو اس کی قابلیت اور اہلیت کا علم ہوتا ہے۔ مگر دوسرے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ لہذا امتحان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کہ تاکہ دوسروں پر اس کی خوبیاں واضح کر دی جائیں کہ اس میں کیا، کیا خوبیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی یہی غرض و غایت تھی کہ جس ہستی کو میں نے اپنا خلیل منتخب کیا ہے۔ اور اپنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ ان میں یہ، یہ خوبیاں ہیں۔

مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا فلاں شاگرد قابل ہے۔ اور وہ ہمارے سوالات کے جوابات جانتا ہے۔ اب مجمع میں ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ برخوردار اس کا جواب دے؟۔ اب ہمارا اس سے سوال کرنا اس غرض سے نہیں ہے کہ ہم اس کی قابلیت معلوم کرنا چاہتے ہیں بلکہ غرض یہ ہے کہ مجلس والے اس فضیلت کو

تسلیم کر لیں کہ کس طرح صحیح صحیح جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب امتحان لینے کی نسبت ہوگی تو اسی معنی میں ہوگی کہ مخلوق کو اس کی قدر و منزلت کا علم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے.....

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو اور تاریخ آزر کا لقب تھا۔ اس وقت کلدانیوں کی حکومت تھی اور نمرود بن کنعان بڑا ظالم، جابر اور مشرک بادشاہ اس کا دار الحکومت شہر کوسیٰ بروزن ”طوبی“ تھا۔ آج کے جغرافیہ میں اس کا نام ”اور“ (UR) ہے۔ جو چھوٹا سا قصبہ معلوم ہوتا ہے ملک عراق میں۔ اس ملک میں بے شمار بت خانے تھے اور ان کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اس حکومت کے وزیر مذہبی امور تھے وہ بت اور بت خانے بناتے تھے اور جس بت خانے میں بتوں کی کمی ہوتی تھی پوری کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے بت گر کے گھر بت شکن پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی بتوں سے نفرت تھی جس کی وجہ سے ہر وقت باپ کے ساتھ تلخی رہتی تھی۔ لیکن کبھی بے ادبی سے پیش نہیں آئے۔ جب بھی بلایا ہے یَا اَبَتِ اے ابا جی کہہ کر بلایا ہے۔ انداز نرم اور پیارا ہوتا تھا مگر کفر شرک کی تردید ڈٹ کر کرتے تھے۔ جس گھر میں جھگڑا اور آپس میں ضد بازی ہو تو بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گھر یلو جھگڑے سے بچائے۔ اور جس گھر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ بہر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحان ہوئے ہیں ان میں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں :

- ① پہلا امتحان باپ کے ساتھ مقابلہ تھا۔
- ② دوسرا امتحان پوری برادری کے ساتھ مقابلہ۔
- ③ تیسرا امتحان پورے ملک کے ساتھ مقابلہ۔
- ④ اور چوتھا امتحان نمرود بن کنعان جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے ساتھ مقابلہ تھا۔
- ⑤ ان کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے عراق سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور راستے میں امتحان۔

عراق میں یہ تین بزرگ ہی مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم، ان کے بھتیجے حضرت لوط، اور اہلیہ حضرت سارا علیہم السلام جو ان کے چچا کی بیٹی تھیں۔ یہ تینوں حضرات عراق سے ہجرت کر کے شام تشریف لے گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بدکردار بادشاہ :

راستے میں ایک ظالم بدکردار بادشاہ تھا اس علاقہ سے جو خوبصورت عورت گزرتی اسے بے آبرو کئے بغیر نہیں چھوڑتا تھا اور اگر اس عورت کے ساتھ خاوند ہوتا تو اسے قتل کر دیتا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس علاقہ سے گزرنے لگے تو بادشاہ کے کسی ملازم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟۔ فرمایا میری بیوی ہے۔ نوکرنے کہا کہ یہاں تم اس کو بیوی نہ کہنا ورنہ کسی مصیبت میں

پڑ جاؤ گے اگر تم نے بیوی کہا تو بادشاہ پہلے تمہیں قتل کرے گا پھر اگلی کارروائی ہوگی۔ شریف آدمی معلوم ہوتے ہو اور پردیسی مسافر نظر آرہے ہو۔ اس لئے ہم نے تمہیں بتا دیا ہے اگر بادشاہ تمہیں بلا کر پوچھے تو بیوی نہ کہنا بلکہ کہنا کہ میری بہن ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ملازم ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا علیہا السلام کو سمجھا دیا کہ اگر بادشاہ تجھے پوچھے کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے۔ اس لئے کہ ”أَنْتِ أُخْتِي فِي دِينِ اللَّهِ“ اللہ تعالیٰ کے دین میں تو میری بہن ہے۔ تو دینی بھائی مراد لینا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ فرمایا میری بہن ہے۔ پھر اس بادشاہ نے غلط ارادہ کیا تو گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر لگاتار ساجت کرنے اور غلط ارادے سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا مجبور ہو کر اپنی لونڈی ”ہاجرہ“ ان کو دے کر جان چھڑائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔

⑥..... اس کے بعد پھر یہ امتحان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ جہاں نہ کوئی سبزہ نہ کوئی انسان اور نہ کوئی مکان جو اس سال عورت اور دودھ پیتا بچہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔

⑥..... پھر وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا جو تقریباً تیرہ سال کی عمر کا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو؟ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر امتحان لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

بھی ہو تو ڈر نہیں ہے۔

یہ ہماری مسجدیں کعبہ سے ڈگری دو ڈگری پھری ہوئی ہیں اور یہ ہماری مسجد بھی کعبہ سے تقریباً ڈیڑھ ڈگری پھری ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد پانچ ڈگری تک بھی پھری ہوئی ہو تو نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ البتہ جوئی مسجدیں بنائی جائیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا رخ اور سمت صحیح کعبہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور وہ قبلہ نما کے ذریعہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

بیت اللہ کی تعمیر :

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِمَ مُصَلًّی اور بناؤ تم ابراہیم (علیہ السلام) کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی چنائی کرتے تھے۔ اور یہ گو"لفٹ" کا کام دیتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اور بیت اللہ کے قریب شیشے کے خول میں محفوظ ہے۔ اور اس سے پہلے یہ سطح زمین پر نصب تھا۔ مخلوق کی کثرت کی وجہ سے اب اسے تھوڑا سا دور رکھ دیا گیا ہے۔

اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کے تابع کر دیا تھا۔ جب وہ دائیں بائیں ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ دائیں بائیں ہو جاتا اور جب اوپر نیچے آنے جانے کا ارادہ فرماتے تو وہ اوپر نیچے ہو جاتا کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام دونوں باپ بیٹے نے مل کر کی۔ اس میں کوئی تیسرا آدمی شامل نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راج (مستری) کا کام کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزدور کا۔

مقامِ ابراہیم (علیہ السلام) کے دو نفل :

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت مقامِ ابراہیم کی جگہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ (یعنی جی چاہتا ہے کہ یہاں دو نفل پڑھیں)۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق حکم نازل فرمایا کہ مقامِ ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اکیس مقامات ایسے ہیں جن کے متعلق احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق نازل فرمائے ہیں۔

مسئلہ :

مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی طواف کے سات چکر پورے کر لے تو مقامِ ابراہیم کے پاس دو رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

وَعَهْدُنَا إِلَىٰ آبُرَاهِمَ وَاسْمِعِيلَ اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل (علیہما السلام) کو اَنْ طَهَّرَا بَيْتِي کہ پاک رکھو تم دونوں میرے گھر کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے۔ باطنی نجاست شرک ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے.....

اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ پختہ بات ہے کہ مشرک پلید ہیں۔ ظاہری طور پر یہ کتنے صاف نظر آئیں کہ بدن اور کپڑے صاف ہوں لیکن دل میں نجاست ہوتی ہے۔ اور دل پاک نہیں ہو سکتا چاہے سات سمندروں میں غسل کر لے جب تک کہ تہہ دل سے کلمہ طیبہ نہیں پڑھے گا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ تو فرمایا کہ میرے گھر کو پاک رکھو، کن کے لئے؟.....

لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لئے وَالْعَاكِفِينَ اور اعتکاف
 بیٹھنے والوں کے لئے وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور رکوع و سجود کرنے والوں کے
 لئے۔ رُكَّعٌ، رَاكِعٌ کی جمع ہے اور سُجُودٌ، سَاجِدٌ کی جمع ہے۔ تو اللہ
 تعالیٰ نے دونوں بزرگوں کو حکم دیا کہ عبة اللہ کو پاک رکھنے کا اور پھر یہی حکم قیامت تک
 آنے والے لوگوں کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہر قسم کی نجاست سے پاک
 رکھیں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ۗ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۗ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

لفظی ترجمہ :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَوْ رَبِّ اجْعَلْ
هَذَا اے میرے رب! بنا دے اس کو بَلَدًا اِمْنًا شہر امن والا وَارْزُقْ
اَهْلَهُ اور رزق دے اس کے باشندوں کو مِنْ الثَّمَرَاتِ پھلوں سے۔
مَنْ اَمِنَ مِنْهُمْ جو کوئی ان میں سے ایمان لائے بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فرمایا (اللہ تعالیٰ
نے) اور جس نے کفر کیا فَاُمْتِئْتُهُ قَلِيلًا پس اس کو بھی فائدہ
پہنچاؤں گا تھوڑا سا ثُمَّ اضْطَرُّهُ پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا اِلَى
عَذَابِ النَّارِ دوزخ کے عذاب کی طرف وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ
بہت برا ٹھکانہ ہے۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ اَوْ رَبِّ اٹھا رہے تھے ابراہیم (علیہ السلام)
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ بیت اللہ کی دیواریں وَاسْمِعِلْ اور
اسماعیل (علیہ السلام) بھی رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے ہمارے پروردگار! قبول فرما
ہم سے اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک تو ہی ہے سنے والا
جاننے والا۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ اے ہمارے رب اور
بنادے ہم دونوں کو فرما نبردار اپنا وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد میں سے

بھی اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لِّكَ اِيك امت جو فرمانبردار ہو تیری وَاٰرِنَا
مَنَاسِكِنَا اور دکھا ہم کو ہمارے احکام وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر
رجوع فرما اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ بے شک تو ہی ہے رجوع
فرمانے والا، مہربان۔

رَبَّنَا اے ہمارے رب! وَاَبْعَثْ فِيْهِمْ اور بھیج ان میں
رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اِيك رسول ان ہی میں سے يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ
جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ اور تعلیم
دے ان کو کتاب کی وَالْحِكْمَةَ اور دانائی کی وَيُزَكِّيْهِمْ اور ان کو
پاک کرے اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ بے شک تو ہی ہے
زبردست، حکمت والا۔

وَبَطَل :

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت
اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور شیر
خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ اور جہاں کعبۃ اللہ ہے اس کے سامنے
ایک درخت تھا اس کے نیچے بٹھا دیا پانی کا ایک مشکیزہ اور تھوڑی سی کھجوریں بھی ان کو
دے دیں اور ان کو پہلے یہ پروگرام بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے تمہیں وہاں پہنچا کر
واپس آ جانا ہے۔ جب واپس جانے لگے تو فرمایا کہ.....

تم ماں بیٹے نے یہیں رہنا ہے۔

☆..... حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟۔

☆..... فرمایا میں واپس شام جا رہا ہوں۔

☆..... کہنے لگیں اِلٰی مَنْ تَنْتَرُ كُنَّا يَا اِبْرَاهِيْمَ؟ اے ابراہیم!

ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس وقت وہاں نہ کوئی مکان

تھا اور نہ کوئی انسان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے، آگے جا رہے ہیں

اور حضرت ہاجرہ پیچھے، پیچھے چل رہی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ہمیں کس

کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟۔ جب جواب نہ ملا تو پھر خود ہی کہا.....

☆..... اللهُ اَمْرَكَ بِهَذَا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں

چھوڑنے کا؟۔

☆..... فرمایا ہاں!۔

☆..... کہنے لگیں اِذَا لَا يُضَيِّعُنَا تَب وَهَمِيں ضَالِعٍ نَهِيں کرے گا؟

فِي اٰمَانِ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالٰى كى امان ميں رہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ چند دنوں میں وہ کھجوریں اور پانی جو

ان کے پاس تھا ختم ہو گیا۔ بھوک، پیاس نے ستایا تو صفا پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر

دیکھا کوئی انسان نظر نہ آیا تو صفا اور مروہ کے درمیان جہاں پر سعی ہوتی ہے گہرائی تھی

اور بارش کا پانی یہاں سے گزرتا تھا۔ اور اب اوپر چھت ڈال دی گئی ہے۔ اور پانی

اب بھی وہیں نیچے سے گزرتا ہے۔ کیونکہ متبادل راستہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے دوڑ کر

مروہ پر چڑھیں ادھر ادھر دیکھا وہاں بھی کوئی آدمی نظر نہ آیا اس طرح سات چکر

لگائے۔ عجیب حالت تھی دوڑ کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں کہ بچہ زندہ بھی ہے یا

نہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے غیبی آواز آئی پریشان نہ ہو۔
☆..... فرمایا غیبی آوازے دینے والے کچھ ہماری مدد بھی کر؟۔

زمزم کا چشمہ :

✽..... اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جہاں حضرت اسماعیل
علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پاؤں مارا تو اللہ تعالیٰ نے آب زم زم کا چشمہ جاری فرما
دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا۔ مشکیزہ بھرا اور وہاں گڑھا
بنادیا تاکہ پانی جمع رہے۔

مکہ مکرمہ کی آبادی :

قبیلہ بنو جرہم وہاں سے گزرتا رہتا تھا مگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ٹھہرتا
نہیں تھا۔ اس دفعہ گزرے تو پانی کو دیکھ کر قریب ہوئے۔ اور دیکھا کہ وہاں پر ایک
عورت اور بچہ بھی ہے۔ ان سے پوچھا کہ اگر ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دو تو
ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں۔ انہوں نے رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ کافی بڑا قافلہ تھا
ان میں بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں شامل تھیں۔

بخاری شریف میں آتا ہے کہ تَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ الْإِسْمَاعِيلَ حضرت
اسماعیل علیہ السلام نے عربی انہیں سے سیکھی۔ اس سے پہلے ان کی کون سی زبان تھی تعین
نہیں کر سکتے کہ عراق کی کردی زبان تھی یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور زبان تھی۔
بہر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ماں بیٹے کو وہاں چھوڑا تو دعا کی اس کا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

دنیا کی زندگی کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا فرمان مبارک :

حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے چودہ سو سال تھی۔ ساڑھے نو سو سال تو قوم کو تبلیغ کی نبوت ملنے سے پہلے بھی کچھ عمر تھی۔ اور طوفان نوح کے بعد کئی سو سال تک زندہ رہے جب وفات کا وقت آیا تو کسی نے پوچھا حضرت آپ دنیا میں بڑی دیر رہے ہیں دنیا کو کس طرح دیکھا؟۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ”اس طرح سمجھو کہ ایک مکان ہے جس کے دو دروازے ہیں ایک سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل آیا ہوں“۔

چودہ سو سال کی عمر کو انہوں نے کس طرح معمولی سمجھا؟۔ مگر ہم اس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت میں ابھی بڑی دیر ہے۔ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ نہ نیکی کی طرف دھیان ہے اور نہ توبہ کی طرف۔ حالانکہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کو تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا.....

ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بات آپ حضرات کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ نہ جنت دور ہے اور نہ دوزخ۔ بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ دفن ہونے سے پہلے فرشتے بھی نظر آنے لگ جائیں گے اور جنت اور دوزخ بھی نظر آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر فرماتے ہیں۔
فرمایا.....

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم (علیہ السلام) بیت اللہ کی دیواریں وَاسْمِعِيلُ اور اسماعیل (علیہ السلام) بھی۔ اینٹ یا

پتھر رکھ کر اس کے اوپر گارا یا سیمنٹ لگا کر اوپر دوسری اینٹ یا پتھر جوڑا جاتا ہے اور دیوار بلند ہو جاتی ہے۔ اس کو ”قاعدہ“ کہتے ہیں۔ جس کو ہم لوگ رڈے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام رڈے لگا کر بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام انہیں گارا یا پتھر دے رہے تھے اس وقت دونوں نے دعا کی.....

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے ہمارے پروردگار! قبول فرما ہم سے اس خدمت

کو۔

”کعبہ“ کا معنی :

”کعبہ“ کا معنی ہے ”الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ الْمُرَبَّعُ“ چار کونے

والی اونچی جگہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد اس کا نشان مٹ گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لکیر کھینچ کر بتایا کہ یہ جگہ کعبۃ اللہ کی ہے۔ کعبۃ اللہ چوالیس مربع فٹ ہے۔ یعنی ہر طرف سے چوالیس، چوالیس فٹ ہے۔ اور پچاس فٹ بلند ہے۔

مفسرین کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیم ذوالقعدہ کو شروع فرمائی اور پچیس ذوالقعدہ کو مکمل کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راج (مستری) کا کام کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزدور کا۔ قریبی پہاڑ سے پتھر لا کے دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام جوڑتے تھے۔

اب کعبۃ اللہ حجر اور حطیم کی طرف سے گیارہ فٹ باہر نکال دیا گیا ہے۔ لہذا

اس طرف سے تینتیس/۳۳ فٹ باقی رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے اعلان نبوت سے پانچ سالی پہلے کی بات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک

پینتیس/۳۵ سال تھی۔ کعبۃ اللہ کو کچھ نقصان پہنچا۔ تو اس دور کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا۔

بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر :

”وہب بن عابد مخزومی“ جو اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی تھے، نے اعلان کیا کہ ہمیں چندہ دو مگر ہم چوری، رشوت، سود اور کسی قسم کی حرام کی کمائی نہیں لیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے۔ چنانچہ اتنی رقم اکٹھی نہ ہو سکی کہ مکمل عمارت تعمیر ہو سکتی۔ اس لئے اتنا حصہ چھوٹا دیا گیا اور رب تعالیٰ کی حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔

بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوں مگر ہر آدمی کے لئے دروازہ کون کھولتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے لئے وہ حصہ باہر نکلوادیا کہ کمزور لوگ بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو سکیں۔ اور ان لوگوں کی آرزو بھی پوری ہو جائے اور یاد رکھنا جس شخص نے حجر اور حطیم میں نماز پڑھی اس نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔

اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ بِنَادِے ہم دونوں کو فرمانبردار اپنا وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد میں سے بھی اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ ایک امت جو فرمانبردار ہو تیری۔ اس دعا کے نتیجے میں ہمارا نام مسلمان ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ابراہیم (علیہ السلام) نے ہی تمہارا نام مسلمان کھوایا ہے۔

وَ اَرَنَا مَنَابِغًا اور دکھا ہم کو ہمارے احکام۔ یعنی ہمیں حج کے احکام

بتادے کہ ہم نے کہاں ٹھہرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہمارے
 اوپر رجوع فرما إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو ہی ہے رجوع فرمانے
 والا، مہربان۔ اور رَبَّنَا اے ہمارے رب! وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
 اور بھیج ان میں ایک رسول ان ہی میں سے۔ چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت
 اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر دعا کی تھی اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی نسل سے
 ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دونوں کی نسل سے اور کوئی نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ میرے دنیا میں آنے کے ظاہری سبب تین ہیں.....

بعثت محمدی کے تین ظاہری اسباب :

① دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ جو
 انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کی تھی رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
 رَسُولًا مِنْهُمْ۔

② دَوْمٌ وَبُشْرَى عِيسَى حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں اور
 حواریوں کو میرے آنے کی بشارت سنائی تھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے
 وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
 اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور
 اس کا نام احمد ہوگا۔

بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا
 أَحْمَدُ میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں۔ یعنی میرا نام ”محمد“ بھی ہے اور ”احمد“
 بھی ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَيَّ قَدَمَيَّ

میرا نام ”حاشر“ بھی ہے جس کے قدموں میں یعنی جھنڈے کے نیچے سارے لوگ جمع ہوں گے قیامت والے دن۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدِي اور میرا نام ”عاقب“ بھی ہے۔ ”عاقب“ کے معنی ”آخری“ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

③..... تیسرا ظاہری سبب فرمایا ”میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے“۔ تو یہ آپ ﷺ کے دنیا میں تشریف لانے کے اسباب ہیں۔ اور ان میں سے ایک سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ دعا میں یہ بھی مانگا.....

نبی اکرم ﷺ کے چار فرائض منصبی :

①..... يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَه تِلَاوَاتِ كَرَّهَ ان پَر تِيرِي آيَاتِيں۔ یعنی ان کو پڑھ کر سنائے۔ آپ ﷺ کے اوّل مخاطب چونکہ عربی تھے اور عربی ان کی مادری زبان تھی۔ اس لئے قرآن کریم کے اکثر مضامین تو وہ محض سننے سے ہی سمجھ جاتے تھے۔

②..... وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعليم دے ان کو کتاب کی۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف سننے سے نہیں سمجھ سکتے تھے تو آپ ﷺ اس کی تفسیر کر دیتے کہ اس کا یہ مطلب اور مفہوم ہے۔ مثلاً پانچویں پارے میں آیت آتی ہے.....

مَنْ يَعْمَلْ سُوًّا يُجْزِ بِهٖ جَوْشَخْصِ بَرِّ عَمَلِ كَرَّهَ ان كَابِدَلَهٗ دِيَا

جائے گا اس کی سزا پائے گا یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ہم میں سے کون سا آدمی ہے جس سے کوئی نہ کوئی برائی نہ ہو؟ معصوم تو صرف پیغمبر ہیں۔ ان کے بغیر کوئی معصوم تو نہیں ہے؟۔ لہذا چھوٹی بڑی غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ بدلہ قبر، برزخ اور آخرت میں ہوگا کہ جس کے نتیجے میں دوزخ جانا پڑے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ يُجْزِبُہ کا مطلب ہے کہ مومن کو دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس عمل کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ مثلاً بخار ہے، گرمی، سردی ہے، سرد درد ہے، کمر درد ہے، گھٹنے کا درد ہے، پیٹ درد ہے، کوئی تکلیف ہو یہ گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ چلتے چلتے جیب سے رقم گر گئی یہ بھی گناہ کا کفارہ ہوگئی۔ حتیٰ کہ کانٹے کا چھب جانا اور چیونٹی کا کاٹنا یہ بھی گناہ کا کفارہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی اور قرآن کریم کا پڑھنا اور سمجھنا بڑا کام ہے۔

ابن ماجہ جو صحاح ستہ کی کتاب ہے اس میں روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی ایک آیت سیکھے گا (بغیر ترجمہ کے) اس کو سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا اور جو شخص ایک آیت کریمہ ترجمہ کے ساتھ سیکھے گا اس کو ہزار نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور یاد رکھنا! قرآن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھنا مردوں، عورتوں سب کے لئے ضروری ہے۔ پہلے تو خیر اس کے لئے کافی دقت ہوتی تھی اور اب الحمد للہ ہر جگہ اس کا انتظام ہے صرف ہمارے ہاں (گلگھڑ میں) عورتوں کی تعلیم کے پانچ چھ مدرسے ہیں۔ جہاں عورتیں ہی پڑھاتی ہیں۔ اور الحمد للہ ان شاخوں میں وہ بچیاں پڑھاتی ہیں جنہوں نے براہ راست سالہا

سال مجھ سے پڑھا ہے۔ اب تو پڑھنے والیوں کی ضرورت ہے۔

③ آپ ﷺ کا تیسرا کام وَالْحِجْمَةُ اور دانائی کی تعلیم دے یعنی

حدیث کی۔ حدیث کے الفاظ بھی آپ نے بیان فرمائے اور معانی بھی سکھائے۔

ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں اور ہر،

ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے حیران ہوئے اور عرض کیا۔ حضرت!

”مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ“ کس کو اس کی طاقت ہے کہ روزانہ تین سوساٹھ صدقے

کرے؟ فرمایا.....

صدقہ کا شرعی مفہوم :

”تم نے صدقے کا معنی روپیہ دینا ہی سمجھا ہے۔ صرف یہ معنی نہیں ہے بلکہ

ایک دفعہ الحمد للہ کہا صدقہ ادا ہو گیا۔ ”سبحان اللہ“ کہا صدقہ ادا ہو گیا ہے۔ ”اللہ اکبر“

کہا، صدقہ ادا ہو گیا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا صدقہ ادا ہو گیا۔ ”وعلیکم السلام“ کہا صدقہ

ادا ہو گیا۔ بلکہ ایک دوسرے کو ملتے وقت خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے۔

راستہ پر اینٹ پتھر پڑا ہوا جو لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث ہے اس کو راستے سے ہٹا

دینا بھی صدقہ ہے۔ ناواقف کو راستہ بتا دینا یا اس کو منزل تک پہنچا دینا بھی صدقہ

ہے۔

نفل نماز کی جماعت :

ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے دس نیکیاں بھی ملتی ہیں اور ایک صدقہ بھی ادا

ہو گیا۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تین سوساٹھ صدقے ایک ہی کام میں آجائیں تو وہ بھی

ہے کہ چاشت کی نماز پڑھو۔ چاشت کی دو رکعت پڑھو۔ اس میں تین سوساٹھ صدقے

ہیں۔ اور نماز چاشت کے لئے مسجد میں جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ گھر میں پڑھ لو، دفتر میں، کارخانے میں، اپنی زمین میں جہاں کہیں بھی پڑھ سکتے ہو اور یہ اکیلے پڑھنی ہے۔ جماعت کے ساتھ نہیں کیونکہ نفل نماز کے لئے جماعت کا اہتمام کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بات تمام فقہاء کرام رضی اللہ عنہم نے لکھی ہے۔

اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل نماز میں اگر ایک دو آدمی ساتھ مل جائیں تو کراہت نہیں ہے اور اگر تیسرا ساتھ مل گیا تو مکروہ تزیہی ہے۔ اور چوتھا ساتھ مل گیا تو مکروہ تحریمی ہے یعنی حرام ہے۔ مردوں کے متعلق یہ حکم ہے۔

اور اب عورتوں نے یہ بدعت شروع کی ہے کہ صلوٰۃ التسبیح کے لئے اہتمام کرتی ہیں اور اس کے لئے باقاعدہ مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں یہ تمام بدعت ہیں۔ اور بدعت کا گناہ تو ہوتا ہے۔ ثواب نہیں ہوتا۔ کیونکہ بدعت سے دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنی جگہ تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، صلوٰۃ التسبیح پڑھو، بڑی سعادت کی بات ہے۔ مگر اس کے لئے اہتمام کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ بدعت سے محفوظ فرمائے۔

تو خیر! صدقے کے متعلق بیان کر رہا تھا کہ صدقہ ضروری نہیں کہ رقم اور جنس کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے بلکہ اللہ، اللہ کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ جاہلوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صدقہ ”کالی سری“ کا نام ہے کہ ”کالی سری“ دینے سے سب بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔

صدقے کا مفہوم ہے، غریب کی ضرورت پوری کرنا، غریب کو ضرورت ہے کپڑے کی تم ”کالی سری“ اس کی جھولی میں ڈالتے ہو۔ وہ اس کا کیا کرے گا۔ اس کو جوتے کی ضرورت ہے۔ اس کے بچے پڑھتے ہیں ان کو کتابوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ

ضرورت ”کالی سری“ تو پوری نہیں کرے گی۔

لہذا جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو دو، چاول کی اس کو ضرورت ہے وہ اس کو دو۔ کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑا لا کر دو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نقد رقم دے دو اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرے گا۔ آنحضرت ﷺ کا چوتھا کام تھا ”تزکیہ نفس“۔
فرمایا.....

④ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے۔ حقیقتاً تزکیہ یعنی دلوں کی صفائی تو رب کرتا ہے آپ ﷺ اس کا ذریعہ تھے۔ آپ ﷺ کے اخلاقِ حسنہ اور تعلیم و تربیت سے لوگوں کے دل صاف ہو جاتے تھے۔ آپ ﷺ کے ہوتے ہوئے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگر اب زنگ اتارنے کے لئے وظائف کرنے پڑتے ہیں۔ پیر کامل اپنے مریدوں کو اگر کوئی وظیفہ بتائے گا اور وہ توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو یقیناً اثر ہوگا۔

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی ہے زبردست، حکمت والا۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ
 نَفْسَهُ ۗ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ
 فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ
 رَبُّهُ أَسْلِمُ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
 ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۗ
 يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا
 تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ
 شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ ۗ إِذْ قَالَ
 لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ۗ قَالُوا نَعْبُدُ
 إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا ۗ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
 ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ
 وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا
تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۵﴾

لفظی ترجمہ :

وَمَنْ يَرْغَبُ اور کون اعراض کرتا ہے عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
ابراہیم (علیہ السلام) کی ملت اور طریقے سے إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ مگر وہ
شخص جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي
الدُّنْيَا اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ابراہیم (علیہ السلام) کو دنیا میں وَإِنَّهُ فِي
الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ نیکو
کاروں سے ہوگا۔

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ جب فرمایا اس کو اس کے رب نے أَسْلِمَ جھک
جا (میرے سامنے) قَالَ فرمایا (ابراہیم علیہ السلام نے) أَسَلَمْتُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ جھک گیا میں رب العالمین کے سامنے۔

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ اور وصیت کی (اس ملت پر قائم رہنے کی)
ابراہیم (علیہ السلام) نے بَنِيهِ اپنے بیٹوں کو وَيَعْقُوبُ اور يعقوب
(علیہ السلام نے بھی) يُبْنِيَّ اے میرے بیٹو! إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى بے شک

اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے لَكُمْ الدِّينَ تمہارے لئے دین فَلَا تَمُوتُنَّ پس تم ہرگز نہ مرنا اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ کیا تم حاضر تھے اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ جب حاضر ہوئی یعقوب (عَلَيْهِ السَّلَامُ) کے پاس موت اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟۔ قَالُوا کہا انہوں نے نَعْبُدُ الْهَيْكَلَهُمْ عبادت کریں گے تیرے معبود کی وَاللّٰهَ اَبَائِكَ اور تیرے باپ، دادا کے معبود کی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) تھے اِلٰهًا وَاَحَدًا جو ایک ہی اللہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ ایک گروہ تھا تحقیق وہ گزر گیا لَهَا مَا كَسَبَتْ اس کے لئے ہے جو اس نے کمایا وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لئے ہے جو تم نے کمایا وَلَا تُسْئَلُونَ اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔

وَقَالُوا اور کہا انہوں نے كُونُوا هُودًا اَوْ نَصْرٰی ہو جاؤ تم

یہودی یا نصرانی تَهْتَدُوا ہدایت پا جاؤ گے قُلْ آپ (ﷺ) کہہ دیں
 بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا بلکہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے جو
 ایک طرف ہونے والے تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ اور نہیں
 تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔

رہنما :

اس سے پہلے رکوع میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر تھا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم
 اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا اور پچیس دن میں مکمل کر دیا۔ بعض مفسرین
 کرام علیہ السلام نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کا درجہ زمین کے تمام ٹکڑوں سے بلند ہے۔ سوائے
 زمین کے اس ٹکڑے کے کہ جہاں آنحضرت ﷺ مدفون ہیں کہ اس کا درجہ کعبۃ اللہ
 عرش کرسی حتیٰ کہ لوح سے بھی بلند ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر اور ابراہیم علیہ السلام کے
 کارناموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کے طریقہ سے چہرہ پھیرے گا
 وہ بے وقوف آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے.....

ملت ابراہیمی کی پیروی :

وَمَنْ يَّرْغَبْ اور کون اعراض کرتا ہے عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ ابراہیم
 (ﷺ) کی ملت اور طریقے سے اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ مگر وہ شخص جس نے
 اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اس مذہب کا نام
 تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا
 اور اس کو اپنایا تو اس مذہب سے وہی شخص اعراض کرے گا، چہرہ پھیرے گا جو بے

وقوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اٰوْرَابِلْتَهٗ تَحْقِیْقِ ہِمۡ نَے چن لیا ابراہیم
(ؑ) کو دنیا میں۔ حضرت ابراہیم ؑ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام اور فضیلت
عطا فرمائی ہے۔ البتہ متعدد دلائل سے ثابت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو
فضیلت کلی یعنی تمام کائنات پر فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات
آنحضرت ﷺ کو عطا فرمائے ہیں وہ اور کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ خصوصاً آپ ﷺ کا
خاتم النبیین ہونا بہت بلند مقام ہے۔ آپ ﷺ کی فضیلت کلی کی وہ دلیلیں نہ ہوتیں تو
یہ آیت کریمہ اور اس قسم کی دوسری آیات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم ؑ کا درجہ سب
سے بلند ہے۔ مگر آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے
کسی پیغمبر کو نہیں عطا فرمائے۔ لہذا آنحضرت ﷺ کا مقام تمام مخلوقات سے بلند
ہے۔ اور آپ ﷺ کے بعد مخلوق میں سب سے بلند مقام ابراہیم ؑ کا ہے۔

جن علماء کرام نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ”حضرت
ابراہیم ؑ کے بعد حضرت موسیٰ ؑ کا درجہ ہے وہ بڑے رتبے اور شان والے پیغمبر
تھے۔“ تو حضرت ابراہیم ؑ کا درجہ حضور ﷺ کے بعد سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں.....

پیغمبر فرشتوں سے افضل ہیں :

وَ اِنَّہٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ اور بے شک وہ آخرت میں البتہ
نیکی کاروں میں سے ہوگا۔ پیغمبر سے بڑھ کر صالح کون ہو سکتا ہے؟۔ پھر وہ پیغمبر جو
پیدائش سے لے کر وفات تک امتحانوں میں ہی رہا ہو جس کی تفصیل قرآن کریم میں

موجود ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ پیغمبروں کا درجہ اور مقام فرشتوں سے بلند ہے۔ اگرچہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور معصوم عن الخطاء ہیں اور پیغمبر انسان بشر اور آدمی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوة اور رسالت کا منصب اتنا بلند رکھا ہے کہ فرشتوں کا درجہ اور مقام پیغمبروں سے کم ہے۔ اور اسی لئے انسان مجموعی لحاظ سے اشرف المخلوقات ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں ان کی وجہ سے انسان کا پلہ بھاری ہو گیا ہے اور مجموعی لحاظ سے فرشتے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فرمایا.....

اذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْتُ
(میرے سامنے) قَالَ تَوَابَرَا اِهِيْم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَسَرَبِ الْعُلَمِيْنَ جَهَكَ گيا ميں رب العالمين کے سامنے، فرمانبردار ہو گیا رب العالمين کا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔

①..... پہلا حکم یہ تھا کہ باپ کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو تبلیغ کرو اور توحید کی دعوت دو اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی باپ سے بات کی تو یا اَبْتِ، یا اَبْتِ، یا اَبْتِ اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی کہہ کر بڑے اچھے اور پیارے انداز میں تبلیغ کی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ باپ بٹ بنانے والا اور بیٹا بٹ گرانے والا۔ باپ بٹ گرا اور بیٹا بٹ شکن پھر آخر دم تک سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی اور ادب و احترام بھی ملحوظ رکھا۔

②..... پھر دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی تبلیغ کرو اور واضح طریقہ سے شرک کی تردید کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کے علاوہ وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ نمرود بن کنعان جو بت پرستوں کا پیر و مرشد تھا کو بھی تبلیغ کی

اور اس کے سامنے کلمہ حق بیان کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کی مخالفت مولیٰ۔ بادشاہ کی مخالفت اور باپ کی مخالفت برداشت کی اور نبوت ملنے کے بعد اسی/۸۰ سال تبلیغ کرتے رہے۔ ہمت نہیں ہاری۔ آپ علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، قید کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا اور بہت کچھ ہوا۔ مگر اَسَلِمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں فرمانبردار ہو گیا رب العالمین کے سامنے۔

④..... پھر رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ہجرت کر کے شام چلے جاؤ۔ پورے ملک عراق میں صرف تین موحد تھے

①..... ابراہیم علیہ السلام ②..... ان کی اہلیہ حضرت سارا علیہا السلام

③..... اور بھتیجے حضرت لوط بن حاران بن آزر۔

کوئی چوتھا آدمی ساتھ نہیں ملا۔ دوران سفر آزمائشیں آئیں پھر حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو حکم ہوا کہ بیوی کو بتائے بغیر ان کو ساتھ لے جاؤ اور مکہ مکرمہ چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ دمشق سے مکہ مکرمہ انگریزی میلوں کے حساب سے تقریباً پندرہ سو میل کا فاصلہ ہے سڑکیں نہیں، آمد و رفت کے ذرائع نہیں، جنگلات سے گزرنا ہے۔ دشوار گزار سفر کر کے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو رب تعالیٰ نے فرمایا.....

”یہ جو درخت کھڑا ہے اس کے نیچے ان کو بٹھا کر واپس چلے جاؤ“۔ دیکھو! کتنا بڑا امتحان ہے کہ جواں سال بیوی، دودھ پیتا بچہ، اور وہاں چھوڑنا ہے کہ جہاں نہ آبادی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی انسان، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا صرف رب کا حکم

ہے اور مانتے چلے جا رہے ہیں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور شیطان کو کنکریاں مارنا :

پھر وہی بچہ جب کام کاج کی عمر کو پہنچتا ہے تو رب تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کو ذبح کر دو۔ کوئی قیل و قال نہیں کی کہ ”اے پروردگار! ایک ہی تو بچہ ہے اس کو بھی ذبح کر دوں رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لئے تیار ہیں“۔ ابلیس لعین نے بڑے حیلے بہانے کئے، پھسلانے کی کوشش کی۔ مگر اس کو پتھر مارے کہ تو دور ہو جا یہ حاجی حضرات جمرات کی رمی کرتے ہیں۔ جمرہ عقبی، جمرہ اولیٰ اور جمرہ ثانیہ شیطانوں کو مارتے ہیں۔ یہ وہی جگہیں ہیں جہاں شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کے لئے آیا تھا۔ اور انہوں نے اس کو پتھر مارے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لئے منیٰ کی طرف لے جا رہے تھے تو شیطان بڑا بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا.....

☆..... حضرت! اس کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟۔

*..... فرمایا میں اس بچے کو رب تعالیٰ کی رضا کے لئے ذبح کرنے کے لئے

لے جا رہا ہوں۔

☆..... کہنے لگا تمہارے کتنے بچے ہیں؟۔

*..... فرمایا: یہی ایک ہے۔

☆..... تو کہنے لگا اس کو ذبح کرنا گوارا کر لو گے؟۔

*..... فرمایا رب تعالیٰ کا حکم ہے۔

☆..... کہنے لگا رب تعالیٰ کا حکم سر آنکھوں پر مگر اس کا مطلب سمجھنا چاہیے۔
اس میں کوئی اور قسم کا اشارہ ہوگا۔ یعنی ذبح کرنا مقصود نہیں ہوگا کچھ اور
مراد ہوگی۔

*..... حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو سات کنکر مارے۔
مگر وہ تو شیطان خبیث تھا آگے جا کر پھر سامنے آ گیا اور کہنے لگا
کہ.....

☆..... رب تعالیٰ کے حکم میں تو کوئی قیل و قال نہیں ہے۔ مگر سوچو اس کا
مفہوم کوئی اور ہوگا؟۔

*..... پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ اکبر کہہ کر سات کنکر مارے کہ
اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اس کا حکم ماننا ہے تو باز آ جا۔

☆..... پھر تیسری مرتبہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور وہی بات دوہرائی۔

*..... پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر سات کنکر یاں ماریں۔

یہ رمی جمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حکماً واجب ہے۔ اگر کسی سے رہ
جائے تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی معذور ہے، بہت بوڑھا ہے یا وہاں جا کر بیمار
ہو گیا ہے کہ خود رمی نہیں کر سکتا تو اس کو نائب بنانے کی اجازت ہے۔ مگر وہ نائب پہلے
اپنی رمی کرے گا اور پھر اس کی طرف سے رمی کرے گا۔

انبیاء (علیہم السلام) اور علم غیب :

اے نوجوانو! یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لو کہ غلط کار لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر

سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر پیغمبر سب کچھ جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے لے جا رہے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی علم تھا کہ میں نے ذبح نہیں ہونا پھر تو معاف کرنا یہ ایک ڈرامہ ہی تھا۔ (معاذ اللہ تعالیٰ)۔ اور باپ بیٹے نے ایک کھیل کھیلا تھا جس کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر قربانی کا نتیجہ تو کوئی نہ ہوا۔

حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ باپ حقیقتاً قربانی کرنے کے لئے جا رہا تھا اور بیٹا حقیقتاً قربان ہونے کے لئے جا رہا تھا۔ اور اسی وجہ سے باپ بیٹے کی عظمت دنیا والوں پر نمایاں ہوئی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باقی بیٹے :

وَوَصَّىٰ بِهَآ اِبْرٰهٖمُ، ”هَآ“ ضمیر ”مِلَّتْ“ کی طرف لوٹ رہی ہے معنی ہوگا اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس ملت پر قائم رہنے کی بَسْبِہ اپنے بیٹوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پانچ بیٹوں کا ذکر ملتا ہے دو کا قرآن کریم میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور تین کا ذکر تاریخ اور توراہ میں آتا ہے۔ حضرت مدین، حضرت مدائن اور حضرت قیدار علیہم السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کوئی نہیں تھی۔ اس لئے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ اسلام نہ چھوڑنا۔

وَيَعْقُوبُ اور يعقوب (عليه السلام) نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اسلام پر قائم رہنا۔ حضرت يعقوب (عليه السلام) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بارہ بیٹے عطا فرمائے تھے، بیٹی ان کی بھی نہیں تھی اس لئے انہوں نے بھی

اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی.....

يٰۤاِبْنَیَّ اے میرے بیٹو! اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی لَکُمُ الدِّیْنَ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لئے دین فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اسلام پر قائم رہنا۔

نیکی کا اختیار اور توفیق :

پہلے لوگوں کی یہی وصیتیں ہوتی تھیں۔ کہ اسلام پر قائم رہنا، اعمال اچھے کرنا، آخرت کا فکر کرنا اپنے ارادے کو درست رکھنا۔ کیونکہ نیکی، بدی میں ارادے کا دخل ہے تم جیسا ارادہ کرو گے اللہ تعالیٰ ویسی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بندہ مختار ہے مجبور نہیں ہے۔ مثلاً تم نے اپنے گھر سے مسجد میں آنے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور تم آ گئے۔ جو نہیں آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے جبراً تو نہیں روکا کہ تم مسجد میں نہیں آ سکتے انہوں نے آنے کا ارادہ نہیں کیا وہ اس وقت گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور ایسے بد بخت بھی ہوں گے جنہوں نے اٹھ کر سحری بھی نہیں کھائی ہوگی۔ اور روزے بھی نہیں رکھے ہوں گے۔ ان کی نیت وہ تھی لہذا وہ اپنی نیت پوری کر رہے ہیں۔ انسان نیکی بدی کرنے میں مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے.....

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ پس جس کا جی چاہے

ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے اور دوسرے مقام پر آتا ہے وَهَدٰیْنٰهُ النَّجْدَیْنِ اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیئے۔ تو رب تعالیٰ نے نیکی، بدی کے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں پھر جس راہ پر کوئی چلے گا نَسُوْلَہ

مَا تَوَلَّيْكُمْ پھر پھیر دیں گے ہم اس کو اس طرف جس طرف وہ پھرے گا۔ یعنی جس راہ کا کوئی ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق دے دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کو ارادے کا اختیار دیا ہے، مجبور محض نہیں ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت :

تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین کو چنا ہے۔ پس تم اسلام پر قائم رہنا انہوں نے تو اسلام پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی برخلاف اس کے یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ یہودیت یعنی یہودی مذہب نہ چھوڑنا اور ان کا یہ پروپیگنڈہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ۖ كَمَا تَمَّ حَاضِرْتُمْ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۖ جَبَّ حَاضِرَهُ يَعْقُوبُ (۱۱۱) کے پاس موت؟۔ یعنی تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ انہوں نے یہودیت کی وصیت فرمائی تھی تو کیا جب ان کو موت آئی تھی اس وقت تم موجود تھے۔ جو تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی۔ اور تمہاری یہودیت تو یہ ہے کہ اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ رُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ انہوں نے بنا لیا اپنے مولویوں اور پیروں کو رب تعالیٰ کے سوا۔ تو انہوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنانے کی وصیت کی تھی؟۔ (معاذ اللہ تعالیٰ)۔ اب تم سنو کہ انہوں نے کیا وصیت فرمائی تھی جب موت حاضر ہوئی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے

اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ جَب كہا انہوں (يعقوب ؑ) نے اپنے بیٹوں سے
 مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي كَس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟۔ قَالُوا كہا
 انہوں (بیٹوں) نے نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَآلَةَ آبَائِكَ ہم عبادت کریں گے
 تیرے معبود کی اور تیرے باپ، دادا کے معبود کی اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحٰقَ
 جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق (ؑ) تھے، ان کے الہ کی عبادت کریں گے اِلٰهًا
 وَآحِدًا جو ایک ہی الہ ہے۔

تو یعقوب ؑ نے تو مرتے وقت توحید کی وصیت فرمائی تھی اور ظالموں! تم نے
 اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا ہے۔ تمہاری اس یہودیت کے ساتھ ان کا کیا
 تعلق ہے؟۔ اور یعقوب ؑ کے بیٹوں نے یہ بھی کہا.....

وَنَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یعنی ہم مسلمان
 ہی مریں گے اور اسلام پر ہی قائم رہیں گے اور تم کہتے ہو کہ یہودیت کی وصیت کی
 تھی۔ فرمایا.....

تِلْكَ أُمَّةٌ يٰ اِيْكُ گروہ تھا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت
 اسحاق ؑ کا کہ قَدْ خَلَتْ تحقيق وہ گزر گیا، دنیا سے چلا گیا لَهَا مَا كَسَبَتْ
 اس کے لئے ہے جو اس نے کمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لئے ہے جو تم
 نے کمایا وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے سوال نہیں کیا
 جائے گا جو وہ کرتے تھے۔

اور چونکہ ابراہیم ؑ کی شخصیت بین الاقوامی طور پر مسلم تھی اس لئے یہودی
 کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے لہذا تم یہودی بن جاؤ اور عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے لہذا

تم عیسائی بن جاؤ۔ اور مشرک کہتے تھے وہ ہمارے تھے ہر ایک فرقہ ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے.....

وَقَالُوا اور کہا انہوں نے كُونُوا هُودًا اَوْ نَصْرٰی ہو جاؤ تم یہودی یا نصرانی تہتدو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور قرآن کریم بڑی واضح کتاب ہے اس کے تیسرے پارے کے پندرہویں رکوع میں ہے.....

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ اے اہل کتاب! یہودیو اور نصرانیو! لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِیْ اِبْرٰهِيْمَ تَمَّ كِیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ کہ تم کہتے ہو کہ یہودی تھے یا نصرانی تھے وَمَا اُنزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهِ حَالًا لِّكَمْ تَتَّوَلَّوْنَ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ گئی توراہ اور انجیل مگر ان کے بعد اور توراہ کا مذہب یہودی تھا اور انجیل کا مذہب نصرانیت تھا اور توراہ ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال بعد نازل ہوئی ہے اور انجیل تقریباً ساڑھے تین ہزار سال بعد نازل ہوئی ہے تو وہ یہودی عیسائی کس طرح بن گئے؟۔ بڑی عجیب منطق ہے کہ کتاب اور شریعت بعد میں نازل ہوئی اور ان کو ماننے والا پہلے آ کہ چلا گیا.....

اللہ تعالیٰ کی ذات میں جھگڑا :

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ کیا تم اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے؟۔ هٰنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجِّجْتُمْ فِیْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ خبردار! تم نے جھگڑا کیا اس چیز میں جس کا تمہیں تھوڑا بہت کچھ علم بھی ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِیْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

پس کیوں جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے؟۔ وَاللّٰهُ
يَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے جو جانتا ہے وہ
کہہ رہا ہے.....

حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام موحد اور مسلم تھے :

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَام نہ یہودی
تھے اور نہ عیسائی وَ لَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا اور لیکن تھے وہ حنیف یعنی ہر
طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والے مسلمان اور موحد۔ اور مشرک تو تم بھی سن لو
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں ہے۔
اب بتاؤ کہ تم کس طرح کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ
گے؟۔

قُلْ اَبِي عَلَيْهِ السَّلَام کہہ دیں بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا بلکہ ہم ملت
ابراہیمی کی پیروی کریں گے جو ایک طرف ہونے والے تھے، موحد تھے، نہ یہودی
تھے، نہ عیسائی تھے اور نہ مشرک تھے۔

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں
سے۔ وہ موحد تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا تھا، ہم تو ان کی ملت کی
اتباع کریں گے۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا
أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ لَأُفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ
آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۗ
وَأِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۗ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهُ عِبِيدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ
أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ وَكُنَّا
أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهُ
مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ ۚ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا
هُودًا أَوْ نَصَارَى ۖ قُلْ أَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا
اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۰﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ
قَدْ خَلَتْ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا
كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۱﴾ ۚ

لفظی ترجمہ :

قُولُوا اور (اے مومنو!) کہہ دو اٰمَنَّا بِاللّٰهِ اِيْمَانِ لائے ہم اللہ
تعالیٰ پر وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری طرف
وَمَا اُنزِلَ اِلَىٰ اٰبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
وَالْاَسْبَاطِ اور اس پر جو نازل کی گئی اِبْرٰهِيْمَ، اِسْمٰعِيْلَ، اِسْحٰقَ، يَعْقُوْبَ
(ﷺ) اور ان کی اولاد اور اولاد کی طرف وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى
اور اس چیز پر (بھی ايمان لائے) جو دی گئی موسیٰ اور عیسیٰ (ﷺ) کو وَمَا
اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ اور (اس چیز پر بھی) جو دی گئی پیغمبروں کو مِنْ رَّبِّهِمْ

ان کے رب کی طرف سے لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ نہیں فرق کرتے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کے درمیان وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔

فَإِنْ آمَنُوا بِسِوَا اللَّهِ بِمَا كَفَرُوا كَمَا أَكْفَرُوا بِمَا آمَنُوا بِهِ جِيسَا كَه تَم اِيْمَان لَائِ هُو اَس كَه سَاتَه فَكَدِ اَهْتَدُوا پس تحقیق یہ ہدایت پا جائیں گے وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے روگردانی کی فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پس پختہ بات ہے وہ ضد اور مخالفت میں ہیں فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ پس عنقریب اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا آپ کے لئے ان سے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کا رنگ (اختیار کرو) وَمَنْ أَحْسَنُ اور کون بہتر ہے مِنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ سے صِبْغَةً رَنگ (کے لحاظ سے) وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ اور ہم اسی (اللہ تعالیٰ) کی عبادت کرنے والے ہیں۔

قُلْ آپ (ﷺ) فرمادیں اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا حالانکہ وہی ہمارا رب ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے وَكُنَّا

اَعْمَالُنَا اور ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں وَنَحْنُ لَكُمْ مُخْلِصُونَ اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔

اَمْ تَقُولُونَ کیا تم کہتے ہو؟ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاْلَاَسْبَاطَ کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب (ﷺ) اللہ ان کی اولاد اور اولاد گانوں اھودا اُو نصری یہودی تھے یا نصرانی قُلْ اَب (ﷺ) فرمادیں ء اَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ (زیادہ جانتا ہے) وَمَنْ اَظْلَمُ اور اس سے بڑا کون ظالم ہے مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً جَسَّ نَے چھپائی گواہی عِنْدَهُ مِنْ اللّٰهِ جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔

تِلْكَ اُمَّةٌ يٰۤاٰكُفْرُوْهُمَا قَدْ خَلَتْ تَحْقِیْقِ وہ گزر گیا لَهَا مَا كَسَبَتْ ان کے لئے ہے جو انہوں نے کمایا وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لئے ہے جو تم نے کمایا وَلَا تُسْئَلُوْنَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔

رَبِّكَ :

یہودی مسلمانوں کو کہتے تھے یہودی ہو جاؤ کہ نجات یہودیت میں ہے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ کہ نجات عیسائیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا تم کہو کہ ہم سب کو مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور جو دوسرے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوا سب کو مانتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق تھا لیکن آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پہلے تمام پیغمبروں کی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب ہدایت اور نجات صرف آخری پیغمبر کی اتباع میں ہے۔ ارشادِ باری ہے.....

قُولُوا آ اور (اے مومنو!) کہہ دو اٰمَنَّا بِاللّٰهِ اِيْمَانِ لائے ہم اللہ تعالیٰ پر وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری طرف وَمَا اُنزِلَ اِلَىٰ اٰبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلْاَسْبَاطِ اور اس پر جو نازل کی گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب (علیہم السلام) اور ان کی اولاد اور اولاد کی طرف۔

”سبط“ کا معنی :

”سبط“ کا معنی ہے ”اولاد کی اولاد اور آگے ان کی اولاد“ یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر ہوئے پھر آگے ان کی نسل میں اور جتنے پیغمبر تشریف لائے ان پر جو کچھ نازل ہوا ہم سب کو مانتے ہیں۔

وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى اور اس چیز پر (بھی ایمان لائے) جو دی گئی موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو۔ یعنی ان پر جو کچھ نازل ہوا توراہ، انجیل، معجزات اور دیگر صحیفے ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہاں تک تو مشہور و مخصوص پیغمبروں کا ذکر تھا آگے

تعمیم فرمادی، ارشاد ہے.....

وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ (اس چیز پر بھی ہمارا ایمان ہے)
جو دی گئی پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے۔ صحیفے اور کتابیں اور ہم تو اتنے وسیع
الصدر ہیں کہ.....

انبیاء علیہم السلام کی باہمی فضیلت :

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ (نہیں فرق کرتے ہم ان پیغمبروں میں سے
کسی ایک کے درمیان، ایمان لانے میں کہ ہمارا سب پر ایمان ہے کہ وہ اپنے، اپنے
زمانے میں اللہ تعالیٰ کے برحق پیغمبر تھے البتہ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ان میں
کمی بیشی ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (یہ پیغمبروں کا گروہ ہے ہم نے
بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور اسی طرح چند روئیں پارے میں آتا ہے۔ ارشاد
ربانی ہے.....

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا
اور البتہ تحقیق ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی اور داؤد (علیہ السلام) کو ہم نے
زبور عطا کی۔ تو پیغمبروں کے درجات میں کمی بیشی ہے۔ سب سے بلند اور اعلیٰ درجہ
ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے بعد درجہ اور مقام
ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد درجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا تو
درجات میں تو فرق ہے۔ ان پر ایمان لانے میں ہم تفریق نہیں کرتے جس طرح
یہودی کہتے تھے۔

نُومِنُ بَعْضٌ وَنَكْفُرُ بَعْضٌ. بعض کو ہم مانتے ہیں مثلاً موسیٰ علیہ السلام کو اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے ہو کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اس کو نبی کیا مانیں گے؟ یہ تو حلال زادہ ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ تو یہ تفریق ہم نہیں کرتے۔

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ ہم نے اپنی گردنیں رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دی ہیں۔
اس سے پہلے تین گروہوں کا ذکر تھا.....

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان معیاری ہے :

①..... یہود ②..... نصاریٰ ③..... اور ضمناً مشرکین کا۔

کہ یہ سارے مسلمانوں کو اپنے، اپنے مذہب کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ہم تو قاعدے کے مطابق سب کو مانتے ہیں اور تم نہیں مانتے۔ پس تم ان سے کہو کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اس کے ساتھ فَقَدْ اهْتَدَوْا پس تحقیق یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین تمہارے جیسا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت حاصل ہوگی۔

وَأَنْ تَسْأَلُوا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ اور اگر انہوں نے روگردانی کی پس

پختہ بات ہے وہ ضد، مخالفت اور بد بختی ہے۔ اور جو حضرات دوسروں کے لئے معیار ہیں۔ وہ ثقہ، عادل، متقی، پرہیزگار ہیں۔ اور ان پر جرح و اعتراض جائز نہیں ہے۔

①..... چنانچہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ”مرقات شرح مشکوٰۃ“ میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اور سنت اور معتمد لوگوں کے اجماع کے ظاہری الفاظ اور عبارتیں۔ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام کے تمام عادل اور ثقہ ہیں۔

②..... امام ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”اسد الغابہ“ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں۔ ان پر جرح نہیں کی جا سکتی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعدیل اور پاکدامنی بیان فرمائی ہے۔ اور جو حضرات عادل، ثقہ، ایمان اور عمل میں معیار ہیں۔ ان کی اتباع واجب ہے۔

③..... چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”اقامۃ الدلیل“ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع واجب الاتباع ہے۔

④..... اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ”فتح الباری شرح صحیح بخاری“ میں لکھتے ہیں کہ ”اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع حجت ہے۔“

⑤..... اور مشہور غیر مقلد عالم مولانا حافظ محمد عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ ”ضمیمہ رسالہ اہل حدیث“ میں لکھتے ہیں کہ اقوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے استدلال کرنا ٹھیکہ (خالص) اسلام میں داخل ہے۔ یہ تو اہل حق کی

عبارتیں ہیں کہ صحابہ کرام عادل اور ثقہ ہیں۔ اور راہِ حق کی دلیل ہیں۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مذہبی اعتبار سے یہودیوں کے اکہتر فرقے بنے اور نصاریٰ کے تھوڑے سے وقت میں بہتر فرقے بنے اور امیری امت میں تہتر فرقے بنیں گے۔ یہ امت کسی سے پیچھے رہنے والی نہیں ہے۔ فرمایا.....

كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ان تہتر فرقوں میں سے ایک فرقہ ہوگا جس کو اوّل تا آخر دوزخ سے نجات ملے گی باقی بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ روایت ابو داؤد، ترمذی اور مشکوٰۃ وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ البتہ دوزخ میں جانے کی تفصیل ہے۔ کیونکہ ان بہتر میں سے وہ بھی ہوں گے جن کا افتراق کفر اور شرک کی حد تک پہنچا ہوا ہوگا۔ ایسے لوگ تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا افتراق کفر و شرک تک نہیں پہنچا ہوگا بلکہ بدعت اور معصیت تک محدود ہوگا۔ ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے مگر کسی نہ کسی وقت ان کو رہائی مل جائے گی۔ اور جو اوّل تا آخر دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا وہ صرف ایک فرقہ ہوگا۔

قَالُوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ اے اللہ کے رسول! (ﷺ) وہ کون سا فرقہ ہوگا جو اوّل تا آخر دوزخ سے بچا رہے گا یعنی اس کی پہچان کیا ہوگی؟۔

قَالَ آنحضرت ﷺ نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جو میرے

طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ہوگا۔ یعنی میرے راستے پر چلنے والا ہوگا اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلنے والا ہوگا مَا أَنَا عَلَيْهِ سے مراد آنحضرت ﷺ کی سنت ہے۔ وَأَصْحَابِي سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے۔ آنحضرت ﷺ کی سنت پر چلنے والے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے اور اسی حدیث کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہیں۔ جو آنحضرت ﷺ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔

”اہل سنت“ کا مطلب :

چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں فرماتے ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ.....

”اہل سنت: وہ ہیں جو آنحضرت ﷺ کے طریقے پر چلیں اور والجماعت، وہ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے نقش قدم پر چلیں تو اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو آنحضرت ﷺ کی سنت پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اب تم فیصلہ خود کر لو کہ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو ”سنی“ کہلاتے ہیں جو کام وہ کر رہے ہیں کیا وہ کام آنحضرت ﷺ نے کئے ہیں، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کئے ہیں؟۔ حاشا وکلا۔ یہ کام آنحضرت ﷺ نے کئے ہیں۔ اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کئے اور ان کا کہیں تصور بھی نہیں ملتا۔ لہذا ان لوگوں کا اہل سنت والجماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اہل بدعت اور اہل ہوئی ہیں اور خواہ مخواہ اپنے ساتھ یہ لفظ چسپاں کر لیا ہے۔

اور یہ بدعات، تیجا، ساتا، دسواں اور چالیسواں اور عرس اور برسی اور قبروں پر چراغاں

کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں نہیں تھا۔ حالانکہ اس وقت لوگ مرتے بھی تھے، شہید بھی ہوتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ان کو سب سے زیادہ تھی اگر یہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ضرور کرتے اور آخرت کی فکر بھی ان کو زیادہ تھی۔ لہذا یہ تمام کی تمام خرافات ہیں۔ قرآن اور سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے، ثواب نہیں۔

”عید میلاد“ اور اس کے تین بانی :

① اور عید میلاد کا جلوس تو کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا ہے میری عمر کے جو بوڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عید میلاد کا جلوس ہمارے سامنے شروع ہوا ہے۔ اور میرے اس درس کے دینے تک اس کا بانی شیخ عنایت اللہ قادری زندہ ہے۔ یہ پہلے ہندو تھا اور ”رام لیلی“ کا جلوس نکالا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی مسلمان ہونے کے بعد اس نے ”عید میلاد“ کا جلوس نکالنا شروع کر دیا۔ کبھی لاہور جاؤ تو کشمیری بازار میں جا کر دیکھو اس کے مکان پر لکھا ہوا ہے ”شیخ عنایت اللہ قادری بانی جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم“۔ اب ۲ ذوالقعدہ ۱۴۲۲ھ ۲۱ جنوری ۲۰۰۲ء کو وہ فوت ہو گیا ہے۔

② اور دو آدمی اس کے ساتھ اور تھے ایک ”مولوی عبدالحجید“ جو ”پٹی“ کا رہنے والا تھا اس کا ایک رسالہ بھی نکلتا تھا ”ایمان“۔

③ اور تیسرا ”عبدالقادر“ تھا جس بیٹا ”شجاع“ لاہور کا میئر بھی رہ چکا ہے۔ ان تینوں آدمیوں نے عید میلاد کا جلوس شروع کیا جس کو آج کل لوگ دین بنائے پھرتے ہیں۔ یہ کام تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تصور میں بھی نہیں تھے۔ تو صحابہ کرام

خدا تعالیٰ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے۔ فرمایا.....

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس عنقریب اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا آپ کے لئے ان سے۔ دوسری جگہ فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے؟۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔

توحید کا رنگ :

یہودیوں اور عیسائیوں کے کچھ پانی ہوتے تھے ”رنگدار“۔ ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس چشمے میں اس کو غسل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

صِبْغَةَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کا رنگ (اختیار کرو) کیونکہ اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور کون بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے رنگ کے لحاظ سے۔ یعنی توحید والے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہے؟۔ جس کو توحید سمجھ آگئی اور وہ موحد بن گیا ایمان کی دولت حاصل ہوگئی۔ اور دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا تو یہ حقیقی رنگ میں رنگا گیا کیونکہ اصل رنگ تو یہ ہے۔ ظاہری طور پر بدن رنگنے سے اور کپڑے رنگنے سے کیا فائدہ ہوگا؟۔ اصل رنگ تو یہ ہے کہ دل توحید و سنت والے عقیدے سے رنگا ہو۔ تو کامیابی ہے۔

وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ اور ہم اسی (اللہ تعالیٰ) کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور تم جس کی چاہو عبادت کرو۔ قُلْ آيِبٌ إِلَيْهِمْ (مَلِكٌ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ) فرمادیں اَتُحَاجُّونَنَا

فِي اللَّهِ كَيْتَمٌ هَمَارٌ سَاتَهُ جَهْمٌ اَكْرَتَهُ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى كَ بَارِئِ مِيں؟ اس كى توحيد كَ مَتَلَقْ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حَالَانِ كِهْ وَهِي هَمَارُ رَبِّ هِيْ اُور تَمَهَارَا بِيْ رَبِّ هِيْ۔ هَمِيں بِيْ وَهِي پَالَتَا هِيْ اُور تَمَهِيں بِيْ وَهِي پَالِنِ وَالَا هِيْ۔

وَلَنَا اَعْمَالُنَا اُور هَمَارِئِ لِنِ هَمَارِئِ اَعْمَالِ هِيں وَلكُمْ اَعْمَالِكُمْ اُور تَمَهَارِئِ لِنِ تَمَهَارِئِ اَعْمَالِ هِيں وَنَحْنُ لَهْ مُخْلِصُونَ اُور هَم تُو خَالِصِ اِسِي كَ هِيں۔ هَم مَنَافِقِ اُور دُور نِگَ نَهِيں هِيں۔ هَم تُو خَالِصِ رَبِّ تَعَالٰى كَ حَضُورِ جَهْمِنِ وَالِئِ هِيں۔ پَهْلِئِ يِهْ بَاتِ كَزِ رِجْلِيْ هِيْ كِهْ يَهُودِيْ كِهْتِئِ تَهْ كِهْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَهُودِيْ تَهْ اُور عِيْسَايِئِ كِهْتِئِ تَهْ كِهْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِيْسَايِئِ تَهْ اُور مُشْرِكُونَ كَا دَعْوِيْ تَهَا كِهْ وَهْ هَمَارِئِ تَهْ اللّٰهُ تَعَالٰى نِ اِنِ سَبِ كَارِ دُفْرَا يَا هِيْ۔

انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام کا دین :

اَمْ تَقُولُونَ كَيْتَمٌ هُو؟ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطَ كِهْ بَشَرٌ اِبْرَاهِيْمِ اُور اِسْمَاعِيْلِ اُور اِسْحٰقِ اُور يَعْقُوبِ (عليه السلام) اُور اِنِ كِيْ اُولَادِ دُورِ اُولَادِ كَانُوا هُودًا اَوْ نَصْرٰى يَهُودِيْ تَهْ يَانَصْرَانِيْ قُلْ اَبِئِ (صَلَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَرَمَادِيں، تَمِئِ يِهْ كِهْتِئِ هُو، بَتَاؤُءِ اَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمْ اللّٰهُ كَيْتَمٌ زِيَادَهْ جَانْتِئِ هُو يَا اللّٰهُ تَعَالٰى (زِيَادَهْ جَانْتَا هِيْ)۔ رَبِّ تَعَالٰى نِ تُو اِنِ فَيَصْلَهْ سَنَا دِيَا هِيْ جَسِ كَا تَمِيْرِئِ پَارِئِ مِيں ذَكَرِئِ هِيْ۔

بَمَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِبْرَاهِيْمَ (عليه السلام) نِهْ يَهُودِيْ تَهْ، نِهْ نَصْرَانِيْ تَهْ اُور نِهْ مُشْرِكِيْنَ مِيں سِئِ تَهْ اُور لِيكِنِ وَهْ اِيكِ طَرْفِ هُو كَرِئِئِ وَالِئِ مُسْلِمَانِ تَهْ يِهْ

تمہارے خالی دعوے ہی دعوے ہیں۔ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے اور نہ ہی وہ مشرک تھے اس کے باوجود تم اس بات کو چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً أُوْرَاسِ سَ بَرَاكُونِ ظَالِمٍ هَ بَ جَس
 نَ چھپائی گواہی عِنْدَهُ مِّنَ اللّٰهِ جَوَاسِ كَ پَاسِ هَ اللّٰهُ تَعَالَى كِ طَرَفِ سَ
 وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اُورِ نَیْسِ هَ اللّٰهُ تَعَالَى غَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ اِن كَامُونَ
 سَ جَوْتَم كَرْتِ هُو۔ اس كَا پَھل تَمہیں مَلِے كَا، فَرَمَايَا.....

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و نزول :

تِلْكَ اُمَّةٌ يٰۤاِكْ رُوْه تَهَا اِن بَزْرُكُونَ كَا جِن كَا اُوْرِ ذَكْرُ هُوَا هَ۔ حضرت
 ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ (علیہم السلام)
 قَدْ خَلَتْ تَحْقِیْقِ وَه كَزْرُكِيَا۔ یہ حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام كَ علاوہ تو وفات پا گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زنده آسمانوں پر اٹھائے
 گئے ہیں۔ اور ان كِ حیاتِ قَطْعِي دَلَالِ كَ سَا تَمَّه ثَابِتِ هَ۔ ان كِ حیات كَا مَنكِرِ پَكَا
 كَا فَرِ هَ اُورِ اس كَ كَفْرِ مِیْنِ جَوَشَك كَرِے وَه بَھي كَا فَرِ هَ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 قِيَامَتِ سَ پَھلِے آسْمَانِ سَ نَا زَلِ هُونِ گَے اُورِ ان كَا يَہ نَا زَلِ هُونَا قِيَامَتِ كِ بَرِي
 نَشَانِيُونِ مِیْنِ سَ اِيَكِ نَشَانِيِ هَ۔ اور وہ نازل ہونے كَ بَعْدِ چَالِبِسِ سَالِ تَكِ زَمِيْنِ
 پَرِ هِیْنِ گَے اُورِ دُنْيَا كُو عَدْلِ وَا نَصَافِ سَ بَھَرِ دِیْنِ گَے۔ يَہودِيْتِ اُورِ عِيسَايِيْتِ كَا صَفَايَا
 كَرِ دِیْنِ نَے سَرَفِ اِسْلَامِ هِي اِسْلَامِ رِ هَے كَا۔ حَجَّ وَا عَمْرَہ بَھي كَرِیْنِ گَے پَھَرِ ان كِ وَفَاتِ
 هُوْگِي اُورِ اُپ سَلِيْبِيْنِ كَ رُوْضِ اَقْدَسِ مِیْنِ ان كُو دَفِنِ كِيَا جَاے كَا يَہ سَبِ قَطْعِي چِيزِيْنِ

ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ اِن كے لئے ہے جو انہوں نے کمایا وَلَكُمْ مَا
 كَسَبْتُمْ اور تمہارے لئے ہے جو تم نے کمایا وَلَا تُسْئَلُونَ اور تم سے نہیں
 پوچھا جائے گا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے
 تھے۔ وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو ہر ایک کا نتیجہ
 اس کے اعمال کے مطابق مرتب ہوگا۔

کتابچہ پبلسٹری کتب خانہ:

مولانا محمد نوید ساجد

Mob:0334-4422751

اللهم اغفر لکاتبه ولوالديه ولاساته وللؤمنين

